

اولیاء اللہ کے اخلاق اور حالات و اقوال پر عمل صوف
کی اہم مردمی کتاب تنبیہ الْمُعْتَدِينَ کا اردو ترجمہ

آحوال الصادقین

حضرت امام عبد الدوہ باشیر رانی ﷺ

حضرت مولانا جبیر حبیب حبیب اکیر لونی ﷺ

الدارہ الاسلامیات
کراچی - لاہور

اولیاء اللہ کے حالات، اخلاق اور اقوال پر عمل تصوف
کی اہم عربی کتاب تہذیبۃ المعنیین کا اردو ترجمہ

أحوال الصادقين

حضر امام عَبْدُ الْوَهَابِ شَعْرَانِ قَدَّسَ اللَّهُ سَلَّمَ وَسَلَّمَ

حضر مولانا جبیر احمد صاحب اکیر انوی

امارہ اسلامیات

کراچی - لاہور

پہلی بار : ذوالقعدۃ ۱۴۲۷ھ
 اہتمام : اشرف برادران سلمہم الرحمن
 ناشر : ادارہ اسلامیات کراچی - لاہور

ملنے کے پتے

- ☆ ادارہ اسلامیات : موہن روڈ، چوک اردو بازار، کراچی (فون: ۰۲۱۲۲۲۰۰۱)
- ☆ ادارہ اسلامیات : انا رکی، لاہور (فون: ۰۵۳۲۵۵۷)
- ☆ ادارہ اسلامیات : دینا تھیمنشن، شارع قائد اعظم، لاہور (۰۳۲۳۳۱۲)
- ☆ ادارۃ المعارف : ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳
- ☆ مکتبہ دارالعلوم : جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳
- ☆ دارالاشاعت : ائمماں جناح روڈ، کراچی
- ☆ ادارہ تالیفات اشرفیہ : بیرون بوہرگیٹ ملتان شہر
- ☆ ادارہ تالیفات اشرفیہ : جامع مسجد تھانیووالی ہارون آباد بہاولنگر
- ☆ بیت القرآن : اردو بازار کراچی
- ☆ بیت الکتب : نزد اشرف المدارس گلشنِ اقبال کراچی
- ☆ بیت العلوم : نامہ روڈ، پرانی انا رکی، لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	فہرست مضمایں
۹	پیش لفظ
۱۱	باب اول
۱۲	اتباع کتاب و سنت
۱۸	اہمیت اتباع سلف
۲۰	اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا
۳۶	علم و عمل میں اخلاص
۳۸	جاہ طلب لوگوں سے ترک اختلاط
۵۳	ترک نفاق
۵۸	حاکموں کے ظلم پر صبر کرنا
۶۳	غیرتِ اسلامی
۷۶	دنیا سے دل نہ لگانا
۷۸	شوq آخرت
۸۱	خوف و خشیتِ خداوندی
۸۰	حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام
۸۵	آخرت کے ہولناک واقعات پر رونا اور ڈرنا
۸۸	بیماریوں میں توجہ الی اللہ
۹۷	جنائزہ دیکھنے پر عمل سلف


صفحہ نمبر	فہرست مضمایں
۹۹	موت کی تنگی اور سختی کو یاد کرنا
۱۰۵	دنیا پر عبرت کی نظر
۱۰۸	نصیحت و خیرخواہی اہل اسلام
۱۱۲	تواضع و انکساری
۱۱۵	عفو اور درگذر کرنا
۱۱۷	اکرام و احترام اہل اسلام
۱۱۸	گھروالوں سے حسن سلوک
۱۲۳	ترک ریاست و حب جاہ
۱۲۵	نصیحت و خیرخواہی اہل اسلام
۱۲۸	ہر شخص کا ادب و احترام
۱۳۳	خوف سوء خاتمه
۱۳۴	تجدد پر دوام
دوسرے اباب کچھ اور اخلاق کے بیان میں	
۱۵۰	کسر نفس اور تواضع
۱۵۱	استحضار جلال خداوندی
۱۵۲	نرم خوبی
۱۵۳	کم کھانا
۱۵۴	اهتمام اصلاح
۱۵۵	علم پر عمل

صفہ نمبر	فہرست مضمایں
۱۵۵	منافقوں کے ساتھ حسن سلوک
۱۵۶	حسن ظن باہل اسلام
۱۵۷	شکر و استغفار دربارہ حسد
۱۵۸	منصفانہ بر تاؤ
۱۶۰	اتباع شریعت
۱۶۱	ادب استاذ
۱۶۲	اپنے اعمال کی تحریر
۱۶۳	ترک انتظار ہدایا
۱۶۵	مہمان نوازی
۱۶۶	اہتمام اکل حلال
۱۶۷	حافظت مراقبہ نفس
۱۷۰	وقت ضرورت جمع مال
۱۷۲	خیر خواہی مرید
۱۷۳	ترجیح دین بر دنیا
۱۷۵	سخاوت و انفاق مال
۱۷۸	زیارت قبور
۱۸۳	کثرت ذکر الہی
۱۸۶	کم سونا
۱۸۷	رقت قلب گریہ و بکا
۱۹۰	محاسبہ نفس
۱۹۵	طول امل سے احتراز

صفحہ نمبر	فہرست مضمایں
۱۹۹	مخلوق پر شفقت
۲۰۲	ترکِ جدال
۲۰۳	اپنے نفس پر سوء ظنی
۲۰۴	سمی برائے رفعِ حجاب
۲۰۵	عدم طلب قبول دعا
۲۰۷	امتحانِ محبت نفس
۲۰۷	گناہ گاروں پر رحم
۲۱۰	قناعت
۲۱۲	دنیا سے بے رغبتی
۲۱۵	تعظیم حکم الہی
۲۱۶	ترک و قوت دنیا
۲۱۹	استحیاء
۲۲۳	دنیا سے بے تعلقی
۲۲۵	حسن ظن بالملین
۲۲۶	تحصیل رزق کے لئے ترک اہتمام
۲۲۹	مصادیب پر صبر کرنا
۲۳۰	احترام معاصرین
۲۳۱	خدا و رسول کی محبت
۲۳۳	دنیاوی مزاجتوں پر خوشی
۲۳۵	سادہ لباس
۲۳۸	ترک اسراف و اقتضاد
۲۳۹	تو اصلی بالحق

فہرست مضمایں

صفحہ نمبر	
۲۲۷	شرط تو اسی
۲۲۸	تحقیر اعمال خود
۲۵۳	علم پر عمل کی ضرورت
۲۶۷	حکام سے علیحدگی
۲۷۳	حقوق العباد کا لحاظ
۲۷۴	اخفاء کرامت
۲۷۶	عبدہ قضا سے بچنا
۲۷۸	تفقد احباب
۲۸۱	شیطان کا مقابلہ
۲۸۲	تکبیر سے اجتناب
۲۸۹	نفاق سے احتراز
۲۹۱	قلت اکل



پیش لفظ

”تنبیہ المغترین“ نامی جس کتاب کا ترجمہ ”احوال الصادقین“ کے نام سے اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے یہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۹۷۶ھ کی تصنیف ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی ”اپنے زمانے کے معروف علماء اور صوفیاء میں سرفہرست تھے، اور ان کی تحریر کردہ کتابوں کے مضمایں اس وقت سے لیکر آج تک کے علماء اور صوفیاء کے لئے سُرمه نور اور منارہ ہدایت ہیں۔ امام شعرانی ”علم ظاہرو باطن“ کے جامع تھے، ان کی کتابوں میں بھی علم ظاہر یعنی فقہ اور علم باطن یعنی تصوف کی جامعیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اسی لئے ان کی کتابیں علماء اور صوفیاء دونوں طبقوں میں قابل احترام سمجھی جاتی ہیں۔

ادارہ اسلامیات کو بحمد اللہ یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان کی مستند کتابوں کے اردو ترجموں کی نشر و اشاعت کی خدمت انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادارہ اسلامیات کی طرف سے اس سے قبل دو کتابیں:

۱۔ ہم سے عہد لیا گیا ترجمہ البحر المورود فی المواثیق والعقود

۲۔ آداب بندگی ترجمہ آداب العبودیة

شائع ہو کر محبت کرنے والوں کے دلوں کی ٹھنڈک بن چکی ہیں، اب یہ تیسرا کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا اصل عربی نام ”تنبیہ المغترین“ ہے۔
تنبیہ (تَنْبِيَهٌ) = خبردار کرنا۔ تنبیہ کرنا۔

المغترین (مُغْتَرِّينَ) = وہ لوگ جو دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت کا صحیح علم نہ ہونے اور سلف صالحین

کے اقوال و افعال کے بارے میں درست علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ دھوکہ میں
بمتلا ہو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے درست راستے سے ہٹ کر اس دھوکہ میں بمتلا
ہو جاتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اگر انہیں اولیاء اللہ کے اقوال، احوال اور افعال و
اعمال کا درست علم ہوتا تو وہ اس دھوکہ سے نکل کر اپنی دنیا و آخرت درست کر کے صحیح معنی
میں واصل بحق ہو سکتے تھے۔

اپنے زمانے کے مجدد حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ
نے امام شعرائیؒ کی کتابوں کی طرف علماء اور صوفیاء کو متوجہ کر کے اردو میں ان کا ترجمہ
کروایا تھا۔ چنانچہ اس کتاب کا ترجمہ بھی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ کی خصوصی کوشش
اور تحریک سے حضرت مولانا جبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جو ۱۳۹۵ھ میں
پہلی بار شائع ہوا۔

الحمد للہ کہ اس وقت اس کی اشاعت جدیدہ ادارہ اسلامیات کے حصہ میں آئی
ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائیں۔ مصنف، مترجم، معاون، ناشر اور
وہ تمام حضرات جنہوں نے اس کتاب میں کوئی بھی خدمت انجام دی ہے عند اللہ اجر و
ثواب کے مستحق ہوں۔

احقر محمود اشرف غفران اللہ

۱۴۲۷/۷/۲۰

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول

اتباع کتاب و سنت

۱- اللہ والوں کے صالح اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کتاب و سنت کے یوں ساتھ رہے جیسے سایہ (سایہ والی) شے کے ساتھ رہتا ہے، (یعنی کسی حالت میں کتاب و سنت کونہ چھوڑے اور ہر حالت میں ان پر عمل پیرا رہے) اور مند ارشاد پر اسی وقت ممکن ہو جبکہ علوم شرعیہ میں یوں تبحیر پیدا کر لے کہ جو نہ اہب مث چکے ہیں اور جو ہنوز رانج ہیں سب کی ادلہ پر مطلع ہو جاوے۔ اور مجالس مناظرہ میں علماء کو دلائل قطعیہ یا ظنیہ راجحہ واضحہ سے خاموش کر سکے، اس جماعت کی کتابیں اس مضمون سے لبریز ہیں، اور یہی مضمون ان کے اقوال و افعال سے بھی ظاہر ہے۔

سید الطائفہ امام ابوالقاسم جنید فرمایا کرتے تھے کہ ہماری کتاب یعنی قرآن سب کتابوں کی سردار اور سب سے جامع تر ہے اور ہماری شریعت سب شریعتوں سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ دقیق ہے، اور ہمارا طریقہ یعنی اہل تصوف کا طریقہ کتاب و سنت سے مدد ہے) اس لئے (اس طریق کی رہنمائی کا وہی شخص مستحق ہے جو کتاب و سنت سے واقف ہو اور) جو نہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ حدیثوں کا حافظ ہے اور نہ ان کے معانی سمجھتا ہے اس کا اتباع صحیح نہیں ہے۔ نیزوہ فرماتے تھے کہ جو علم بھی آسمان سے نازل ہوا ہے اور غیر نبی کو اس کی طرف راہ ہوئی ہے اس میں مجھے بھی خدا نے ایک معتقد بہ حصہ ضرور عطا فرمایا ہے، نیزوہ اپنے احباب سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے

کہ اگر تم کسی کو ہوا پر پلوچی مارے دیکھو تو بھی اس کا اتباع نہ کرو یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ وہ امر و نبی کے موقع پر کیا کرتا ہے۔ اب اگر تم دیکھو کہ وہ تمام اور امر الہیہ کا منہیات سے احتراز کرتے ہوئے اتباع کرتا ہے تو اس کے معتقد ہو جاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اور اگر تم اس کو دیکھو کہ وہ مامورات کو عمل میں نہیں لاتا اور منہیات سے احتراز نہیں کرتا تو اس سے احتراز کرو۔ انتہی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ خلق اس زمانہ کے صوفیوں میں نادر ہو گیا ہے۔ اور اب تصوف کا یہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک شخص ایسے شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے جس کو طریق میں کچھ بھی دخل نہیں۔ اور اس سے فنا و بقا و شیطخ کے ایسے کلمات سیکھ لیتا ہے جس کی کتاب و سنت بتائید نہیں کرتی۔ پھر وہ ایک جبہ پہن لیتا ہے اور ایک بڑا سا شملہ چھوڑ لیتا ہے، اس کے بعد وہ بلا دروم وغیرہ کا سفر کرتا ہے اور (وہاں جا کر) خاموشی اور بھوک ظاہر کرتا ہے۔ (یعنی نہ کچھ بولتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے تاکہ لوگ معتقد ہو جاویں اور اس کی شہرت امراء تک پہنچ جاوے) پس وہ (اس ڈھونگ سے) اپنے لئے وظیفہ یا حق حقوق کا طالب ہوتا ہے اور اس میں وزراء امراء سے توسل کرتا ہے۔ (اور ان تک رسائی کے لئے خاموشی و گرنگی کا ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ پس یہ حاصل ہے اس کی ریاضت کا) اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ (دھونکے میں آ کر) اس کے لئے کچھ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو حرام طور پر کھاتا ہے، کیونکہ اس نے اس مال کو حکام کو دھوکہ دے کر اور ان کے اس کو نیک سمجھنے کی وجہ سے حاصل کیا ہے (جو کہ خلاف واقع ہے، لہذا وہ مال حرام اور اس کا کھانا ناجائز ہوا۔ پس یہ حاصل ہے اس زمانہ کے تصوف اور اس کی غایت کا۔ (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

ان لوگوں میں کا ایک شخص جو کہ بغیر علم اور بدون ذوق کے فنا و بقا کے مباحثت میں گھستا تھا اور اس کے ساتھ اس کے معتقدین کی بھی ایک جماعت تھی، میرے پاس آیا اور چند روز تک برابر میرے پاس آتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ آپ بتائیے کہ وضوا و نماز کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ

بھی علم نہیں پڑھا، تب میں نے اس سے کہا کہ بھائی عبادات کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح کرنا بالاجماع واجب ہے، اور جو شخص واجب اور مستحب میں فرق نہ کرے اور نہ حرام اور مکروہ میں امتیاز کرے وہ جاہل ہے، اور جاہل کی پیروی نہ طریق ظاہر میں جائز ہے اور نہ طریق باطن میں۔ اس پر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہیں دیا، اور اس روز سے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اس شخص نے مجھے اپنے سوء ادب سے بری طرح تباہ کیا تھا، سو خدا نے مجھے اس سے نجات دی۔ (والحمد لله علی ذلک)

اور سیدی علی الخواص فرمایا کرتے تھے کہ اس جماعت کا طریقہ کتاب و سنت پر (پیش کر کے) یوں منقح کیا ہوا ہے جیسے سونے اور جواہر کو پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ان کی حرکت و سکون میں معیار شرعی کے موافق ٹھیک نیت ہوتی ہے (اور ان کی کوئی حرکت اور کوئی سکون جو حدود طریق میں ہو، خلاف شریعت نہیں ہوتا۔ احياناً کسی معصیت کا صادر ہو جانا بحث سے خارج ہے) مگر (یہ بات ہر ایک کو نہیں معلوم ہو سکتی ہے بلکہ) اسی کو معلوم ہوتی ہے جو علوم شریعت میں تحرر کھتا ہو، کیونکہ بعض اوقات ان کے افعال ایک امام کے خلاف ہوتے ہیں اور دوسرے کے موافق، اور ان کے نزدیک اس مسئلہ میں اس امام کی رائے رانج ہوتی ہے، اس لئے ان کا فعل حد شریعت کے اندر ہوتا ہے، مگر جن لوگوں کو دوسرے امام کا قول معلوم نہیں، وہ ان کے فعل کو خلاف شریعت سمجھ کر بدظن ہو جاتے ہیں، برخلاف تحریر کے وہ سمجھتا ہے کہ ان کا یہ فعل حد شریعت کے اندر ہے۔ علی ہذا ان کے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو بعض حالات میں جائز اور بعض میں ناجائز ہیں، اور کم علموں کو ان کے بعض حالات میں جائز ہونے کا علم نہیں ہوتا، اس لئے وہ ان کے فعل پر خلاف شرع ہونے کا حکم کر دیتے ہیں مگر تحریر سمجھتا ہے کہ یہ فعل مطلقاً ناجائز نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں جائز بھی ہے، اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ ان کا فعل خلاف شریعت نہیں۔ وہکذا)

میں کہتا ہوں (کہ جب واقعہ یہ ہے) تو جو شخص کہتا ہے کہ طریق صوفیہ کو نہ کتاب لائی ہے اور نہ سنت، وہ جھوٹ کہتا اور افتاء کرتا ہے، اور اس کا رقمل اے کے

بہت بڑے جاہل ہونے کی بڑی علامات میں سے ہے، کیونکہ جماعت صوفیہ کے نزدیک صوفی کی حقیقت صرف یہ ہے کہ وہ عالم ہے جو اپنے علم پر محض اخلاص سے (اور بلا کسی نفسانی غرض کے) عمل کرتا ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ علی ہذا اس کا انہائی مقصود جو وہ اپنے مریدین سے بذریعہ مجاہدات یعنی روزہ، بیداری، گوشہ نشینی، خاموشی، ورع زہد وغیرہ وغیرہ حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ عبادات کو اس طریق پر عمل میں لائیں جس پر ان کے سلف صالح تھے، اور اس کے سوا ان کا کچھ مقصود نہیں تو ایسی حالت میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ان کا طریق کتاب و سنت سے ثابت نہیں، لیکن جبکہ سلف کا طریق اس پر چلنے والوں کے مث جانے سے مٹ گیا (اور نااہلوں نے اس میں بدعتیں اختراع کر کے اس کو ایک طریق محدث بنادیا) تو بعض لوگوں نے اسی کو طریق تصوف سمجھ کر اور بوجہ ان لوگوں کی کمی کے جواہل طریق کی صفات سے متصف ہوں، یہ سمجھ لیا کہ طریق صوفیہ شریعت سے خارج ہے جیسا کہ ہم نے اس بحث کو بسط کے ساتھ اپنی کتاب ”المنهج المبين فی بیان اخلاق العارفین“ میں بیان کیا ہے۔

پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے (اور نہ بے ہوئے صوفیوں کے قول فعل سے دھوکہ کھانا چاہئے اور نہ ناواقفوں کے طریق تصوف کو خلاف شریعت کہنے پر التفات کرنا چاہئے بلکہ طریق تصوف کو اس معیار پر حاصل کرنا چاہئے جو پیچھے بتایا ہے (یعنی اتباع کتاب و سنت کے ذریعہ سے)۔ والحمد لله رب العالمین

اہمیت اتباع سلف

- ۲ - اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت تک کسی قول اور کسی فعل کے اختیار پر جرات نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس کی حیثیت کو کتاب و سنت یا عرف (یعنی تعامل سلف) کے مطابق (بخوبی) نہ سمجھ لیں، (اور نہ جان لیں کہ آیا کتاب و سنت یا تعامل سلف کی بناء پر اس کا اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پس جبکہ وہ اس طرح جائز کر خوب اطمینان کر لیتے ہیں اس وقت اس کے اختیار پر جراءت کرتے

ہیں۔ کتاب و سنت کے ساتھ ہم نے عرف کا بھی ذکر کیا ہے سو) اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف (یعنی تعامل) بھی مجملہ (ادله) شریعت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ : ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعِرْفِ﴾ یعنی عفو کو اختیار کرو اور عرف کے مطابق حکم کرو، (اور چونکہ عرف سے مراد ہر عرف نہیں ہے بلکہ وہی عرف ہے جو خلاف کتاب و سنت نہ ہو) لہذا معلوم ہوا کہ صوفیہ اپنے اقوال و افعال میں محض اپنے زمانہ کی رواج پر اکتفاء نہیں کرتے، کیونکہ اس قول فعل راجح میں بھی یہ احتمال ہے کہ وہ مجملہ ان بدعاں کے ہوں جن کی نہ کتاب شہادت دیتی ہے اور نہ سنت، اور (اس بناء پر وہ بدعت مردود ہو جو کہ تعامل شرع کے مشابہ ہو گئی ہے۔) حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سنت (اپنے متروک ہو جانے کے سبب لوگوں کی نظر میں) بدعت نہ ہو جائے اور یہ حالت نہ ہو جائے کہ جب کوئی بدعت چھوڑی جائے تو لوگ کہیں کہ سنت چھوڑ دی گئی (اور ایسا ہونا ممکن ہے) کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ سے ایک بدعت کو لیتی رہتی ہے، پھر جبکہ بدعتوں کے تعامل کا زمانہ دراز ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سنت انہی سنتوں میں سے ہے جن کو جانب رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا ہے، (اور اس لئے سنت متروک کہ بدعت سمجھی جاتی ہے، اور بدعت مروجہ سنت۔ پس یہ لوگ محض رواج کو کوئی شے نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ بدعاں مروجہ میں سے ہیں یا سنن متوارثہ میں سے؟ اور صوفیہ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کا طرزِ عمل یہ ہے کہ جب اس کو ایک عمل کی دلیل کتاب سے اور اس سنت سے جو کتب حدیث و سیر وغیرہ میں ثابت ہے، نہیں ملتی تو وہ اپنے قلوب کے ذریعہ سے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پس جبکہ وہ (بحضور روحانی و کشفی) آنحضرت کے سامنے حاضر ہوتی ہے تو آپ سے اس فعل کی نسبت استفسار کرتی ہے، اور جو آپ اس کو حکم کر دیتے ہیں اس پر عمل کرتی ہے، مگر یہ بات بڑے لوگوں کے ساتھ خاص ہے، سب کے لئے نہیں ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اس مقام والے بزرگ کے لئے یہ گنجائش ہے کہ

وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیں جس کا جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کو امر فرمایا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ایسا نہ کرنا چاہئے، کیونکہ یہ امر سنت صحیحہ ثابتہ من طریق النقل سے زائد ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو ایسی بات کا حکم کرے جو ثابتہ من طریق النقل سے زائد ہو تو وہ لوگوں کو تعدی عن الحدود کا مکلف کرتا ہے، (کیونکہ دین جناب رسول اللہ ﷺ کی حیات میں مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس میں ترمیم یا تفسیخ یا اضافہ کی گنجائش نہیں۔ پس تمام لوگ اسی دین ثابت کے اتباع کے مکلف ہیں، نہ کہ کسی امر زائد کے۔ ہاں اگر کوئی خود اس کو اختیار کرے تو مضافۃ نہیں جیسا کہ جملہ مذاہبِ مستبدطہ من الکتاب والسنۃ کے مقلدین کی حالت ہے (کہ وہ کسی خاص مذہب کے اختیار کرنے کے لئے مجبور نہیں ہیں، اور نہ ان کو کسی خاص مذہب کا مکلف کیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی شہادت و جدان کی بناء پر کسی خاص مذہب کو اختیار کریں تو ان کو اختیار ہے) واللہ اعلم (یہ بحث ضمناً آگئی تھی۔ اب ہم پھر اصل مقصد کی طرف عود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ) سلف صالح عام لوگوں کو اور بالخصوص اپنے احباب کو کتاب و سنت کی پابندی اور بدعاات سے علیحدہ رہنے کی ترغیب دیتے تھے، اور اس معاملہ میں بہت سختی کرتے تھے یہاں تک کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ایک بات کا ارادہ کرتے اور اس کو پختہ کر لیتے، پھر ان سے کوئی کہتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے نہ خود ایسا کیا اور نہ دوسروں کو اس کا حکم دیا، تو جس بات کا وہ پختہ ارادہ کر رکھتے تھے اس سے پلٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جبکہ آپ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ بعض کپڑے بول عجاز سے رنگے جاتے ہیں تو آپ نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو ان کپڑوں کے اتارنے کا حکم دیں جن کو وہ پہنا کرتے تھے، تب کسی نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایسا کپڑا خود بھی پہنا ہے اور آپ کے زمانہ میں اوروں نے بھی ایسے کپڑے پہنے ہیں، یہ سن کر آپ نے خدا سے استغفار کیا اور اپنے عزم سے پلٹ گئے، اور اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کا نہ پہننا از قبیل درع ہوتا تو جناب رسول اللہ ﷺ نہ پہنتے، نیز ہم تک یہ روایت بھی پہنچی ہے:

امام زین العابدینؑ نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا کہ مجھے ایک کپڑا بنا دو جس

کو میں قضاۓ حاجت کے وقت پہن لیا کروں اور نماز شروع کرتے وقت اس کو اتارڈا لا کروں، کیونکہ میں نے مکھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ (پہلے) نجاست پر بیٹھتی ہے اور پھر میرے کپڑے پر بیٹھتی ہیں۔ اس پر ان کے صاحبزادہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس نماز اور قضاۓ حاجت دونوں کے لئے ایک ہی کپڑے تھے، یہ سن کر امام اپنے اس کام سے پلٹ گئے جس کے کرنے کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ منقول یہ ہے کہ نہ جناب رسول اللہ ﷺ کے کپڑے پر مکھی بیٹھتی تھی اور نہ آپ کے بدن پر۔ پس جو دلیل ان کی صاحبزادہ نے بیان کی وہ صحیح نہیں ہو سکتی، بجز اس صورت کے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ آپ نے کسی کو ایسا کرنے کا امر نہیں فرمایا۔ پس اس میں غور کر لینا چاہئے۔

رہاوہ قصہ جو حضرت بایزید بسطامیؓ سے منقول ہے، یعنی یہ کہ آپ کے پاس ایک کپڑا نماز کے لئے تھا اور ایک قضاۓ حاجت کے لئے، سواس کی وجہ مکھیوں کا بیٹھنا نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام زین العابدینؑ کو پیش آیا تھا بلکہ یہ از قبیل ادب^(۱) تھا کہ قضايا حاجت کا کپڑا نماز کا کپڑا نہ ہو۔ جیسا کہ فقہاء نے حاجت کے وقت استقبال

(۱) اس توجیہ پر تغیر عنوان وہی اعتراض پڑتا ہے جو امام زین العابدینؑ کے صاحبزادے نے اپنے پدر بزرگوار پر کیا تھا، یعنی اگر یہ ادب ہوتا تو جناب رسول اللہ ﷺ اس کا لحاظ فرماتے، حالانکہ ایسا نہیں کیا۔ اور اس سے اس قیاس کا ضعف بھی ظاہر ہے جو کہ استقبال و استدبار پر کیا گیا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے استقبال و استدبار سے منع فرمایا ہے مگر قضاۓ حاجت و نماز کے لئے ایک کپڑا رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ نیز اگر نبی عن الاستقبال کی وجہ اتحاد جہت صلاۃ و خلاء ہوتی تو استدبار ممنوع نہ ہوتا، کیونکہ اس میں دونوں جہتوں میں اسی قدر مخالفت ہے جس قدر قضاۓ حاجت و صلاۃ میں۔ پس میرے نزدیک زیادہ عمدہ یہ توجیہ ہے کہ حضرت بایزید کو قطرہ کا عذر ہوگا چھینٹوں کے شبہ کی بنا پر اس طریق کو اختیار فرمایا ہوگا۔ اس توجیہ پر بایزید کا فعل سنت سے متجاوز نہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بطریق ادب ہی ایسا کرتے ہوں مگر اس وقت ان کا یہ فعل سنت سے متجاوز ہوگا، اگرچہ وہ غلبہ حال کے سبب اس میں معدود ہوں، لیکن اس کو استقبال و استدبار پر قیاس کر کے شریعت میں داخل کرنا مناسب نہیں۔ واللہ اعلم

واستد بار قبلہ کی حرمت کے بارے میں کہا ہے کہ شارع کا مقصود یہ ہے کہ جہت قضائی حاجت وہ جہت نہ ہونی چاہئے جو نماز کے لئے کھڑے ہونے کی ہے۔ فاہم پس اے بھائی تو اپنے تمام اقوال و افعال و عقائد میں سنت مصطفویہ کا اتباع لازمی طور پر اختیار کرو اور کسی فعل پر اقدام نہ کرو، تا آنکہ تجھے کتاب و سنت کے موافق کا علم نہ ہو جاوے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کہتا ہے کہ طریق صوفیہ بدعت ہے، وہ جھوٹا اور مفتری ہے، اور جب وہ ہی شخص بدعتی ہو گا جو منا لفت شریعت سے ڈرتا اور کسی کام کے کرنے میں اس وقت تک توقف کرتا ہے جب تک کہ اسے اس کے موافق شریعت ہونے کا علم ہو جاوے تو روئے زمین پر کوئی مقیع سنت ہی نہ رہے گا۔ والحمد لله رب العالمین

اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا

۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حضرات اپنے اور اپنی اولاد و احباب کے معاملہ کو بلکثت خدا کے سپرد کرتے ہیں، (اور جبکہ یہ صورت ہے) تو ان کا اعتقاد ان کی ہدایت (اور دیگر معاملات) میں خدا کے سوا کسی پر نہیں ہوتا، اور وہ کبھی کوئی چیز بطور خود اور اس حالت میں طلب نہیں کرتے کہ اس حالت میں وہ خدا پر اعتماد سے غافل ہوں (بلکہ وہ جو چیز بھی طلب کرتے ہیں، اس میں ان کی نظر خدا پر ہوتی ہے)، حاصل یہ ہے کہ حضرات صوفیہ اول تو کوئی خواہش ہی نہیں کرتے بلکہ ہر معاملہ کو خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک بہتر ہو وہ کیجئے۔ اور جو کبھی کوئی خواہش کرتے بھی ہیں تو اس وقت بھی ان کی نظر غیر اللہ پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی نظر صرف خدا پر ہوتی ہے کہ وہی کرنے والا ہے اور وہی کرے گا۔

اس کے بعد تفویض وغیرہ کے متعلق بعض واقعات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ) میرے لڑکے عبد الرحمن کو طلب علم کی رغبت نہ تھی اور اس کی طرف سے میں ضيق میں تھا تو حق تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا کہ میں اس کے معاملہ کو خدا کے سپرد کر دوں،

(اور اپنی خواہش بالکل فنا کر دوں۔) سو میں نے ایسا ہی کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی رات سے وہ خود بخود بلا میرے کہے، علم کا مطالعہ کرنے لگا اور اسی رات سے اسے علم کی چاٹ لگ گئی۔ اور اس کی سمجھ ان لڑکوں کی سمجھ سے بڑھ گئی جو برسوں پہلے سے علم میں مصروف تھے۔ پس میرے اس کے معاملہ کو خدا کے سپرد کر دینے کی وجہ سے اس نے مجھے اس کو فتنہ سے نجات دی جس میں (اس کی بد شوقي کے سبب) بتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے علماء باعمل میں سے بنادے۔ آمین۔

اور میں نے اپنے شیخ سیدی علی خواص کو فرماتے سنا ہے کہ کوئی چیز علماء و صلحاء کی اولاد کے لئے اس سے زیادہ نافع نہیں کہ ان کے لئے ان کی پیٹھ پیچھے دعا کی جاوے، اور ان کے معاملہ کو خدا کے سپرد کیا جاوے، کیونکہ ان کی تربیت اس طور پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ پر ناز کرتے ہیں۔ اور اگر ماں ہوتی ہے تو وہ ان کی مدد کرتی ہے، نیز وہ لوگوں کی اس تعظیم پر اکتفا کرتے ہیں جو ان کے باپ کی وجہ سے ان کی کیجا تی ہے، ان وجوہ سے اکثر ان کو فضائل علمیہ و عملیہ حاصل کرنے کی رغبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ علم اور ریاضت میں مشغول ہو کر ہم جس جاہ کے حاصل کرنے کی زحمت گوارا کرتے، وہ ہم کو ہمارے باپ کی بدولت حاصل ہو گئی (الہذا اب ہمیں کسی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خیال کر کے وہ علم و عمل سے کورے رہ جاتے ہیں،) بخلاف عام آدمیوں کے خاص کر کسانوں کی اولاد کے کہ وہ آنکھ کھول کر حکام اور ان کے سپاہیوں کی طرف سے مار پیٹ، قید اور دیگر اقسام کی تو ہیں دیکھتے ہیں اور وہ ان سے سخت تو ہیں کے ساتھ خراج لیتے ہیں اور اس وقت وہ ایسا چارہ کا رسو پتے ہیں جو ان کو اس بلا سے آزاد کر دے۔ تب حق تعالیٰ ان کو علم اور قرآن میں مشغول ہونے کا الہام فرماتے ہیں اور تعلیم میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر جس قدر لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں اسی قدر علم اور مجاہدہ کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ پڑھتے پڑھتے شیخ الاسلام یا شیخ طریق ہو جاتے ہیں۔

اور سیدی شیخ احمد زاہد اپنے صاحبزادے کو ہر خلوت (کے موقع) پر چالیس

روز تہاں چھوڑتے تھے اور (دروازہ بند کر کے چالیس روز تک) نہ کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا اگر معاملہ میرے قبضہ میں ہوتا تو میں معرفت طریق میں کسی کو بھی تجھ پر مقدم نہ کرتا (بلکہ) سب سے اکمل تجھ ہی کو بناتا (مگر کیا سمجھئے کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے اور وہی جس کو جس قدر چاہتا ہے دیتا ہے۔)

پس میں کہتا ہوں کہ بعض علماء و صلحاء کی اولاد میں (جیسے شیخ تقی الدین اور شیخ سراج الدین کی اولاد) اس قاعده کی مخالفت کی گئی اور ان کی اولاد نہایت کامل ہوئی ہے۔ علی ہذا ہمارے زمانہ کے علماء و فقراء کی ایک جماعت میں اس کی مخالفت کی گئی ہے، جیسے سیدی محمد بن الجبری الرملی و سیدی عبد القدوس بن الشناوی و سیدی علی بن الشیخ محمد منیر و سیدی محمد بن الشیخ ابی الحسن الغفری اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات جن کا ہم نے طبقات العلماء والصوفیہ میں ذکر کیا ہے، جس کا نام ہم نے ”لواح الانوار فی طبقات الاخیار“ رکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء کی طرح علم و عمل میں کامل ہیں۔ خدا مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کثرت کرے اور ہم کو ان کی برکات سے نفع بخشنے۔ آمین والحمد لله رب العالمین۔

علم و عمل میں اخلاص

۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے علم اور ان کے عمل میں کثرتِ اخلاص ہوتی ہے اور وہ ان میں ریاء کے داخل ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اے بھائی چونکہ ان دونوں باتوں کی لوگوں کو اس زمانہ میں بہت ضرورت ہے، اس لئے ہم اس مضمون کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی جس میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں بھی ان کا خیال آیا تو اس سے فرمایا کہ کچھ بول، اس پر اس نے تین مرتبہ کہا کہ کامل الایمان اشخاص (جن کے لئے

مجھے ایسی جنت بنائی گئی ہے) کامیاب ہو گئے۔ پھر کہا کہ میں ہر بخیل اور ریا کار پر حرام ہوں (اس سے ریاء کی نہ مدت صاف طور پر معلوم ہو گئی۔) اور وہب بن منبه فرماتے تھے کہ جو شخص آخرت کے کام سے دنیا طلب کرتا ہے خدا اس کے دل کو اوندھا کر دیتا ہے (جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ادراکات غیر صحیح ہو جاتے ہیں اور جو بات سمجھتا ہے الٹی ہی سمجھتا ہے، اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے، (اس سے اخلاص کی ضرورت ثابت ہوئی)۔

اور حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی معلومات (دینیہ) پر عمل کرتا ہے وہ بے شبه خدا کا دوست ہے (جس درجہ کامل ہوگا اسی مرتبہ کی دوستی ہو گی۔) اور سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تو ہرگز علم حاصل نہ کرنا، بجز اس صورت کے کہ تیری نیت اس پر عمل کرنے کی ہو ورنہ وہ قیامت کے روز تجھ پر و بال ہو گا۔ اور حسن بصریؓ کثرت سے اپنے نفس پر ان الفاظ سے عتاب فرماتے اور سرزنش کرتے تھے: اے نفس تو باتیں تو نیکوں، فرمانبرداروں اور عابدوں کی سی کرتا ہے مگر کام فاسقوں، منافقوں اور ریا کاروں کے سے کرتا ہے، (پس تو کیسامدی اخلاص ہے) مخلصین کی یہ باتیں نہیں ہوتیں۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے اعمال میں ساحر^(۱) سے زیادہ ہوشیار نہ ہو گا ضرور ریاء میں کچھس جائے گا، (اس لئے اعمال میں نہایت ہوشیاری سے کام لینا چاہئے تاکہ ریا پیدا نہ ہونے پائے)۔

ذوالنون مصریؓ سے کسی نے کہا کہ آدمی کس وقت سمجھے کہ وہ مخلصین میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اعمال صالحہ میں پوری کوشش صرف کر دے (اور اس

(۱) ساحروں وغیرہ کے عملیات میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، جن کی بناء پر ان کے عملیات کام دیتے ہیں اور وہ ضرر سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس لئے وہ نہایت ہوشیاری سے ان کی پابندی کرتے ہیں، اور ذرا غفلت نہیں کرتے۔ بنابریں ساحر کی ہوشیاری کا ذکر کیا گیا ہے۔

وقت بھی) اس کو پسند کرے کہ میں معزز نہ سمجھا جاؤ۔ (مطلوب یہ ہے کہ یہ بات فی نفسہ اخلاص کی علامت ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ اس وقت آدمی کو اپنے کو مخلص سمجھ لینا چاہئے۔ اولاً اس لئے کہ شاید اس کو تشخیص میں غلطی ہوئی ہو، وہ سمجھتا ہو کہ مجھے یہ مرتبہ حاصل ہو گیا اور درحقیقت اسے یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا ہو۔ اور ثانیاً اس لئے کہ سوء الظن بنفسہ ہر حالت میں آدمی کے لئے لازم ہے۔) اور محمد بن المنکر فرماتے تھے کہ میں اپنے بھائیوں کے لئے اس کو پسند کرتا ہوں کہ وہ اپنی حالت رات کو ظاہر کریں، کیونکہ رات کی عمدہ حالت دن کی بہتر حالت سے اس لئے بڑھی ہوئی ہے کہ دن میں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں (اور اس لئے پورا خلوص نہیں ہو سکتا) اور رات میں وہ خاص حق تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے، (اور اس لئے اس میں ریا کا شائیبہ نہیں ہوتا)۔ اور ایک مرتبہ یونس بن عبدی سے کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو حسن بصریؓ کا سامنہ کرتا ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو ایسا بھی نہیں دیکھا کہ ان کی سی بات ہی کہتا ہو، تو میں ایسا شخص کیسے دیکھ سکتا ہوں جو ان کے سے کام کرتا ہو، ان کا وعدہ دلوں کو رلا تا تھا، اور دوسروں کا وعدہ آنکھوں کو بھی نہیں رلا تا۔

یحیی بن معاذ سے کہا گیا کہ آدمی صاحبِ اخلاص کب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جبکہ اس کی خصلت دو دھ پینے والے بچے کی سی ہو جاوے کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرے کہ کون اس کی تعریف کرتا ہے اور کون مذمت۔

ابوالسائبؓ کی یہ حالت تھی کہ جب ان کو قرآن یا حدیث وغیرہ سن کر رونا آتا تو بجائے رونے کے بخلاف مسکرا دیتے (تا کہ ان کا تاثر لوگوں کو معلوم نہ ہو)۔ اور ابو عبد اللہ انطاؓ کی فرماتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ ریا کار سے کہے گا کہ اپنے عمل کا ثواب اس سے لے جس کے دکھلانے کو تو نیکی کرتا تھا، اور ان ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ریا کار قیامت کے دن اپنے عمل کا ثواب طلب کرے گا تو اس سے کہا جاوے گا کہ اپنے عمل کا ثواب اس سے لے جس کے دکھلانے کو

کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس طلبگارِ ثواب سے کہا جاوے گا کہ کیا تیرے علم عمل کی وجہ سے مجالس میں تیرے لئے جگہ کشادہ نہیں کی گئی؟ کیا تو دنیا میں سردار نہ تھا؟ کیا لوگ بیع و شراء میں تیرے ساتھ رعایت نہ کرتے تھے؟ کیا وہ تیری عزت نہ کرتے تھے؟ کیا یہ نہ تھا کیا وہ نہ تھا؟ (غرض اس قسم کی گفتگو کی جائے گی اور تمام ان مقاصد کو جتنا یا جائے گا جو نیک اعمال سے اس کو مقصود تھے، اور جتنا کر بتلا دیا جاوے گا کہ تو یہاں کسی اجر کا مستحق نہیں۔)

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ جب تک آدمی لوگوں کے ساتھ مانوس رہتا ہے، ریاسے محفوظ نہیں رہتا۔ (اس لئے جو شخص ریاسے بچنا چاہے اس کو انس باللہ اور وحشت از مخلوق اختیار کرنی چاہئے)۔

انطا کی کہتے تھے کہ آراستہ بننے والے تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو علم سے آراستہ بنتے ہیں، دوسرے وہ جو عمل سے آراستہ بنتے ہیں، اور تیسرا وہ جو ترک زینت سے آراستہ بنتے ہیں۔ اور یہ تیسرا قسم کے لوگ سب سے زیادہ غامض اور سب سے زیادہ شیطان کو پسند ہیں، (کیونکہ یہ لوگ شیطان کے لئے بہت پہلی دو قسم کے لوگوں کے زیادہ کارآمد ہیں، اس لئے کہ ان کی شکستہ حالتی کے سبب لوگ ان کے تباہ حال پر بہت مشکل سے مطلع ہوں گے اور بہت جلد ان کے پھندے میں آ جائیں گے۔

ایاس بن معاویہ، ابراہیم تیمیؓ کے بھائی ہیں اور دونوں میں سے کوئی دوسرے کی (سامنے تو درکنار اس کے) پیٹھ پیچھے (بھی) اس کی تعریف نہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تعریف بھی ایک قسم کا معاوضہ ہے، لہذا اپسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے تعریف کر کے اپنے بھائی کا ثواب کم کر دوں۔

ابو عبد اللہ انطا کی فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے اعمالی ظاہرہ میں اخلاص کا طالب ہوا اور دل سے مخلوق پر نظر رکھتا ہو وہ طلب محال میں مبتلا ہے، کیونکہ اخلاص قلب کا پانی ہے، اور ریاء اس کو مردہ کرنے والی ہے (پس یہ دونوں ضدین ہیں، اور اجتماع ضدین محال ہے تو طلب اخلاص بحالٰت مذکور محال ہے۔)

یوسف بن اسbat فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے مجھے یہی ثابت ہوا ہے کہ میں زاریا کا رہوں۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ جو شخص مجمع میں اپنی مذمت کرتا ہے وہ درحقیقت اپنی تعریف کرتا ہے اور یہ بھی ریاء کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔

ابن السماک فرماتے تھے کہ اگر وہ شخص جو اپنے علم و عمل میں ریا کا رہو، لوگوں کو اپنے دلی خیالات پر مطلع کر دے تو لوگ (بھی) اس کو برابر صحیح اور احمد بتائیں، تو جب ریا اس قدر بربی چیز ہے کہ ریا کا رکے معبود خود اس کو برابر صحیح ہے تو اب غور کر لو کہ حق تعالیٰ جن کے ساتھ حکم حدیث: ”الریاء شرک أصغر“ شرک کیا جا رہا ہے تو اس کو کس قدر برابر صحیح گے۔

ابراهیم بن ادہم فرماتے تھے کہ اپنے بھائی سے اس کے روزہ کی بابت سوال مت کر (یعنی یہ نہ پوچھ کہ تو روزے سے ہے یا نہیں) کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں تو اس سے اس کا نفس خوش ہوگا، اور اگر کہے کہ میں روزہ دار نہیں ہوں تو اس کا نفس غمگین ہوگا، اور یہ دونوں ریاء کی علامتوں میں سے ہیں۔ نیز اس میں سائل کی جانب سے مسئول کی رسوائی اور اس کی قابل اخفا حالت پر مطلع ہونا ہے، (کیونکہ یہ سوال اسی وقت کیا جاوے گا جبکہ روزہ نہ رکھنے کا شبہ ہو، اور روزہ نہ رکھنا یہ ایک قابل اخفا حالت ہے، پس اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ چاہئے)۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اہل خراسان کو (جو وہاں سے کوں دور ہیں) دکھلاتا ہے، کسی نے (تعجبانہ) سوال کیا کہ یہ کیونکر؟ تو فرمایا کہ باسیں معنی کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اہل خراسان اس کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص طواف اور سعی کے لئے مکہ میں سکونت پذیر ہے، مبارک ہو اس کو۔ (اس سے ثابت ہوا کہ ریا صرف لوگوں کی موجودگی تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کی غیوبت میں بھی ممکن ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی خلوت میں عمل کرے اور اس کی خواہش کرے کہ کاش لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں اور میری تعریف

فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے لوگوں کو اس حالت میں پایا تھا کہ وہ نیکیوں میں ریاء کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان باتوں میں ریاء کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے یعنی پہلے لوگ ارضاء خلق کے لئے نیک کام کرتے تھے اور اب نیک کام بھی نہیں کرتے بلکہ نیکیوں کی صورت بنا کر اس کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ نیک کام کرتے ہیں، پس یہ لوگ پہلے ریاء کاروں سے کہیں بدتر ہیں۔) نیز جب وہ حق تعالیٰ کا قول: ﴿وَنَبْلُو أَخْبَارَكُم﴾ (ہم تمہارے حالات جانچیں گے) پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اگر آپ ہمارے اعمال کی جانچ کریں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے اور ہماری پرده دری ہوگی، آپ ارحم الرحمین ہیں (ہم پر حم فرمائیے اور ہمیں جانچ سے معاف فرمائیے)

ایوب سختیانیؑ فرماتے تھے کہ مجملہ بے کئے ہوئے کاموں کے دکھاوے کے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی دوسرے لوگوں کے علمی مضمومین اور مقالات یاد کر کے لوگوں کے مقابلہ میں بڑا بنے، کیونکہ جس کے ذریعہ سے وہ بڑا بنتا ہے نہ وہ اس کا عمل ہے اور نہ استنباط، (پس اس کو اپنی طرف منسوب کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شخص بڑا عالم اور بہت نیک ہے، غیر واقعی بات کی ریا ہے)۔

ابراہیم بن ادہمؓ فرماتے تھے کہ جو شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کو اچھا کہیں، نہ وہ متقدی ہے اور نہ باخلاص۔

عکرمؓ فرماتے تھے کہ نیت نیک کی کثرت کرو، کیونکہ ریاء نیت ہی میں داخل ہوتی ہے۔ (پس جب نیت کی اصلاح کا اہتمام کیا جاوے گا اس وقت ریاء سے تحفظ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں)۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ جب صاحب نیت اسلام میں داخل ہو چکا تو اب اس کو فروع اسلام میں سے کسی میں نیت اخلاص کی ضرورت نہیں (بلکہ اس کا ہر فعل اخلاص پر محمول اور عند اللہ مقبول ہو گا بشرطیکہ کوئی بری نیت موجود نہ ہو)۔

ابو سلیمان دارا تھے کہ مومن اعمال اسلام میں سے جو عمل بھی اس طرح کرتا ہے کہ اس کی کچھ نیت نہیں ہوتی تو اس میں نیت اسلام اس کے لئے کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں حفیہ کی تائید ہے۔^(۱)

نعیم بن حماد فرماتے تھے کہ ہماری پیٹھ کا کوڑوں کی مار کھانا ہمارے لئے نیت صالح سے زیادہ آسان ہے (یعنی ہم مارت کھا سکتے ہیں مگر ہمارے لئے یہ امر سخت دشوار ہے کہ اعمال صالح میں نیت کو خلل سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اس میں کچھ نہ پکھھریا، ضرور شامل ہو جاتی ہے)۔

منصور بن المعتمر و ثابت بنانی فرماتے تھے کہ جب ہم نے علم حاصل کیا تو ہماری اس وقت کچھ نیت نہ تھی، اس کے بعد (جب ہم علم حاصل کر چکے) تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیت صالح عطا فرمادی، کیونکہ علم میں یہ خاصیت ہے کہ وہ صاحب علم و اخلاق پر برائیخنگتہ کرتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ اہل جنت کا جنت میں، اور اہل دوزخ کا دوزخ میں دخول تو عمل کی بنا، پر ہوگا، اور خود نیت کی بنا، پر (کیونکہ کفار کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایمان نہ لا دیں گے، اور مومنوں کا قصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کفر نہ ہوں گے اگرچہ ہم کو دنیا میں خلود ہو، اس لئے سزا و جزا میں خلود ہوا۔)

ابوداؤ و طیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب لکھتے وقت عالم کا مقصود دین کی مدد ہونا چاہئے نہ کہ حسن تالیف کے سبب ہم عصر وہ میں اپنی تعریف، اور تورات میں ہے کہ (اے اللہ) جو عمل تو قبول کرے وہ (فائدہ کے لحاظ سے) بہت ہے اگرچہ (مقدار میں) کم ہو، اور جس عمل کو تور دکر دے وہ فائدہ کے اعتبار سے) کم ہے اگرچہ (۱) میں کہتا ہوں کہ علامہ نے تائید کی وجہ بیان نہیں کی تاکہ اس میں غور کیا جاتا۔ شاید ان کا مقصود یہ ہو کہ وہ میں حفیہ کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے۔ سو اگر ایسا ہے تو قول مذکور ہے میں حفیہ کی کوئی تائید نہیں۔

(مقدار میں) بہت ہو۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ جب پھوں سے بھی ان کے صدق کے متعلق سوال ہوگا۔ اسماعیل و عیسیٰ علیہما السلام (اور ان کے صدق و خلوص کی بھی جانچ پڑتا ہوگی) تو ہم ایسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا (جہاں خلوص کا نام بھی نہیں)۔

داود طائیؓ نے ایک مرتبہ کپڑا لیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو (اس حالت سے) بدل کیوں نہیں دیتے (اور سیدھا کیوں نہیں کر لیتے)؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو خدا کے لئے پہنا ہے اس لئے میں نہ بدلوں گا، (مطلوب یہ ہے کہ پہنچنے وقت خلوص تھا، اور بدلنا اس خیال سے ہوگا لوگ یقوقف نہ بتاؤں اس اور ان کو برانہ معلوم ہو۔ یہ ریا ہے اس لئے میں خلوص کو ریاء سے نہیں بدل سکتا۔)

امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؓ فرماتے تھے کہ ریا کا رکی تین علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو (اعمال صالحہ میں) کاہلی کرتا ہے اور نوافل بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب آدمیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو خوب جی کھول کر اعمال صالحہ کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جب لوگ تعریف کریں تو خوب عمل کرتا ہے اور جب برا کہیں تو اس میں کمی کر دیتا ہے۔

سفیان ثوریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جس قدر اعمال اپنے ظاہر کر کے کئے ہیں، ان کو میں لاشیءِ محض سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم ایسوں کی قدرت سے باہر ہے۔

ابراهیم تیجیؓ نوجوانوں کا سالباس پہنچتے تھے (اور اہل علم کا سالباس نہ پہنچتے تھے) اس لئے بجز ان کے دوستوں کے اور کوئی نہ پہچانتا تھا کہ یہ علماء میں سے ہیں، اور فرماتے تھے کہ اخلاص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو یوں چھپا دے جس طرح وہ اپنے برائیوں کو چھپاتا ہے۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جس عالم کا حلقة درس بڑا ہوتا ہے اس میں خود پسندی آ جاتی ہے الاما شاء اللہ۔

حسن بصریؒ کا طاؤس پر گذر ہوا جبکہ وہ ایک بڑے حلقے میں بیٹھے ہوئے حرم شریف میں حدیث پڑھا رہے تھے، پس آپ ان کے پاس گئے اور ان کے کان میں فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی یہ حالت پسند آتی ہے تو (تمہارے عمل میں خلوص نہیں ہے) تم اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہو (اور درس موقوف کر دو) تو طاؤس فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔

ابراهیم بن ادہمؓ کا بشر حافیؓ کے حلقہ درس پر گذر ہوا تو آپ نے ان کے حلقہ درس کے بڑا ہونے کے سبب ان پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ اگر یہ حالت کسی صحابی کی ہوتی تو ان کو بھی اپنے نفس پر خود پسندی کا خوف ہوتا (پھر آپ تو کس شمار میں ہیں، لہذا آپ کو اتنا بڑا حلقہ درس نہ رکھنا چاہئے)۔

سفیان ثوریؓ اپنے پاس (درس کے وقت) تقریباً تین آدمیوں سے زیادہ نہ بیٹھنے دیتے تھے، پس آپ نے ایک روز درس شروع کیا تو دیکھا کہ حلقہ بہت بڑا ہو گیا، آپ یہ دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہم بے خبری میں پکڑ لئے گئے، (مطلوب یہ تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں) واللہ اگر امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ مجھ سا شخص کو اس عظیم الشان مجمع میں مند درس پر بیٹھا ہوادیکھتے تو فوراً اٹھا دیتے اور فرماتے کہ تجھ سا شخص اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نیز ان کا قاعدہ تھا کہ جب احادیث لکھانے بیٹھتے تو مرعوب اور خائف ہوتے۔ اور کوئی بدلتی ان پر گذرتی تو خاموش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ گذر جاتی، اور فرماتے کہ مجھے اندیشہ ہے اس میں پھر ہوں جن کو وہ ہم پر بر سائے۔

ایک مرتبہ اعمشؓ کے حلقہ درس میں کوئی طالب علم نہ پڑا تو آپ نے اسے ڈاشا اور اٹھا دیا اور فرمایا کہ تو وہ علم حاصل کرتا ہے جس کا خدا نے تجھے مکلف کیا ہے۔ (اس کا مقتضایہ تھا کہ تجھے سوچ اور فکر ہوتی مگر بجائے اس کے تو اس سے غفلت کرتا ہے) اور (لاابالی طور پر) ہستا ہے (نہایت شرم کی بات ہے) پھر اس کو تعزیر ادا و مہینہ تک چھوڑے رکھا، (اور اس کے بعد قصور معاف کر دیا۔)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کتاب اللہ میں ایک آیت نہ ہوتی تو تم سے حدیثیں نہ بیان کرتا (کیونکہ مجھے خود پسندی کا خوف ہے)، وہ آیت یہ ہے: «إنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أُنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ» الآية

جبکہ سفیان ثوریؓ نے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے اس بارے میں ان سے گفتگو کی، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ بخدا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص خدا کے لئے علم سیکھتا ہے تو میں خود اس کے گھر جاتا اور اس کو آنے کی تکلیف نہ دیتا، (مگر کیا صحیح ہے کہ لوگوں کو تعلیم سے خدا مقصود ہی نہیں تو میں فضول زحمت کیوں اٹھاؤں۔)

ایک روز سفیان بن عینہؓ سے کہا گیا کہ آپ منہ درس پر بیٹھ کر ہم کو حدیث کیوں نہیں پڑھاتے تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں تمہیں اس کا اہل پاتا ہوں کہ تمہیں حدیثیں سناؤں اور نہ میں اپنے کو اس کا اہل پاتا ہوں کہ تم مجھ سے حدیثیں سنو۔ میری اور تمہاری بالکل ایسی مثال ہے جیسا کسی نے کہا ہے کہ سب کے سب رسوا ہو گئے تو آپ میں اصطلاح مقرر کر لی (یعنی من ترا حاجی بگویم، تو مر ا حاجی بگو)۔

حاتم اصمؓ فرماتے تھے آجکل مساجد میں تعلیم علم کے لئے صرف دو قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کو یہ خبر نہیں کہ اس بارہ میں ان کے فرائض کیا ہیں۔

عبد اللہ بن عباسؓ باوجود جلیل القدر عالم ہونے کے جب قرآن کی تفسیر سے فارغ ہوتے تو فرماتے کہ اس مجلس کو استغفار پر ختم کرو (کیونکہ ہم سے اس کے حقوق اخلاص وغیرہ ادا نہیں ہوئے)۔

شداد بن حکیمؓ فرماتے تھے کہ جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں اسکو چاہئے کہ وہ تعلیم علم کے لئے بیٹھے ورنہ چاہئے کہ منہ درس پر بیٹھنا چھوڑ دے۔ ایک یہ کہ وہ لوگوں کو خدا کی نعمتیں یاد دلائے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرے یہ کہ وہ ان کے گناہ یاد دلائے تاکہ وہ توبہ کریں، اور تیسرا یہ کہ وہ ان کو ان کا دشمن ابلیس یاد دلائے تاکہ وہ

اس سے بچیں۔

ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے دریافت کیا کہ رائخین فی اعلم (جن کا قرآن میں ذکر ہے) کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: علماء باعمل، اور (فرمایا کہ) علم سے زیادہ عزت کی چیز کوئی نہیں، کیونکہ صاحب علم، علم کے ذریعہ سے سلاطین پر حکومت کرتا ہے۔

عبداللہ بن المبارک سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آدمی کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: با اخلاص اور با عمل عالم، پھر پوچھا گیا کہ اچھا سلاطین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت اشخاص، پھر کہا گیا کہ رذیل کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے علم و عمل اور دین کے معاوضہ میں دنیا کھاتے ہیں۔

حسن بصری فرماتے ہیں کہ علماء زمانوں کے چراغ ہیں، اور ہر عالم اپنے زمانہ کا چراغ ہے، جس سے اس کے زمانہ کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، اور اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈھوروں کی طرح ہوتے (کہ ان کو نہ اچھے کی خبر ہوتی نہ برے کی)، اور اس لئے دن رات شہوات نفسانیہ میں مصروف رہتے۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ علم کی زندگی دو باتوں سے ہے۔ ایک تو اس کے متعلق سوال سے، اور دوسرے اس پر عمل سے، اور اس کی موت ان کے چھوڑ دینے سے ہے۔ (پس جب تک تحقیق اور عمل قائم رہیں گے علم زندہ رہے گا، اور جب یہ دونوں باتیں نہ رہیں گی علم مردہ ہو جاوے گا)۔

عکر مپہ فرماتے تھے کہ علم اس کو سکھا وجہ کی قیمت ادا کرے، اس پر ان سے پوچھا گیا کہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ عالم علم کو اس کے سپرد کرے جو اس پر عمل کرے۔ (پس عمل کرنا اس کی قیمت ہے)۔

سالم بن ابی الجعد فرماتے تھے کہ (ابتداء میں میں نہایت بے وقعت شخص تھا کیونکہ میں غلام تھا اور غلام بھی معمولی کہ) میرے آقانے مجھے (صرف) تین سو درہم میں خرید اتھا، اس کے بعد میں علم مشغول ہوا تو (میری عزت کی یہ حالت ہوئی کہ) ایک

سال بھی نہیں گذر اتھا کہ بادشاہ وقت مجھ سے ملنے آیا اور میں نے اس کے لئے دروازہ نہ کھولا۔ (یہ ان کے خلوص اور استغنا کا اثر تھا، ورنہ دنیادار عالم خود امراء کا دروازہ کھلکھلاتے ہیں اور وہ ان کے لئے دروازہ نہیں کھولتے)۔

شعیٰ فرماتے تھے کہ علماء کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ علم حاصل کر لیتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں، اور جب وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور جب ان کو لوگوں سے ملنے کی فرصت نہیں ہوتی تو وہ لوگوں سے گم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو لوگ انہیں ڈھونڈتے ہیں، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے نفع نہیں پہنچایا، نیز حدیث شریف میں ہے کہ غقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے جاہل عبادت گذار ہوں گے (جن کو یہ خبر نہ ہوگی کہ عبادات کس طرح کیا کرتے ہیں، اور ان کے عالم بدکار ہوں گے، (اس لئے اس زمانہ کے جاہل بھی خراب ہوں گے اور عالم بھی)۔

عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ جو شخص مشکلات میں بے توقف اور بے تأمل فتوے دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دخول نار کے لئے پیش کش کرتا ہے، نیز فرماتے تھے کہ جو شخص ہر ایسی بات کا جواب دیتا ہے جو لوگ اس سے پوچھیں، وہ دیوانہ ہے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ تم ان لوگوں میں نہ ہو جو علماء کا علم جمع کرتے اور اس میں احمقوں کی چال چلتے ہیں (یعنی اس پر عمل نہیں کرتے)، اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ملفوظ پہنچا ہے کہ علم بہت ہے مگر سارا نافع نہیں (کیونکہ سب پر عمل نہیں کیا جاتا) اور علماء بھی بہت ہیں مگر سب ہدایت یافتہ نہیں (بلکہ بہت سے گمراہ بھی ہیں)۔

ابراهیم بن عقبہ فرماتے تھے کہ قیامت میں سب سے زیادہ ندامت اس کو ہوگی جو علم کے ذریعہ سے لوگوں کے مقابلہ میں بڑا بنتا ہے۔

امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ خوف اس امت پر مجھے اس شخص کا ہے جو زبان سے عالم اور دل سے جاہل ہو، (یعنی اس کا علم صرف زبان

تک ہوا درد پر اس کا کچھ اثر نہ ہو)۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اب اگر وہ اس کی آواز پر لبیک کہے فبہادر نہ وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ (مطلوب یہ ہے کہ علم کی برکت عمل پر موقوف ہے، اگر عمل ہوگا اس کی برکت رہے گی ورنہ زائل ہو جائے گی، اور یہ مطلب نہیں کہ خود علم بھی نہ رہے گا کیونکہ یہ مشاہدہ کے خلاف ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ آدمی اسی وقت تک عالم رہتا ہے جب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہر میں اس سے زیادہ جاننے والا بھی ہیں، اور جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے، (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلمیتِ مطلقہ کسی کو عطا نہیں فرمائی بلکہ لوگوں کے علم میں عام و خاص من وجہ کی نسبت رکھی ہے، یعنی بہت سے تو ایسے علوم ہیں جو دو شخصوں میں مشترک ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک کو حاصل ہوتے ہیں اور دوسرے کو نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بالعکس ہوتے ہیں۔ پس جو علوم مشترک ہیں ان میں تو دونوں برابر ہیں، اور جو علم مخصوص ہیں ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے، بعض وجہ سے ایک شخص اعلم ہوتا ہے اور بعض وجہ سے دوسرا شخص، اس لئے جب تک آدمی یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے اس وقت تک اس کا علم صحیح ہے، اور جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں تو اب یہ جہل مرکب ہو گیا، اور وہ عالم سے جاہل بن گیا۔ واللہ اعلم

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا نے کسی عالم کو کھلونا بنا لیا ہے، اور وہ اس کو جس طرح چاہتی ہے نچاتی ہے تو مجھے اس پر رونا آتا ہے۔ اگر قراء و محمد شین دنیا سے بے رغبتی (کی مشقت) پر صبر کرتے تو لوگ ان کو رومال (کی طرح بے وقعت) نہ بنایتے۔ ارے کیسی بڑی بات ہے کہ لوگ یوں کہیں کہ فلاں عالم یا عابد فلاں تا جر کے روپ یہ سے حج کرنے آیا ہے۔

میکی بن معاذ فرماتے تھے کہ جب عالم، طالب دنیا ہو جاتا ہے تو اس کی آب

وتا ب جاتی رہتی ہے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ (دنیا میں) علماء کی سزا ان کی مردہ دلی سے ہوتی ہے، اور ان کی مردہ دلی ان کے اعمال آخرت کے ذریعہ سے دنیا کو طلب کرنے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے اہل دنیا کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔

سعید بن المسیب فرماتے تھے کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ امراء کے دروازوں پر جاتا ہے تو (سمجھو کہ) وہ چور ہے (جو کہ اہل علم کا بھیں بدل کر مال چرانا چاہتا ہے)۔

او زاعی فرماتے تھے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اس عالم سے زیادہ ناپسند نہیں ہے جو (دنیا کے لئے) کسی حاکم سے ملاقات کرتا ہے۔

مکھول فرماتے تھے کہ جو قرآن پڑھتا اور علم دین حاصل کرتا ہے پھر بلا کسی حاجت ضروری کے کسی امیر کے گھر جاتا ہے تو جتنے قدم وہ رکھتا ہے اتنے قدم وہ دوزخ میں گھستا ہے۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ میں نے بعض آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) آسان ترین برداودجو میں عالم کے ساتھ کرتا ہوں جبکہ وہ اپنے علم سے دنیا کو طلب کرتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی لذیذ مناجات سے محروم کر دیتا ہوں (کیونکہ جب دنیا کی طرف رغبت ہوگی تو دین کی طرف سے بے پرواٹی ہوگی اور اس لئے وہ عبادات جن میں حق تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے، مثل نماز و تلاوت قرآن و دعا، ادا نہ کر سکے گا، اور اگر کرے گا تو نہایت بے تو جہی کے ساتھ، جس میں کوئی لذت یا حلاوت نہ ہوگی، بلکہ محض ضابطہ کی کارروائی ہوگی۔ واللہ اعلم

امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فرماتے تھے کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو اسے بد دین سمجھو، کیونکہ ہر عاشق کا قاعدہ ہے کہ وہ اسی میں منہمک ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے اور اس کے مساوی سے مستغفی ہوتا ہے، پس اس کا دنیا میں منہمک ہونا دلیل ہے اس کے دین سے مستغفی ہونے کی۔ اور دین سے مستغفی ہونا

عین بد دینی ہے، پس وہ ضرور بد دین ہے)۔

حسن بصری فرماتے ہیں: بڑے تعجب کی بات ہے کہ زبانیں (بھلائی برائی کو) بیان کرتی ہیں اور دل ان کو جانتے ہیں اور اعمال ان کی مخالفت کرتے ہیں (یعنی جس کو زبان سے اچھا کہا جاتا ہے اور دل سے اچھا سمجھا جاتا ہے، عملًا اس کو ترک کیا جاتا ہے اور جس کو زبان سے بُرا کہا جاتا ہے اور دل سے بُرا سمجھا جاتا ہے عملًا اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے۔

حاتم اصمؓ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بد نصیب وہ عالم ہو گا جس کے علم پر دوسرے عمل کریں اور وہ خود اس پر عمل نہ کرے، (بد نصیبی کی وجہ طاہر ہے)۔ ابراہیم تیمیؓ فرماتے تھے کہ جب کبھی میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا ہے (میرے عمل نے میرے قول کی تکذیب کی ہے اور) میں نے اپنے عمل کو اپنے قول کا مکذب پایا ہے۔

ابراہیم بن ادہمؓ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے کلام کی اصلاح کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں غلطی نہ کی، اور عمل میں غلطی کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی اس کی اصلاح نہ کی (کس قدر حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ اصلاح کلام جس کی طرف اس قدر توجہ ہے، کچھ بھی ضروری نہیں۔ اور اصلاح عمل جس کی طرف سے اس قدر بے پرواہی ہے نہایت ضروری ہے، پس غیر ضروری میں اس قدر انہا ک اور ضروری میں اتنی غفلت سراسر حماقت ہے۔

او زاعیؓ فرماتے تھے کہ جب اصلاح کلام آتی ہے تو قاری وسامع سے خشوع رخصت ہو جاتا ہے (یعنی سامع وقاری میں خشوع اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ کلام میں بے ساختگی رہے اور تکلف نہ آئے، اور جب تکلف آگیا تو پھر نہ قاری میں خشوع رہتا ہے اور نہ سامع میں۔ قاری میں خشوع نہ رہنے کی وجہ تو ظاہر ہے، رہا سامع سو اس میں خشوع نہ رہنے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ قاری کے عدم خلوص کا عکس سامع کے دل پر پڑے گا اور اس وجہ سے اس میں بھی خلوص نہ رہے گا۔ واللہ اعلم

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ملفوظ پہنچا ہے کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اس کی حالت اس عورت کی حالت کے مشابہ ہے جس نے خفیہ زنا کیا ہو (اور اس کی کسی کو اطلاع نہ ہو)، اور پھر اس کو دردِ زہ ہوتا وہ رسوایہ ہو جاوے، پس (جس طرح یہ عورت رسوایہ ہو جاتی ہے) یوں ہی قیامت میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوایہ کرے گا جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ جب شیطان تم میں سے کسی کے پاس ایسی حالت میں آوے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے کہے کہ تو ریا کا رہے تو اس کو چاہئے کہ وہ نماز کو اور لمبا کر دے (تاکہ آئندہ اسے ایسے وسوسہ کی جرات نہ ہو ورنہ یہ اس کو اعمال خیر میں مزاحمت کا اچھا گرہاتھا آ جاوے گا، اور جب کوئی کسی عمل کا ارادہ کرے گا وہ فوراً یہ ہی وسوسہ ڈالے گا کہ تو ریا کا رہے اور اس طرح وہ عمل چھوٹ جاوے گا)۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا ریا ہے اور ان کی وجہ سے عمل چھوڑنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ان دونوں سے نجات دے۔ میں^(۱) کہتا ہوں کہ لوگوں کی وجہ سے ترکِ عمل کی معنی یہ ہیں کہ آدمی اس موقع پر عمل کرنا پسند کرے جہاں لوگ اس کی تعریف کریں، اور اگر وہ کسی کو اپنی تعریف کرنے والا نہ پائے تو کاہلی کرے اور عمل چھوڑ دے۔

(۱) احرار کے نزدیک ترکِ عمل لالناس کا یہ محمل صحیح نہیں، کیونکہ یہ ترکِ توریاء کے آثار میں سے ہے، اور کوئی مستقل شی نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ ترکِ عمل لالناس سے مراد ترکِ عمل لارضاۓ الناس ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ آدمی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اچھے کام کو اور اس کے کرنے والے کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ جو اچھے کام کو اور اس کے کرنے والے کو بر اسمجھتے ہیں۔ پس طالبِ دنیا اول قسم کے لوگوں کی خاطر اچھے کام کرتے ہیں اور یہ ریاء ہے، اور دوسری قسم کے لوگوں کی خاطر اچھے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ ترکِ عمل لالناس ہے جس کو شرک کہا گیا ہے، اور یہ مقابل ہے ریاء کا۔ فتدبر

بشر حاتم فرماتے تھے کہ ہم ایسوں کے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ اپنے اعمال خالصہ میں سے بھی کچھ ظاہر کریں، (کیونکہ ہم ان کو خالص سمجھتے ہیں مگر ہمارا خلوص ہی میں کیا شی ہے کہ اس کی بناء پر اپنے اعمال کو خالص اور ظاہر کرنے کے قابل سمجھیں اور جبکہ اعمال خالصہ کی یہ حالت ہے) تو ان اعمال کی کیا حالت ہوگی جن میں صریحاریاء داخل ہو چکی ہے، پس ہم ایسوں کے لئے تو اعمال کا اخفاء ہی مناسب ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریین سے فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہوتا سے چاہئے کہ اپنے سر اور ڈاڑھی کو تیل لگائے اور اپنے ہونٹوں کو (یوں) پونچھے (جیسے آدمی کچھ کھا کر پونچھتا ہے) تاکہ لوگ اس کو روزہ دار نہ سمجھیں (مگر یہ بات اُنفل روزہ میں ہونی چاہئے نہ کہ فرض میں، کیونکہ ایسا کرنا لوگوں کو بدگمانی میں بتلا کرتا ہے۔ نیز اس سے بعض لوگوں پر براثر بھی پڑتا ہے اور اس کی دیکھادیکھی وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی حالت دوسرے فرائض و نوافل کی بھی ہے یعنی فرائض کا اظہار اور نوافل کا اخفاء مناسب ہے۔ یہ حکم اصلی ہے مگر عوارض کی وجہ سے کبھی بعض فرائض کا اخفاء اور بعض نوافل کا اظہار مناسب ہو جاتا ہے۔ فتد بر مترجم

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ علم و عمل وہی بہتر ہے جو لوگوں سے مخفی ہو۔

عکرمہ فرماتے تھے کہ میں نے اس شخص سے زیادہ کم عقل نہیں دیکھا جو اپنی برائی جانتا ہو اور لوگوں سے یہ چاہے کہ وہ اس کو عالم اور صالح کہے۔ مسلمانوں کے قلوب کے لئے یہ امر ضروری ہے کہ وہ اس کی اس بد خصلتی پر مطلع ہو، (تاکہ اس سے دھوکہ نہ کھاوے) اور اس شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کائنے بوئے اور اس کی خواہش کرے کہ اس پر چھووار لگیں۔

قادہ فرماتے تھے کہ جب عالم اپنے علم و عمل سے ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں اسے تو دیکھو کہ یہ ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے اور ہم سے ڈرتا نہیں حالانکہ ہم صاحبِ عظمت و جبروت ہیں۔ (ریاء کو ٹھٹھا کرنا اس لئے فرمایا کہ جو شخص کسی کو بنتا اور اس سے مسخرہ پن کرتا ہے تو وہ بظاہر اس کی تعظیم کرتا ہے مگر مقصود تعظیم نہیں

ہوتی، اور ریاء کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بظاہر عبادت کرتا ہے مگر مقصود عبادت نہیں ہوتی۔ فتد بر مترجم)

امیر المؤمنین[ؑ] (کا قاعدہ تھا کہ) جب وہ کسی کونماز میں گردن جھکائے دیکھتے تو اس کو درہ سے مارتے اور فرماتے کہ تیرا بھلا ہو، خشوع^(۱) دل میں ہے (نہ کہ گردن میں، پس تو دل جھکا، گردن کیوں جھکاتا ہے۔)

ابو امامہ کا ایک ایسے شخص پر گذر ہوا جو سجدہ میں پڑا ہوا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام بہت اچھا تھا، اگر تیرے گھر میں ہوتا جہاں تھے آدمی نہ دیکھتے (کیونکہ اس صورت میں ریا کا اندر یہ کم ہوتا، یا بالکل نہ ہوتا۔)

فضیل بن عیاض[ؓ] فرماتے تھے کہ جو شخص ریا کا روک دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے، (یہ ان کے خلوص کی دلیل ہے)۔

اب رہیم بن ادہم[ؓ] فرماتے تھے کہ میرا ایک پھر پر گذر ہوا تو میں نے اس پر یہ لکھا ہوا دیکھا: تو جو کچھ جانتا ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتا اور زیادہ علم کیسے طلب کرتا ہے؟ (مطلوب یہ ہے کہ علم سے مقصود عمل ہے، اور جبکہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ علم بندہ پر خدا کی جنت ہوتا ہے۔ پس جبکہ حاصل شدہ علم پر عمل نہیں تو تیری سزا کے لئے یہی کافی ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ مزید علم حاصل کر کے زیادہ سزا کا مستحق ہو)۔

یوسف بن اس باط[ؓ] فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ اپنے اعمال کو مخلوق سے چھپاویں اور (میں وعدہ کرتا ہوں) کہ ان کو مخلوق پر ظاہر کر دوں گا (اور اس طرح وہ مقصود بھی حاصل ہو جائے گا جو ریاء کاروں کا ریاء سے ہوتا ہے یعنی عزت عند الخلق اور وہ بھی حاصل ہو جائے گا جو مخلصین

(۱) خشوع فی الحقيقة افعال قلب میں سے ہے مگر کبھی افعال قلب کا اثر جوارح پر بھی پڑتا ہے، اس لئے جوارح سے بھی اس کا ظہور مستعد نہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھنا چاہئے کہ حضرت عمرؓ کا یہ مقصود نہیں کہ جوارح سے اس کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ مطلوب یہ ہے کہ خشوع کو صرف دل تک محدود رہنا چاہئے، اور اگر جوارح پر اس کا اثر ہو تو تکلف روکنا چاہئے۔ وَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِحْلَاصِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ، وَلَهُ دَرَهُ مَا أَدْقَ نَظَرَهُ۔

کا ہوتا ہے یعنی عزت عند اللہ، پس اخفاء میں اظہار سے زیادہ فائدہ ہے، اور مخلصین ریا کار سے بہت زیادہ نفع میں ہیں)۔ اور ابو عبد الرحمن زاہد اپنے نفس کو بہت ملامت فرماتے تھے اور اپنی دعا میں فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھ سے زیادہ بدحال کون ہوگا؟ میں نے تیرے بندوں سے ظاہر میں امانت داری کے ساتھ معاملہ کیا اور خفیہ طور پر تجھ سے خیانت کے ساتھ برداشت کیا۔ فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ ہے کوئی جو مجھے ایسا عبادت گذار بتلوے جورات کو بہت روتا ہو اور دن میں بہت روزے رکھتا ہو، میں اسے دعا دوں گا۔ (اس سے مقصود اخلاص کی فضیلت کا بیان کرنا ہے۔ اور یہ مقصود اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ فضیل ایک ایسے شخص کے طالب ہیں جو باوجود عابد ہونے کے مشہور نہ ہو، یہ علامت ہے اس کے اخلاص کی، پھر جو اعمال اس کے بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ رات کو روتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو، یہ بھی اس کے اخلاص کی دلیل ہے، کیونکہ یہ دونوں فعل مخفی ہیں۔

میمون بن مہرانؓ فرماتے تھے کہ عمدہ ظاہر بدون اچھے باطن کے اس پاخانہ کے مشابہ ہے جو باہر سے آ راستہ ہو (اور اندر گندگی پھری ہو)۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ اگر تحصیل علم میں نیت درست ہو تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں مگر لوگ تو اس کو سوائے عمل کے (دوسرے اغراض کے لئے) سکھتے اور اس کو دنیا کے شکار کا جال بناتے ہیں۔ (پھر اس میں خیریت کہاں؟)

سفیان ثوریؓ ایک روز فضیل بن عیاضؓ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ ابو علی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، اس پر فضیل بن عیاضؓ نے فرمایا کہ میں آپ حضرات کو کیا نصیحت کروں (آپ خود اہل علم ہیں مگر اتنا کہتا ہوں کہ) اے علماء کی جماعت تم چرا غ تھے، تم سے ملکوں میں روشنی حاصل کی جاتی تھی، سواب تم سراسر تاریکی ہو گئے، اور تم ستارے تھے، تم سے ظلمات جہل میں راستہ معلوم کیا جاتا تھا، سواب خود تم سراپا حیرت ہو گئے، تم میں سے ایک شخص ان حکام کے دروازوں پر جاتا ہے (ایک غلطی) پھر ان کے فرشوں پر بیٹھتا ہے (دوسری غلطی) اور ان کا کھانا کھاتا ہے (تیسرا غلطی) اور ان کا

ہدیہ قبول کرتا ہے (چو تھی غلطی) پھر اتنی غلطیوں کے بعد (ہادی بن کے) مسجد میں جاتا ہے (اور اس میں مندرجہ وعظ پر) بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، وہ فلاں سے روایت کرتے ہیں، وہ جناب رسول اللہ ﷺ سے یہ مضمون روایت کرتے ہیں۔ (کس قدر نازیب ابادت ہے) واللہ اعلم، یوں نہیں طلب کیا جاتا، (بلکہ اس کا طریق یہ ہے کہ اول خود عمل کرے پھر دوسروں کو بتاؤ) راوی کہتے ہیں کہ سفیان[ؓ] (یعنی کر) اتنے روئے کیچکی بندھ گئی اور (اس کے بعد چپکے سے) چلے گئے۔

فضیل بن عیاض[ؓ] فرماتے تھے کہ جب تم کسی عالم یا عابد کو دیکھو کہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی نیکی کا ذکر امراء اور اہل دنیا کے یہاں ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ریا کار ہے۔

سفیان بن عقبہ[ؓ] فرماتے تھے کہ جب تم کسی طالب علم کو دیکھو کہ وہ جس قدر زیادہ علم حاصل کرتا ہے اسی قدر زیادہ اس کی طبیعت دنیا اور خواہشاتِ دنیا کی طرف راغب ہوتی ہے تو اسے (۱) علم نہ سکھاؤ، کیونکہ اسے علم سکھا کر اس کے دوزخ میں جانے میں اعانت کرو گے، (اس لئے کہ تم اسے علم سکھاؤ گے اور وہ اسے تحصیل دنیا کا آله بنائے گا، اور یہ امر دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ پس تم سبب ہوئے اس کی دوزخ میں جانے کا، نہ تم اسے علم سکھاتے نہ وہ اسے آله بنائے اسکتا اور نہ دوزخ میں جاتا)۔

کعب بن احبار[ؓ] فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں جہاں علم حاصل کریں گے پھر آپس میں تقرب امراء کی بناء پر یوں رشک و حسد کریں گے جیسے عورتیں آپس میں مردوں کی بناء پر کرتی ہیں، بس یہ حصہ ملتا ہے ان کو علم سے۔

صالح مری[ؓ] فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے علم میں اخلاص کا مدعی ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس وقت اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جبکہ لوگ اس کو جہل و ریاء کے ساتھ متصف

(۱) یہ حکم نایت درع کی بناء پر ہے، ورنہ شرعاً یہے شخص کو علم سکھانا جائز ہے، کیونکہ کسی ایسے امر میں جو فی نفر ملعونیت نہ ہو بلکہ اس کا معصیت ہونا موقوف فاعل مختار کے غلط استعمال پر ہو، کہیں مشرع غرض سے اعانت کرنا جرم نہیں۔ فتد بر

کریں۔ اب اگر وہ اس سے خوش ہو تو وہ سچا ہے اور اگر اس سے انقباض ہو تو وہ ریا کار ہے۔ نیز وہ فرماتے تھے کہ دنیادار عالم کے پاس نشت رکھنے سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہیں اپنے کو بنانے والوں کے علم و اہل علم کی مدح کر کے لے جائے گا (اور اس طرح تمہارا دین غارت کرے گا)۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ جن لوگوں کو اپنے علم سے دکھا و مقصود ہوتا ہے اس کی شناخت یہ ہے کہ ان کا علم تو پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے اور عمل چیزوں کے برابر، (یعنی علم تو بہت کچھ ہوتا ہے اور عمل بالکل تھوڑا)، اور فرماتے تھے کہ اگر حامل علم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اس کی تلخی کو محسوس کر لیتا اور کبھی اس پر عمل ہوتا ہے عالم ہونے پر) نازنہ کرتا، علم سے مقصود عمل ہے اور اس لئے علم سرا سرد مددار یوں کا مجموعہ ہے، اور جس قدر علم بڑھتا ہے اسی قدر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں (پس جس پر ہزاروں بلکہ لاکھوں ذمہ داریاں عائد ہو جائیں اور ہر ذمہ داری کی خلاف ورزی پرنا قابل برداشت سزا ہو، اس کو ان ذمہ داریوں کے علم سے کیا خوشی ہو سکتی ہے)، پس کسی عالم کے لئے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر خوش ہو۔ ہاں پل صراط سے گذر جانے کے بعد اس کو بے شک خوشی کا موقع ہے (اس وقت جتنا چاہے خوش ہو)۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ علم کو عمل کی غرض سے طلب کرو۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بدون عمل کے صرف علم سے نجات ہو جاوے گی۔ (اور اگر ایسا ہو) تو وہ آیات و احادیث کہاں جاویں گی جو علماء بے عمل کی تعذیب کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ذوالنون مصریؓ فرماتے تھے کہ پہلے ہم نے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان میں سے جس کسی کو جس قدر زیادہ علم ہوتا تھا اسی قدر اس کو دنیا سے بے رغبت اور اس کے سامان کے کم کرنے کا خیال زیادہ ہوتا تھا، اور آج ہم ان کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کسی کو جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اسی قدر اس کو دنیا کی رغبت اور اس کے سامان مثل لباس، طعام، مکان، بیویاں، سواری، حشم، خدم وغیرہ کی زیادتی کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔

سفیان بن عیینہ فرماتے تھے کہ حامل قرآن اس پر کیونکر عامل ہو سکتا ہے جبکہ وہ رات کو سوتا ہے اور دن کو روزہ نہیں رکھتا اور حرام اور مشتبہ اموال کھاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز (اپنے زمانہ کے علماء کی نسبت) فرماتے تھے کہ اگر یہ علماء زندہ ہوتے تو جس وقت یہ حرام کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کی تکلیف محسوس کرتے، (کیونکہ وہ بحکم ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطْوَنِهِمْ نَارًا﴾ (آگ کھاتے ہیں) مگر وہ تو مردہ ہیں جو کہ مردار اور آگ کھائے جاتے ہیں (اور نہ ان کو نفرت ہوتی ہے اور نہ تکلیف)۔

منصور بن المعتمر اپنے زمانے کے علماء سے فرماتے تھے کہ تم علماء نہیں، تم تو علم سے مزہ لینے والے ہو، تمہاری یہ حالت ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایک مسئلہ سنتا ہے اور (بجائے اس کے کہ خود اس پر عمل کرے) دوسرے لوگوں سے بیان کر دیتا ہے۔ اور اگر تم اپنے علم پر عمل کرتے تو سخت تکلیف میں بستا ہوتے اور تمہارا علم تم کو ورع و تقوی پر برائیگختہ کرتا یہاں تک کہ تمہیں (بوجہ ندرت^(۱) حلال کے) کھانے کو روٹی بھی نہ ملتی (چہ جائیکہ تم مال و دولت اور سامان دنیا جمع کرو)۔

ربیع بن خیثم فرماتے تھے کہ عالم کے لئے کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علم سے ریا کاری کرے، حالانکہ وہ اپنی نسبت جانتا ہے کہ اس نے غیر اللہ کے لئے علم سیکھا ہے اور اس لئے وہ سرے ہی سے لاشی ہے۔ پس وہ ایک ایسی شی کے ذریعہ سے جو لاشی محض ہے، اپنے کو لوگوں پر فائق کیسے سمجھتا ہے؟

امام نووی کی یہ حالت تھی کہ جب حاکم وقت ان کے پاس بے خبری میں جاتا اور وہ مدرسہ اشرفیہ یا جامع بنی امیہ میں درس دیتے ہوتے تو اس کے آنے سے مکدر ہوتے اور جبکہ ان کو معلوم ہوتا کہ کوئی بڑا آدمی ان کے درس کے روز ان سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس روز درس کو اس خیال سے موقوف کر دیتے کہ امیر ان کو اس حالت میں دیکھے گا کہ وہ اپنے مجمع اور اپنے بڑے حلقات میں بیٹھے ہوں گے، اور فرماتے

(۱) کم پایا جانا

کہ مخلص کی علامت یہ ہے کہ وہ اس وقت جبکہ لوگ اس کی نیکیوں پر مطلع ہو جاوے، یوں مکدر ہو جس طرح اس وقت مکدر ہوتا ہے جبکہ وہ اس کی برائیوں پر مطلع ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے نفس کا خوش ہونا معصیت ہے (کیونکہ یہ خوشی ریاء ہے)، اور ریاء (معصیت بلکہ) بہت سے معاصی سے سخت ہے۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں عالم کے لئے یہ بھی نازیبا ہے کہ وہ حلال سے پیٹ بھرے، (کیونکہ فساد زمانہ کی وجہ سے پیٹ بھرنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور غفلت معاصی کی جڑ ہے، پس جبکہ حلال سے پیٹ بھرنے کی یہ حالت ہے) تو اس کا کیا حال ہوگا جو حرام سے پیٹ بھرتا ہے۔ واللہ اگر میں ایک لقمہ کھالوں اور وہ میرے پیٹ میں اینٹ کی طرح ہو جاوے تو میرے لئے میرے مرنے تک کافی ہو (اور مجھے دوسری غذا کی ضرورت نہ پڑے)، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اینٹ پانی میں تین سو برس تک رہتی ہے۔ اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ علماء کی پرہیزگاری یہ ہے کہ مرغوبات کا کھانا چھوڑیں، رہے معاصی ظاہرہ سوان کو تو اس خوف سے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جاوے گی۔ نیز وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آخری^(۱) زمانہ میں ایسے لوگ آؤں گے جو علم کو غیر اللہ کے لئے حاصل کریں گے تاکہ علم ضائع نہ ہو۔ (یعنی گوان کی تعلیم کا مقصد علم کو ضائع ہونے سے بچانا ہوگا، کیونکہ یہ مقصد ایک شرعی مقصد ہے جس کا انتفاء ان میں فرض کیا گیا ہے لیکن چونکہ یہ ان کے فعل پر مرتب ضرور ہوگا اس لئے اس کو غرض کی صورت میں بیان کر دیا گیا یعنی وہ تو غیر اللہ کے لئے علم سیکھیں گے مگر واقع میں اس سے یہ غرض حاصل ہوگی کہ علم محفوظ رہے گا۔

(مترجم) پھر وہ ان پر قیامت کی دن و بال ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اس مضمون کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید بدکار آدمی کے ذریعہ سے (بھی) کرے گا، اور وجہ تائید یہ ہے کہ ایسے آدمی گو خود بدکار ہیں مگر ان سے دین کی تائید اس

(۱) اصل عبارت یہ ہے: يأتى فى آخر الزمان رجال يتعلمون العلم لغير الله كيلا يضيع، ثم يكون عليهم تبعه يوم القيمة۔ پس لفظ "يضيع" کی ضمیر میں غور کر لیا جاوے۔

لئے ہوتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے آئندہ نسلوں کے لئے دین محفوظ رہتا ہے)۔
 بکر بن عبد اللہ مزنیؓ فرماتے تھے کہ جس کو اپنے علم سے دکھا و مقصود ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم کی ترغیب دے اور ان سے وہ خوبیاں بیان کرے جو اس میں ہیں، پھر اگر کوئی شخص اس سے اس کے ہم عصروں میں سے کسی سے پڑھنے کا مشورہ لے تو وہ اسے پوری ترغیب نہ دے، (کیونکہ ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ترغیب علم سے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی شاگردی کریں اور اس طرح اسے جاہ و مال ملے ورنہ اگر اس کی ترغیب بے غرض ہوتی تو وہ ضرور دوسروں کی شاگردی کی بھی اسی زور کے ساتھ ترغیب دیتا جس طرح اس نے علم کی ترغیب دی تھی)۔

عبد اللہ بن مبارکؓ فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں اہل علم پر حرام اور مشتبہ مال کھانے کی عادت غالب ہو گئی ہے حتیٰ کہ وہ شکم پروری اور شہوت رانی میں بالکل ڈوب گئے ہیں اور انہوں نے اپنے علم کو جال بنالیا ہے جس سے وہ دنیا کا شکار کرتے ہیں۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ اگر اہل قرآن و حدیث میں خرابی نہ آ جاتی تو وہ تمام لوگوں سے بہتر ہوتے مگر انہوں نے اپنے علم کو پیشہ اور ذریعہ معاش بنالیا ہے اور اس لئے وہ آسمانوں میں اور زمین میں دونوں جگہ ذلیل ہو گئے (یعنی خدا اور فرشتوں کے نزدیک بھی حقیر ہو گئے اور آدمیوں کے نزدیک بھی)۔

بشر حافیؓ فرماتے تھے کہ عقلمند کی عقلمندی یہ ہے کہ علم میں ترقی کی اس وقت خواہش کرے جبکہ وہ اپنے موجودہ تمام معلومات پر عامل ہو جاوے، پھر (جب) اس نے ایسا کر لیا اور موجودہ تمام معلومات پر عامل ہو گیا) اس وقت اور علم سیکھے تاکہ اس پر عمل کرے۔

شعیؓ فرماتے تھے کہ علم کو اس حالت میں طلب کرو کہ تم رو تے ہو، کیونکہ وہ سب خدا کے نزدیک تم پر جھٹ ہے۔

جب بشر حافیؓ نے حدیث لکھوانے کے لئے بیٹھنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اس پر فرمایا کہ میں عرض

کروں گا اے اللہ! آپ نے مجھے اخلاص کا حکم دیا تھا اور میں نے اپنے نفس میں اخلاص نہ پایا۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جب تم طالب علم کو دیکھو کہ وہ علم میں ترقی کا طالب ہے نہ کہ عمل میں، تو اس کو تعلیم نہ دو، کیونکہ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے لظل کہ جس قدر وہ پانی سے سیراب ہوتا ہے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے۔ نیز وہ فرماتے تھے کہ جب تم طالب علم کو دیکھو کہ وہ کھانے، پینے، پہنچنے وغیرہ میں گڑ بڑ کرتا ہے اور پر ہیز گاری اختیار نہیں کرتا تو قیامت میں اس پر جنت کو بلکہ کرنے کی غرض سے اس کی تعلیم سے رک جاؤ۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص تمام علم حاصل کرے اور خدا کی یہاں تک عبادت کرے کہ وہ (سوکھ کر لکڑی کے) ستون کی مانند یا پرانی مشک کی طرح ہو جاوے اور اس کی تحقیق نہ کرے کہ جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے حلال ہے یا حرام، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہ کرے گا۔

بشر حافیؓ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو اس وقت تک کسی کو علم نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ وہ برسوں اس کے نفس کو نہ سدھا لیتے، اور ان کو ان کی نیت کی درستی معلوم ہو جاتی۔

عبد الرحمن بن القاسمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالکؓ کی بیس برس خدمت کی ہے، سوان میں سے اٹھا رہ برس تو تعلیم ادب میں صرف ہوئے اور دو برس تعلیم علم میں۔ سو (اس پر بھی) مجھے تعلیم ادب کے زمانہ کی کمی کا افسوس ہے (اور میں کہتا ہوں کہ) اے کاش میں اس تمام زمانہ کو تعلیم ادب ہی میں صرف کرتا۔

امام شافعیؓ فرماتے تھے کہ مجھ سے امام مالک نے فرمایا کہ اے محمد تم عمل کو تو آٹا بناؤ اور علم کو نمک، (یعنی جس طرح اصل مقصود آٹا ہوتا ہے اور نمک اس کی اصلاح کے لئے، یوں ہی تم عمل کو مقصود سمجھو اور علم کو اصلاح کا ذریعہ بناؤ۔

عبداللہ بن مبارکؓ فرماتے تھے کہ جو شخص حاملِ قرآن ہو اور پھر بھی اس کا

دل دنیا کی طرف مائل ہو تو (سمجوکہ) اس نے قرآن کی آیتوں کو دل لگی اور کھیل بنا لیا ہے، اور جب حامل قرآن اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اندر سے قرآن اس کو (بزبانِ حال) پکارتا ہے (اور کہتا ہے) کہ و اللہ میں اس لئے نہیں حاصل کیا گیا، میری نصیحتیں اور میری دھمکیاں کہاں ہیں (اور تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا) اور میرا ہر حرف تجھے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کر۔

امام احمد بن حنبل^{رض} (کا قاعدہ تھا کہ) جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ رات کو نہیں اٹھتا تو اس کی تعلیم سے رک جاتے۔ کسی شب ابو عصمه ان کے ہاں شب باش ہوئے، تو انہوں نے ان کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا، پھر آپ قبل از فجر تشریف لائے تو ان کو سویا ہوا اور پانی کو بحالہ پایا تب آپ نے انہیں جگایا اور ان سے فرمایا کہ ابو عصمه تم کس لئے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے طلب حدیث کے لئے حاضر ہوا ہوں، اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ تم حدیث کے کیسے طلبگار ہو جبکہ تم رات کو تجد نہیں پڑھتے، پس جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ (تم حدیث کے اہل نہیں ہو)۔

امام شافعی^{رض} صاحب فرماتے تھے کہ عالم کے کے لئے کوئی نیک کام ایسا ہونا چاہئے جو اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان پرداز راز میں ہو، (اور کسی کو اس پر اطلاع نہ ہو) کیونکہ جو علم و عمل لوگوں پر ظاہر ہوگا آخرت میں اس کا نفع کم ہوگا۔ اور کسی نے کسی کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں یوں نہیں دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ میرے علم نے مجھے نفع دیا بجز تھوڑے سے آدمیوں کے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو ان کے انتقال کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور کہا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا نے مجھے بخش دیا، اس پر اس نے کہا کہ کیا علم کی وجہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کجا علم اور کجا مغفرت، علم کے (نافع ہونے کی) بہت سی شرطیں اور بہت سے موانع ہیں۔ (اور تحقیق شروع و ارتفاع موانع نہایت مشکل ہے اور) بہت کم آدمی ان موانع سے نجات پاتے ہیں۔

بعض آدمیوں نے جنید^{رض} کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے

عرض کیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ (بھائی) وہ اشارات بھی جاتے رہے، اور وہ عبادات بھی فنا ہو گئیں، اور کسی نے کچھ بھی نفع نہ دیا بجز ان چند معمولی رکعتوں کے جو ہم بڑے تڑ کے پڑھ لیتے تھے۔

بعض لوگوں نے ابوہل صعلوکی کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا آپ کا علم کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ علوم کے جس قدر دقائق تھے، میں نے سب کو ہباء منتظر اپایا بجز ان چند مسائل کے جن کو عوام نے مجھ سے دریافت کیا تھا (وہ تو بیشک نافع ہوئے)۔

پس اے بھائی ان بزرگوں کے اقوال و افعال معلوم کر لینے کے بعد تو اپنے علم و عمل میں اپنے نفس کو ٹوٹوں (اور دیکھ کہ ان میں اس کی حالت کیا ہے؟ پھر اگر تو اس میں دکھاؤا، یا خواہش شہرت پائے جن کو یہ بزرگوار علماء باعمل و بااخلاص (جن کے اقوال ابھی بیان کئے گئے ہیں) منع کرتے ہیں تو تو اپنے اوپر رویا کر (اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کر۔) والحمد لله رب العالمین۔

جاہ طلب لوگوں سے ترک اختلاط

۵- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے (تنبیہ یا حفاظت کے لئے قطع تعلق کر لیتے ہیں جبکہ وہ (باضرورت شرعیہ و بلا مصلحت شرعیہ) امراء سے میل جوں رکھے اور ان کے دروازوں پر آوے جاوے۔ اور وہ اس کی حدیث پر عمل کرنا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو ہبہب کہا جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سرکشوں اور ان را ہن اہل علم کے لئے مہیا کیا ہے جو ظالم حکام کے پاس جاتے ہیں۔ اور حاکم بصرہ نے ایک روز مالک بن دینار سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس چیز نے ہم سے سخت کلامی پر جرات دلائی ہے؟ اور کیا سبب ہے کہ ہم آپ کے مقابلہ پر قادر نہیں (سنئے) وہ آپ کی ہمارے مقبوضات میں بے طمی اور ان سے بے رغبتی ہے۔

ابن السماک فرماتے تھے کہ میں ایک روز حاکم بصرہ کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا اے ابن سماک مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اس پر اس سے کہا کہ تف ہے تجھ پر بھی جس نے تجھے لوگوں کے حقوق پر حاکم بنایا ہے، کیونکہ تم لوگ اس قابل ہو کہ تم سے پل بنائے جائیں (اور حکومت کے ہرگز قابل نہیں)۔

محمد بن واسع قتبیہ بن مسلم کے پاس گئے، اس وقت وہ صوف کا کرتہ پہنچے ہوئے تھے اس پر قتبیہ نے کہا کہ آپ نے صوف کا کرتہ کیوں پہنا ہے؟ اس کے جواب میں محمد خاموش ہو گئے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ خاموش ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ (آپ کے سوال کے جواب میں) اگر میں یہ کہتا ہوں کہ زہد سے (میں نے ایسا کیا ہے) تو یہ اپنا تذکیرہ ہے (کہ میں دنیا کی طرف سے بے پرواہوں)، اور اگر میں کہتا ہوں ناداری سے (میں نے ایسا کیا ہے، تو یہ خدا کی شکایت ہے۔ اور یہ دونوں باتیں مجھے ناپسند ہیں، اس لئے بجز سکوت کے مجھے کوئی چارہ نہ تھا)۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ واللہ اگر ہارون الرشید میرے پاس آنے کی اجازت چاہے تو میں اسے اجازت نہ دوں بجز اس صورت کے کہ اس کے لئے مجبور کیا جاؤں حالانکہ میں درویش بھی نہیں۔ پھر یہ درویش کیسے ہیں جو خود بخود اس کے پاس جاتے ہیں۔

محمد بن ابراہیم والی مکہ مطاف میں سفیان ثوریؓ کو سلام کرنے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا (اس موقع پر) سلام کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب یہ ہے کہ میں یہ جان لوں کہ آپ بھی طواف کرتے ہیں، تو جائیے مجھے معلوم ہو گیا۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ امراء کے پاس جانے اور ان سے ملنے جلنے کا کوئی شخص اہل نہیں، بجز اس شخص کے جو امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ کی طرح (بے لاغ اور حق گو ہو)۔ رہے ہم ایسے آدمی سوان میں ان کے پاس جانے کی اہلیت نہیں، کیونکہ یہ لوگ نہ ان کو روزِ نصیحت کر سکتے ہیں اور نہ ان کے ظلم و جور، ریشمیں فرشوں اور

پر دوں وغیرہ پر اعتراض کر سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ امیر معاویہؓ کے یہاں لوگوں نے کوئی بات چھیڑی۔ احف بن قیس بھی بیٹھے ہوئے تھے، سو وہ کچھ نہ بولے، اس پر امیر معاویہؓ نے ان سے فرمایا کہ کیا بات ہے آپ کچھ نہیں بولتے؟ اس کے جواب میں احف نے کہا کہ میری خاموشی کا سبب یہ ہے کہ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو خدا کا ڈر ہے، اگر حق کہتا ہوں تو آپ کا خوف ہے (کہ وہ آپ کے خلاف مزاج ہوگا)، اس لئے میں نے خاموشی ہی کو بہتر سمجھا۔

(یہ تو حضرات مذکورین کے وہ ملفوظات تھے جن سے امراء کے ساتھ اختلاط کی نہ ملت اور ان کے ساتھ اہل اللہ کا برتاب معلوم ہوتا ہے) اور آئندہ دیگر ملفوظات بھی اس مقام کے مناسب متفرق طور پر آؤں گے۔ والحمد لله رب العالمین۔

ترک نفاق

۶- ہم سے سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اخلاق کے متعلق چند عہد لئے گئے ہیں۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ وہ ترکِ نفاق پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ (نیکی میں) ان کا باطن اور ظاہر دونوں بالکل یکساں ہوتے ہیں۔ اور اس بناء پر ان میں سے کسی کا کوئی عمل (ظاہر تو کبجا مخفی بھی ایسا نہیں ہوتا)، جس کے سبب وہ کل کے روز آخرت میں رسوا ہو، (کیونکہ اول تو وہ حتی الوع بر اکام کرتے ہی نہیں، اور اگر بمقتضایہ بشریت ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں، جس سے وہ کالعدم ہو جاتا ہے)۔

ابوالعباس خضر علیہ السلام نے عمر بن عبد العزیزؓ کو جو وصیت اس وقت فرمائی تھی جبکہ ان کی ان سے مدینہ مشرفہ میں ملاقات ہوئی، یہ تھی کہ انہوں نے ان سے فرمایا کہ عمر! خبردار ایسا نہ کرنا کہ ظاہر میں تو تو خدا کا دوست ہو اور پوشیدگی میں خدا کا دشمن۔ کیونکہ جس کی ظاہری اور پوشیدہ حالت یکساں نہ ہو وہ منافق ہے۔ اور منافقین دو زخ

کے سب سے پہنچ کے درجہ میں ہوں گے،^(۱) یعنی کر حضرت عمر بن عبد العزیز اس قدر روئے کہ (آنسوؤں سے) ریش مبارک تر کر دی، اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو دنیا کو اعمال آخرت کے ذریعہ سے یعنی دنیا کو دین کے ذریعہ سے طلب کریں گے۔ یہ لوگ نرمی کے سبب بھیڑوں کی کھالیں پہنچیں گے۔ (یعنی اپنی نرم خوئی کے سبب ایسے ہوں گے جیسے بھیڑیں غریب ہوتی ہیں، اور یا یہ مطلب ہو کہ وہ حقیقت بھیڑوں کی کھالیں پہنچیں گے تاکہ لوگوں پر اپنا زہد ظاہر کریں، مگر مقصود ان کا تنعم ہو گا)۔ ان کی زبان میں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں: کیا یہ لوگ میرے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں (اور یہ صحیح ہیں کہ میں ان سے مُؤاخذہ نہ کروں گا) یا میرے مقابلہ میں دلیری سے کام لیتے ہیں (اور یہ صحیح ہیں کہ خدا ہمارا کیا کر سکتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ یہ لوگ بد اعمالی کی پروانہیں کرتے، خیر کچھ بھی ہو۔ خواہ وہ دھوکے میں بتلا ہوں یا جری و بے باک) میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان پر ایسا فتنہ بھیجوں گا کہ وہ ان کے عقول اکو متہیر کر دے گا (اور ان کو اس سے بچنے کی سبیل نہ معلوم ہو گی۔ اور بالآخر وہ اسی فتنہ میں ہلاک ہو جاویں گے)۔

مہلب بن ابی صفرہ فرماتے تھے کہ میں ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہوں جس کی زبان اس کے فعل سے بڑھی ہوئی ہو، (مطلوب یہ ہے کہ وہ زبان سے اچھی باتیں بیان کرتا ہو اور اعمال اچھے نہ کرتا ہو)۔

عبد الواحد بن زید فرماتے تھے کہ حسن بصری اس رتبہ کو (جس رتبہ کو وہ پہنچے ہیں، اس سبب سے پہنچے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو کسی بات کا حکم کرتے تھے تو سب سے (۱) یعنوان تبدیدی ہے ورنہ ہر منافق کا یہ حکم نہیں کہ وہ دوزخ کے سب سے پہنچ کے طبقے میں ہو گا، بلکہ یہ حکم منافق کامل کا ہے، جو مظہر اسلام و مبطئ کفر ہو۔ اور جن مسلمانوں میں نفاق کی بعض علامتیں پائی جاویں ان کا ادراک اسفل میں ہونا ضروری نہیں۔ اور یہ بحسب ظاہر ہے لیکن اگر یہ کہا جاوے کہ یہ سزا مطلق نفاق کی ہے اور نفاق عملی و اعتقادی میں خلود و عدم خلود کا فرق کیا جائے تو گنجائش ہے۔ واللہ اعلم

پہلے وہ خود اس کو کرتے تھے، اور جس بات سے وہ ان کو منع کرتے تھے اس سے خود ان سے زیادہ دور اور محترز ہوتے تھے (یہ تو ان کے تطابق قول فعل کی حالت تھی) اور (تطابق ظاہر و باطن کی یہ حالت تھی کہ) اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جس کا ظاہر اس کے باطن سے حسن بصری سے زیادہ ملتا جلتا ہو۔

معاویہ بن فرہ فرماتے تھے کہ دل کا رونا (یعنی معصیت سے ندامت و پیشہ مانی) آنکھ کے روئے سے بہتر ہے۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے کہ دل ہاندیاں ہیں اور دل والوں کی زبانیں ان کی ڈویاں (مطلوب یہ ہے کہ جس طرح ہاندی کا سالن ڈولی کے ذریعہ سے نکلا جاتا ہے، یوں ہی دل کی بات زبان سے ظاہر کی جاتی ہے)۔ پس جس طرح سالن کا اصلی مقرر ہاندی ہوتی ہے یوں ہی عبودیت کا اصلی معدن قلب ہونا چاہئے، (یعنی جس طرح تم منہ سے بندہ ہو یوں ہی دل سے سے بھی بندہ ہو، (اور یہ نہ ہونا چاہئے کہ زبان سے تو عبودیہن، و بندگی کا اقرار ہو اور دل سے اس کا انکار، بلکہ پہلے دل سے بندہ ہو اور پھر زبان سے)۔

مروان بن محمد فرماتے تھے کہ مجھ سے جس کسی کی تعریف کی گئی، میں نے اس کو اس تعریف سے جو تعریف کرنے والوں نے کی تھی، کمتر پایا بجز وکیع کے کہ میں نے ان کو اس سے بڑھ کر پایا۔

عقبہ بن عامر فرماتے تھے کہ جب آدمی کا باطن اس کے ظاہر کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ واقعی میرا بندہ ہے۔

ابو عبد اللہ انطا کی فرماتے تھے کہ سب اعمال میں افضل عمل مخفی گناہوں کا ترک ہے، کسی نے کہا کہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لئے کہ جب آدمی مخفی گناہوں کو چھوڑے گا تو وہ ظاہر گناہوں کو تو بالا ولی چھوڑے گا۔ پھر (فرمایا کہ) جس کا باطن اس کے ظاہر سے افضل ہو تو یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، اور جس کا ظاہر و باطن دونوں مساوی ہوں تو یہ اعتدال ہے، اور جس کا ظاہر اس کے باطن سے بڑھا ہوا ہے یہ ظلم ہے۔

یوسف بن اس باط فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اپنے اعمال کو (میری رضا کے لئے) مخفی رکھیں (طلبِ جاہ و مال کے لئے لوگوں پر ظاہرنہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ) میں ان کو ان پر ظاہر کر دوں گا، اور ایسا ہی مضمون اس سے پیشتر ایک خلق میں گذر چکا ہے۔

ابو عبد الرحمن زاہد اپنی مناجات میں فرمایا کرتے: ارے میری بد نختی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ امانت کا معاملہ کیا اور اپنے پروردگار کے ساتھ خیانت کا، اے کاش! میں اس کا اتنا معاملہ کرتا، اور یہ فرمایا کہ رو نے لگتے۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ جو شخص لوگوں کو ایسی بات کا حکم کرے جس تک اس کا حال نہیں پہنچا (یعنی وہ خود اس پر عامل نہیں) (تو وہ منافق ہے بجز اس صورت کے کہ کوئی از خود اس سے اس کا حکم دریافت کرے، (ایسی حالت میں بتلانے کا مضافات نہیں)، اور فرماتے تھے: دیکھنا یہ نہ ہو کہ دن میں نیک ہو اور رات میں بد شیطان۔ (یعنی یہ نہ کرنا چاہئے کہ لوگوں کو اپنی نیکی کا یقین دلانے کے لئے ان کے سامنے اچھے کام کرے، اور جب لوگ نہ دیکھتے ہوں تو شیطانی افعال کا مرتبہ ہو۔

ابراهیم تیجی کا یہ مقولہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے علم کو اپنے عمل پر پیش کیا تو میں نے اپنے نفس کو اپنی معلومات پر عامل نہ پایا۔

زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنے نیک کاموں کا بھی مخفی ذخیرہ کرو جس طرح تمہارے پاس برے کاموں کا مخفی ذخیرہ ہے۔

معاویہ بن فرہ کا یہ قول پہلے گذر چکا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے ایسا شخص بتا دے جو رات کو روتا ہو اور دن کو ہستا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں۔

ابو مسلم خولا نی فرماتے تھے کہ یہ مجھ پر خدا کا انعام ہے کہ میں نے تیس برس سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے شرم آوے، بجز اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کے۔

ابو عبد اللہ سرقندی کی جب کوئی تعریف کرتا تو آپ فرماتے کہ بخدا میری اور تمہاری حالت بالکل ایسی ہے جیسے اس لڑکی کی جس کی بکارت بدکاری سے زائل ہو گئی

اور اس کے گھر والوں کو خبر نہ ہو، پس گھر والے شب زفاف کو خوش ہوں اور وہ اپنی رسوانی کے خوف سے غمگین ہو۔

ابو امامہ ارمی کی مسجد میں لوگوں کے سامنے رونے کو برا بحث تھے، کیونکہ اس میں ان کو ریاء کا خطرہ ہوتا تھا۔

میمون بن مهران فرماتے تھے کہ اچھا ظاہر بدون اچھے باطن کے ایسا ہے جیسا پاخانہ، جو باہر سے آراستہ و پیراستہ ہوا اور اندر بدبو اور گندگی ہو۔ اور جو ایسے مال پر اترائے جو اسے حاصل نہ ہو۔ اس کا کسب اس کی تکذیب کرے گا۔

پس یہ ہی حالت اس شخص کی سمجھو جوان اعمال پر فخر کرتا ہے جو اس نے نہیں کئے۔

تیجی بن معاذ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کو محض زبانی باتوں کی بنا پر اور بغیر اس کے کہ وہ صالحین کے ساتھ ان کے اعمال میں موافقت کرے، صالحین میں سے سمجھیں تو وہ ایسا ہے جیسا وہ شخص جو بلا اجازت اس شاہی دعوت میں شریک ہو جو خواص سلطانی کے ساتھ مخصوص ہے، (کیونکہ صلحاء اللہ تعالیٰ کے مخصوصین میں سے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص طور پر مدعاو ہیں، اور یہ شخص ان میں سے نہیں ہے مگر جنکف ان میں شامل ہو کر شریکِ دعوت ہونا چاہتا ہے)۔ اور جو شخص عمل کو چھوڑ کر زبانی باتوں پر اکتفاء کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے لئے اس کو عطا سے معاوضہ نہ دیں گے بلکہ صرف وعدہ سے معاوضہ دیں گے۔

بلال بن سعد فرماتے تھے کہ جب فقیر زہد کا نا حق دعویٰ کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنتے ہوئے اور تمثیر کرتے ہوئے اس کے گرد ناچتا ہے۔

عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ آدمی کو خالص ایمان نصیب نہیں ہوتا تا و فتیکہ وہ یہ نہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے (اور یہ علم اس کے اندر رائخ نہ ہو جاوے) اور (اس بنا پر) وہ کوئی کام (علی الاعلان تو کجا) خفیہ (بھی) ایسا نہ کرے جس سے وہ قیامت کے روز رسوا ہو۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ اگر تم میرے ان افعال کو جان لو جو میں تم پر دروازہ بند کر کے (تہائی میں) کرتا ہوں تو تم میں سے کوئی میرے گرد نہ بیٹھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ ارشاد از قبیل کسر نفسی و تہمت نفس ہے (نہ کہ بناء بر واقعہ۔ خدا یہ دولت ہر مسلمان کو نصیب کرے)۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں اہل علم پر ریا غالب ہے۔ وہ لوگ لوگوں کے سامنے اپنا عابد ہونا ظاہر کرتے ہیں اور ان کے دل آپس کے کھوٹ، کینہ اور عداوت سے لبریز ہیں۔ اور جب تم کو کسی اہل علم سے کوئی کام ہو تو تم اس کے پاس اس کے ہم جنس عالم سے سفارش نہ کراؤ، کیونکہ اس سے (وہ جل جائے گا اور) اس کا دل تم پر سخت ہو جاوے گا، بلکہ کسی دولت مند سے سفارش کراؤ، کیونکہ اس سے تمہارا کام خوب نکل آوے گا (بدیں وجہ کہ وہ شخص تقرب اغنية کا خواہاں ہے، اس لئے وہ اس دولت مند کی سفارش کو اپنے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر ضرور قبول کر لے گا)۔

اس خلق پر مزید گفتگو اسی کتاب کے دوسری مقامات پر بھی آوے گی (الہذا تم کو متنبہ رہنا چاہئے)، اب (جبکہ تجھے بزرگانِ سلف کے اقوال معلوم ہو گئے تو اے بھائی تو اپنے نفس کو شوں اور (دیکھ) آیا تیراباطن و ظاہر یکساں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو خدا کا شکر کر، اور اگر نہیں اور غالباً نہیں ہوگا تو ان کو یکساں بنانے کی کوشش کر، اور (ہر حال میں) استغفار کی کثرت رکھ اور سمجھ لے کہ جو لوگوں کے سامنے اپنی حالت اپنے باطن کے خلاف ظاہر کرے گا وہ (ایک گونہ) منافق ہے (اور اس میں نفاق کا ایک شعبہ ہے، اس لئے وہ) منافقین کے ساتھ محسور ہوگا۔ اس کو خوب سمجھ لے۔ والحمد لله رب العالمين۔

حاکموں کے ظلم پر صبر کرنا

۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حکام کے ظلم پر نہایت صبر کرتے ہیں اور اس بات کو پورے طور پر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس سزا سے کم ہے، جس کے وہ اپنے گناہوں کے سبب مستحق ہیں۔ اور صالح مری فرماتے تھے کہ جب

لوگوں کا باطن اور ظاہر یکساں نہ ہو تو ان کو چاہئے کہ جس قسم کی بھی مصیبتوں اور آفتیں ان پر نازل ہوں ان کو عجیب نہ سمجھیں (کیونکہ وہ بے وجہ نہیں ہیں کہ ان پر تعجب ہو، بلکہ ان کی) بد اعمالی ان کا سبب ہے۔

عمر بن عبد العزیز فرماتے تھے کہ حجاج بن یوسف ثقیل خدا کی طرف سے ایک آفت تھا جو کہ لوگوں کی غلط کاری کے موافق تھی۔

امام ابوحنیفہؓ فرماتے تھے کہ جب تیرا کسی ظالم بادشاہ سے پالا پڑ جاوے اور اس کے سبب سے تو اپنے جامہ دین کو چھاڑے (یعنی بد دینی میں مبتلا ہو جاوے تو تو اپنے لئے اور اس کے لئے کثرت استغفار سے اس میں پیوند لگا) (یعنی اس طرح اس نقصان کو پورا کر)۔

محمد بن یوسفؐ کے بھائی نے ان سے اپنے ملک کے حکام کے ظلم کی شکایت کرتے ہوئے ان کو ایک خط لکھا، تو محمد بن یوسفؐ نے ان کو ان الفاظ میں جواب دیا: ہمیں تمہارا خط ملا، برادر من! تمہارے علم سے یہ امر مخفی نہیں ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وقوع سزا پر اعتراض کرے، جس مصیبت میں تم مبتلا ہو، میں اس کو صرف گناہ کی شامت سمجھتا ہوں۔ والسلام

خلیفہ ہارون الرشید نے ایک شخص کو ناقص قید کر دیا، تو اس نے اس کو اس مضمون کا رقعہ لکھا: اے ہارون تو سمجھ لے کہ میری قید اور میری تکلیف کا جو دن گذرتا ہے اسی کی مثل تیری عمر اور تیرے عیش کا بھی ایک دن گذرتا ہے یہ بات نزدیک ہے (کچھ دور نہیں عنقریب میری مصیبت اور تیرے عیش کا زمانہ ختم ہو جاوے گا) اور اللہ تعالیٰ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب ہارون نے وہ رفعہ پڑھا تو فوراً سے رہا کر دیا، اور اس کے ساتھ کچھ سلوک بھی کیا۔

ایک دفعہ لوگ ابراہیم بن ادہم کے پاس بادشاہ کی طرف سے کچھ مال اس غرض سے لائے کہ وہ ان فقراء کو تقسیم کر دیں جن کو وہ جانتے ہیں (کہ وہ حاجمند ہیں) تو ابراہیم بن ادہمؐ نے وہ مال انہی کو واپس کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب خداۓ تعالیٰ ظالم

سے اس مال کے متعلق باز پرس کریں گے جو اس نے ظلمًا حاصل کیا تھا تو وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو ابراہیم کو دے دیا تھا، پھر وہ طالم اسے مجھ سے واپس لے گا، (اس لئے میں اس کو قبول کرنے سے معدود رہوں)، ہاں جس نے اسے اکھٹا کیا ہے وہی اس کی تقسیم کا زیادہ مستحق ہے، (لہذا اسے چاہئے کہ وہ خود تقسیم کرے)۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ توراة میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے قلوب میرے قبضہ میں ہیں۔ پس جو شخص میری اطاعت کرے گا میں ان کو اس پر رحمت بنا دوں گا، اور جو شخص میری نافرمانی کرے گا میں ان کو اس پر عقاب بنا دوں گا۔ لہذا تم کو بادشاہوں کو برا کہنے میں مصروف نہ ہونا چاہئے، اور اس کی طرف (تو بہ واستغفار کے ساتھ) رجوع کرنا چاہئے، جو تم پر ان سے زیادہ مہربان ہے (یعنی میری طرف)۔

عبدالملک بن مروانؑ اپنی رعیت سے فرماتے تھے کہ اے گروہ رعیت! تم ہم سے انصاف کا برتاؤ کرو، (تم سخت بے انصافی کرتے ہو اس لئے کہ تم ہم سے تو یہ چاہتے ہو کہ ہم تم سے ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کا سا برتاؤ کریں، اور خود ہم سے ان کی رعایا کا سا برتاؤ نہیں کرتے۔ پس ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر فریق کی دوسرے فریق کے مقابلہ میں اعانت کرے (اور ہم کو عدل کی توفیق دے اور تم کو اطاعت کی)۔

ابن السمکؓ فرماتے تھے کہ جب تم ان اعمال میں بنتا ہو جن کو تمہارا پور دگار پسند نہیں کرتا، اور (اپنی معدرات کے لئے) یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا تھا (اس لئے ہمارا کچھ قصور نہیں) تو تم اپنے حکام کو بھی معدود قرار دو، کیونکہ جو ظلم وہ تم پر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان پر مقدر کیا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر شخص دلی خواہش رکھتا ہے کہ وہ تم میں سے کسی پر ظلم نہ کرے، مگر تمہارے اعمال ہی تم پر ظلم کرنے کا سبب ہو جاتے ہیں، (کیونکہ جب تم بد اعمالی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری سزا کے لئے ان کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ اب اگر تقدیر الہی تمہارے لئے عذر ہے تو حکام

کے لئے بھی عذر ہے، اور اگر حکام کے لئے نہیں اور تم بھی مانتے ہو کہ نہیں تو پھر تقدیر الہی تمہارے لئے بھی عذر نہیں ہو سکتی۔

اور جب خلافت^(۱) عمر بن عبد العزیز کو پہنچی (اور وہ بادشاہ ہوئے) تو وہ روئے اور اپنی بیویوں اور لوٹدیوں کو اختیار دیدیا (کہ اگر وہ چاہیں تو بیویاں طلاق لے کر، اور لوٹدیاں بدوں طلاق کے، کیونکہ ان کو طلاق کی ضرورت نہیں، دوسروں سے نکاح کر لیں) اور فرمایا کہ مجھے ایسا کام پیش آگیا ہے جس نے مجھے اپنے میں مشغول کر کے تم سے غافل کر دیا ہے، اور اب میں تمہاری خبر گیری کے لئے اس وقت تک فارغ نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ قیامت کے روز حساب سے فارغ نہ ہو جاویں۔ یہ سن کر ان کے گھر کے لوگ رونے لگے یہاں تک کہ ان کے پڑو سیوں نے یہ سمجھا کہ ان کے یہاں کوئی موت ہو گئی ہے۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ ہم نے علماء کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہنے کو افضل سمجھتے تھے، اور آج وہ امراء کے وزیر اور ظالموں کے کار فرماء ہو گئے ہیں۔

عطاء بن ابی رباح سے کسی نے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو حکام کی پیشکاری کی خدمت انجام دیتا ہے اور جو وظیفہ انہوں نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ اس سے آگے نہیں بڑھتا (اور رשות نہیں لیتا) تو عطاء نے فرمایا کہ میں تو یہ ہی سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ ملازمت چھوڑ دینی چاہئے۔ کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنایا: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلْنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ جب حاکم ظلم کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل مملکت میں کمی ڈال دیتے ہیں حتیٰ کہ بازاروں میں، روزیوں میں، کھیتوں میں، چھلوں میں اور تھنوں میں، غرض ہر چیز میں کمی ڈال دیتے ہیں۔ (مطلوب یہ ہے کہ حکام

(۱) میری سمجھ میں نہیں آیا کہ عمر بن عبد العزیز کا قصہ بیان کرنے سے اس جگہ کیا مقصود ہے۔ اس میں غور کر لیا جاوے۔ مترجم

کے ظلم سے رعایا میں بھی کمی آ جاتی ہے بدیں وجہ کہ پیدائش کم ہو جاتی ہے اور متین زیادہ ہو جاتی ہیں اور بازاروں میں گرانی ہو جاتی ہے، اور پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، جانوروں کے دودھ خشک ہو جاتے ہیں۔

ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ حکام کے عطیات لوگوں کے دین کی قیمت ہوں گے، (مطلوب یہ ہے کہ حکام بد دین ہوں گے، اور ان کے ملازمین اور متفہین جوان سے روپیہ لیں گے، ان کو ان کی خوشامد میں دین چھوڑنا پڑے گا)۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ جو شخص ظالم کے سامنے (اس سے خوش ہو کر) بنے یا (اس کی تعظیم کے سبب) اس کے لئے مجلس میں جگہ کھولے یا (بلا اتحقاق) اس کا عطیہ لے، اس نے اسلام کے دستے توڑ دئے، اور وہ ظالموں کے مدگاروں میں لکھا جاوے گا۔ اور اسلام کے دستے توڑنے سے مراد یہاں قواعدِ سلف کی مخالفت ہے۔

طاوس اکثر اپنے گھر بیٹھے رہتے (اور بلا ضرورت باہر نہ نکلتے)، اس پر کسی نے اس بارہ میں ان سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرز کو حکام کے ظلم اور رعایا کی خرابی اور سنت کے رخصت ہو جانے کے سبب اختیار کیا ہے، کیونکہ جو شخص اقامت حق کے بارہ میں اپنے بیٹے اور اپنے غلام میں فرق کرے وہ بھی ظالم ہے۔ (مقصود یہ ہے کہ اب نہ حکام میں دین رہا اور نہ رعایا میں، اور اس لئے نہ وہ دین کی بات سننی گوارا کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل ضروری سمجھتے ہیں، اس لئے مجبوراً میں نے عزلت اختیار کی ہے۔

میمون بن مهران فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے عمر بن عبد العزیز تھے۔ اور ان کی نسبت میرا یہ خیال ہے کہ) میں ان کو مردہ دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں بہ نسبت اس کے کہ میں ان کو حاکم دیکھوں (اس سے تم موجودہ حکام کی نسبت میرے خیال کا اندازہ کر سکتے ہو)۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ جب حاکم دبلے سے موٹا ہو جاوے تو سمجھ لو کہ

اس نے اپنی رعیت کی بھی خیانت کی اور اپنے رب کی بھی، (کیونکہ موٹے ہونے کا سبب تنعم اور بے فکری ہے۔ اور یہ دونوں با تین منشاء رعیت و منشاء حق تعالیٰ کے خلاف ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو اس لئے حاکم نہیں بنایا کہ وہ تنعم اور بے فکر ہو جاوے بلکہ انہوں نے اس کو اس لئے حاکم بنایا ہے کہ وہ ان کی خبر گیری کرے، اور ہر وقت ان کی بہبودی کی فکر اس کو لا حق رہے، اور اس میں وہ اپنے کو کھپاوے)۔

ابوالعالیٰ ایک روز ہارون الرشید کے پاس گئے تو اس کو یہ نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ بد کار ہی کی جانب سے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہی کی جانب سے ہو۔

پس اے مسلمان بھائی (تو بھی اپنے نفس اور جوارح کا حاکم ہے سو) اب تو اپنے دل میں سوچ کر کیا تو نے ان سے اپنے گوشہ میں اپنی رعیت یعنی (نفس) اور اعضاء کا حق ادا کیا ہے؟ اس طرح پر کہ تو نے ان سے رضاۓ حق تعالیٰ میں کام لیا ہو، اور اس کی نافرمانیوں سے ان کو روکا ہو، یا تو نے اپنے نفس اور اپنے اعضاء سے خیانت کی ہے (اس لئے سوچنے کی ضرورت ہے)، کیونکہ ہر نگہبان سے اس کے زیر اثر اشیاء کی بابت باز پرس ہوگی (خواہ حاکم عرفی ہو یا کوئی اور) اور اے بھائی خبردار امراء کے پاس نہ جانا اگرچہ اسی قصد سے ہو کہ تو ان کو امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرے گا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ تجھ سے انجام کونہ پہنچے گا، (جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ہیبت تیرے لئے نصیحت سے مانع ہوگی۔ دوسرے ان کی نفس پرستی تیری نصیحت کے ماننے سے مانع ہوگی۔ تیرے تیرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، ممکن ہے کہ ان کے تنعم اور تعیش کو دیکھ کر تیرا نفس خود پھسل جاوے اور تو بھی ان کے رنگ میں رنگ جاوے۔) والحمد لله رب العالمین۔

غیرتِ اسلامی

۸- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حق تعالیٰ کی قابل

احترام اشیاء (احکام وغیرہ) کی تحقیر کی جاوے تو ان کو خدا کے لئے اور شریعت مطہرہ کی نصرت کے لئے جوش غیرت ہوتا ہے اور اسی بناء پر وہ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں، بجز اس صورت کے کہ وہ یہ جان لیں کہ اس میں خدا کی رضا ہے، اور اسی لئے نہ وہ کسی سے دنیوی غرض سے محبت رکھتے ہیں اور نہ عداوت، (اور یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی ایک بڑی دلیل ہے کیونکہ) حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا کے لئے محبت اور خدا کے لئے عداوت ایمان کے مضبوط دوستون میں سے ہے۔ سو اگر کوئی شخص تمام جن و انس کی عبادت کے برابر اپنے رب کی عبادت ثواب کے قصد سے کرے اور وہ رضائے خداوندی سے غافل ہو تو وہ طریق صوفیہ سے خارج ہے (کیونکہ ان کے نزدیک مقصود بالذات قصد رضائے حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور بالتعیّن اس کے انعامات سے فائدہ اٹھانا۔ اور شخص مذکور نے مقصود بالذات کو نظر انداز کر دیا اور مقصود بالتعیّن کو مقصود بالذات بنالیا، الہذا وہ اس طریق سے خارج ہے۔) اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھی کہ کیا تم نے ہمارے لئے کام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اے میرے رب! میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے روزے رکھے، میں نے خیرات کی (یہ سب باتیں آپ کے لئے کیں) اور ان کے علاوہ اور باتوں کا بھی نام لیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ^(۱) یہ تو نے اپنے لئے کی ہیں (ان کا ذکر فضول ہے)، ہاں (یہ بتاؤ) کہ کیا تم نے کبھی کسی دوست سے میری وجہ سے دوستی کی

(۱) اس مقام پر نماز، روزہ وغیرہ کو اپنے لئے اور حب فی اللہ و بعض فی اللہ کو خدا کے لئے فرمایا گیا ہے، حالانکہ دونوں بلحاظ قصد خدا کے لئے ہیں، اور بلحاظ نتیجہ واشربندہ کے لئے۔ سو وجد اس کی یہ ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ میں فی الجملہ اپنا فائدہ بھی پیش نظر ہوتا ہے گو وہ مقصود بالذات نہ ہو، برخلاف حب فی اللہ و بعض فی اللہ کے کہ ان کا باعث بعض محبت خدا ہوتی ہے، اور ان میں اجر و ثواب اصلاحاً پیش نظر نہیں ہوتا، گو واقع میں ان پر اجر جزیل مرتب ہوتا ہے۔ اس بناء پر دونوں میں فرق کیا گیا ہے، اور یہ فرق وجد ان صحیح سے واضح ہوتا ہے، نہ کہ استدلال سے۔ فراجع إلى وجدان تجده إنشاء الله تعالى۔ مترجم

ہے، یا کسی دشمن سے میری وجہ سے دشمنی کی ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ افضل اعمال میں سے ہیں۔

علی بن الحسین (امام زین العابدین) فرماتے ہیں کہ جن دو آدمیوں کی صحبت طاعت خدا کے لئے نہیں ہوتی، ان کا تفرق بھی خدا کے لئے نہیں ہوتا، (کیونکہ منشاء تفرق انقضائے مقصد صحبت غیر طاعت الہی تھا تو اس کا انقضائے بھی غیر طاعت ہو گا کمالاً یقینی۔ اس پر شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی کسی معصیت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اس حالت میں ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے اور اس بناء پر ان میں تفرق ہو جاتا ہے۔ پس یہاں صحبت تو طاعت کے لئے نہ تھی مگر تفرق طاعت کے لئے ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شبہ ہماری تقریر پر نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں وہ تفرق مراد ہے جو مقصد صحبت کے حاصل ہو جانے کے سبب سے ہو، اور اعتراض میں وہ تفرق مذکور ہے جو مقصد صحبت سے توبہ کا نتیجہ ہے۔ فتدبر)

یوسف بن اسbat فرماتے تھے کہ جب تم حکام کے پاس جاؤ تو خاص طور پر ان کی لئے دعائے کرو، کیونکہ انہوں نے خدا اور رسول (کے قوانین کی خلاف ورزیاں کر کے ان) سے جنگ کر رکھی ہے۔ ہاں عام طور پر مسلمانوں کے لئے دعا کرو۔ اب اگر وہ ان میں داخل ہوں گے تو ان کو بھی دعا لگ جائے گی۔

عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ جب کسی کے ساتھ تیر امیل جوں ہو تو اس سے یہ نہ پوچھ کہ تجھے مجھ سے محبت ہے یا نہیں بلکہ (خود اپنے دل کو شوول اور) دیکھ کہ تیرے دل اور تیرے نفس میں اس کے لئے کیا ہے (آیا محبت ہے یا کچھ اور) کیونکہ جو تیرے اندر ہو گا وہ بالکل ویسا ہی ہو گا جیسا اس کے اندر ہے۔ (اب اگر تیرے اندر محبت ہے تو اس کے اندر بھی محبت ہو گی اور اگر اور کچھ ہے تو اس کے اندر بھی اور کچھ ہو گا۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ جو شخص کوئی برا کام کرے اور وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے، اس سے ناخوش نہ ہو تو (سمجھنا چاہئے کہ اس کی محبت خدا کے

لئے نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی محبت خدا کے لئے ہوتی تو اس کو اس کی نافرمانی پر ضرور غصہ آتا)۔

ابو ہریرہؓ فرماتے تھے کہ قیامت میں ایک شخص خدائے تعالیٰ کے سامنے لا یا جاوے گا اور حق تعالیٰ اس سے فرماؤں گے کہ کیا تو نے خاص میرے لئے (بلا اپنی کسی غرض کے) کبھی کسی دوست سے دوستی کی ہے کہ میں تجھے اس کے حوالہ کر دوں اور وہ تجھے جنت میں لے جاوے)۔ پس (تم کو اس حدیث سے سبق لینا چاہئے اور) نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہئے، اور اپنے کو ان کے احسانات کا مستحق بنانا چاہئے، کیونکہ (گوآج وہ تمہارے ساتھ کسی سلوک کرنے کے قابل نہیں ہیں مگر) قیامت میں ان کا دور دورہ ہوگا (اس وقت وہ تم کو معتمد بہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں)۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ فاسق سے قطع تعلق موجود قرب خدا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا مطلب قطع تعلق قلبی ہے۔ رہا تعلق ظاہری^(۱) اس کا قطع کرنا نامناسب ہے تا کہ اس کی کبھی کو سیدھا کیا جاسکے اور اس کو صفاتِ فسق سے نفرت دلائی جاسکے، کیونکہ فاسق ہر داعی الی اللہ کی گم شدہ چیز ہے (جس کو وہ دعوت الی اللہ کے لئے ڈھونڈتا ہے۔ اور جب واقعہ یہ ہے تو قطع تعلق ظاہری محض بے معنی ہے) پس اس کو خوب سمجھلو۔ واللہ اعلم

سفیان ثوریؓ سے دریافت کیا گیا کہ جب فاسق کے یہاں موت ہو جاوے تو اس کی تعزیت کی جاوے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں (یہ اس وقت ہے جبکہ اس کو اس کے اصلاح حال میں مؤثر سمجھا جاوے، ورنہ فسق سے حقوق اسلام منقطع نہیں ہوتے)۔

(۱) قطع تعلق ظاہری اگر اصلاح حال فاسق میں مؤثر ہو تو اس کا مرض آفہ نہیں، کیونکہ متعود ارشاد ہے۔ اور ارشاد کبھی تفہیم سے ہوتا ہے اور کبھی تعزیر سے، جہاں جو طریق مناسب سمجھا جاوے اس پر عمل کیا جاوے، اور کبھی قطع تعلق اپنے کو اور دوسروں کو اس کے ضرر سے بچانے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ پس قطع تعلق ظاہری کو مطلقاً نامناسب قرار دینا صحیح نہیں۔ فتد بر و اللہ اعلم۔ (مترجم)

فضیل بن عیاضؓ ابو بکر و عمرؓ کا ذکر فرماتے اور روتے، اور امیر معاویہؓ کی نسبت فرماتے کہ خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، اور فرماتے کہ وہ اکابر علماء عدین میں سے تھے مگر (افسوس کہ) دنیا کی محبت میں پھنس گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی حب دنیا کو اس پر محمول کرنا چاہئے کہ وہ اس سے عمل آخرت کے لئے محبت فرماتے تھے جیسا کہ سلف صالحؓ کا قاعدہ تھا، بلکہ وہ اولیاء اللہ سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کا مقصد دنیا سے عمل آخرت ہو، کیونکہ وہ جلیل الشان صحابی تھے۔ واللہ اعلم

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ جو شخص مدعی ہو کہ وہ کسی آدمی سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے، اور خدا کی نافرمانی کرنے کے وقت اس سے بغض نہ رکھے تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہے۔

محمد بن الحنفیہؓ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی دوزخی شخص سے ایسی بھلامی کے سبب محبت کرے جو اس سے صادر ہوئی ہے تو خدا اس کا اجر دے گا، اور جو شخص کسی جنتی شخص سے کسی ایسی برائی کے سبب بغض رکھے جو اس سے صادر ہوئی ہے تو اس کو بھی خدا اجر دے گا۔ (وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی اس کے معلوم کرنے کا مکلف نہیں ہے کہ کون دوزخی اور کون جنتی، کیونکہ اس کا علم صرف خدا کو ہے، وہ تو صرف بھلامی اور برائی کو دیکھ سکتا ہے اور اسی کے موافق اس سے معاملہ کر سکتا ہے، سو یہ اس نے کر لیا، لہذا وہ اجر کا مستحق ہے۔ اب خواہ وہ صاحبِ خیر و صاحبِ شر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک کسی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے یا جنت میں۔

مالک بن دینارؓ کا قاعدہ تھا کہ جب کتناں کے مقابلہ میں بیٹھ جاتا تو اسے دھتکارتے نہ تھے اور فرماتے کہ وہ برے ہمنشین سے اچھا ہے، (کیونکہ اس کی برائی اس کی ذات تک محدود ہے برخلاف برے ہمنشین کے کہ اس کی برائی دوسرے ہمنشین میں اثر کرتی ہے) اور فرماتے کہ آدمی کے لئے یہ برائی کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو اور نیکوں پر طعن کرے۔

احمد بن حرب فرماتے تھے کہ آدمی کے قلب کے لئے نیکوں سے میل جوں

رکھنے اور ان کے افعال کو دیکھنے سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں، اور فساق سے میل جوں رکھنے سے زیادہ اس کے لئے کوئی چیز مضر نہیں۔

مکہ بن معاذ فرماتے تھے کہ ولی اللہ زمین میں ایک خوشبودار گھاٹ ہے، سو جب مرید اس کو سو نگھتے ہیں اور اس کی بوان کے قلوب تک پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کے دیدار کے مشتاق ہو جاتے ہیں۔ اب اے میاں تم اپنی حالت میں غور کرو (اور سوچو کہ) آیا خدا کے لئے تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے، اور اسی طرح خدا کے لئے تم نے کبھی کسی سے عداوت کی ہے، یا سب سے خواہش نفس ہی کے سبب سے محبت کرتے رہے اور نفس ہی کے لئے عداوت کرتے رہے (یہ سوچو)، اور اپنے اوپر روا اور رات دن بکثرت استغفار کرتے رہو۔ والحمد لله رب العالمین.

دنیا سے دل نہ لگانا

۹- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کم ہنتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دنیا کا جو ساز و سامان بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، خواہ کپڑے ہوں یا سواریاں یا بیویاں یا مناصب، وہ اہل دنیا کے طرز کے خلاف اس سے منقبض ہوتے ہیں بدیں اندیشہ کہ شاید وہ آخرت کی وہ نعمت ہو جو ان کو (ان کے اعمال کے معاوضہ میں) دنیا ہی میں دیدی گئی ہے اور اس لئے وہ اس کے سبب آخرت کی نعمت سے محروم ہو جائیں)، اور (قطع نظر اس سے) دنیا میں خوشی کا کوئی موقع بھی نہیں کیونکہ مومنین قید خانہ دنیا میں محبوس ہو کر دیدار خداوندی سے محروم ہیں اور وہ شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے جو قید خانہ میں محبوس ہو کر دیدار خداوندی سے محروم ہو۔ پس جس طرح وہ شخص معموم اور مکدر ہوتا ہے جس کو گھر جانے اور گھر کے لوگوں سے ملنے سے روک دیا گیا ہو، یوں ہی اہل اللہ کو بھی اپنی درازی عمر اور دنیا میں محبوس ہو کر دیدار خداوندی سے محروم ہونے کا غم ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس

ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہیں ان بلوتوں کا علم ہوتا جن کا مجھے ہے تو تم تھوڑا ہنستے اور بہت روتے، اور تمہیں عورتوں کے ساتھ بسترتوں پر مزہ نہ آتا، اور تم خدا سے فریاد کرتے ہوئے راستوں پر نکل کھڑے ہوتے (اور جس کا جدھر منہ اٹھتا، گھبراہٹ سے اسی طرف چل دیتا)۔

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مجھے ہننے والے پر تعجب آتا ہے (کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے) حالانکہ اس کے سامنے موت بھی ہے۔

حسن بصریؓ کی یہ حالت تھی کہ ان کو جو کوئی دیکھتا یہ ہی سمجھتا کہ ان پر کوئی تازہ مصیبت پڑی ہے، کیونکہ وہ نہایت غمگین اور خالف رہتے تھے۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ بہت سے ہننے والے ایسے ہیں کہ ان کے کفن دھوپی کے یہاں سے دھل کر آگئے ہیں (یعنی ان کی موت نہایت قریب آگئی ہے مگر یہ احمد اب تک ہنستے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ وہ دنیا میں کوئی دم کے مہمان ہیں)۔

ابن مرزوقؓ فرماتے تھے کہ جو شخص اس کا دعویٰ کرے کہ اسکو گناہوں کا رنج غم ہے اور وہ (اس دعویٰ کے باوجود) شہد اور گھنی سے روٹی کھاوے تو وہ جھوٹا ہے (کیونکہ معموم کوتلذذ اور تنعم سے کیا نسبت)۔

امام اوزاعیؓ ﴿لَا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها﴾ کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ صغیرہ سے مراد تبسم ہے اور کبیرہ سے مراد قہقہہ۔ میں کہتا ہوں کہ^(۱) شاید تبسم سے مراد ایسی آواز سے ہنسی ہو جو مجلس میں سنی جاوے اور مسکراانا مراد نہ ہو۔ کیونکہ مسکراانا جناب رسول اللہ ﷺ کی ہنسی تھی (اور اس لئے اس کو گناہ صغیرہ نہیں کہا جاسکتا)۔

(۱) میں کہتا ہوں کہ امام اوزاعیؓ کا مقصود نہ آیت کی تفسیر ہے، اور نہ صغیرہ و کبیرہ سے مراد گناہ صغیرہ و کبیرہ بالمعنى المعروف ہے، بلکہ یہ مضمون اعتبار کے طور پر ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ہم ایسے گناہگاروں کو قہقہہ تو درکنار تبسم بھی زیان نہیں۔ فتدبر

ثابت بنانی فرماتے تھے کہ مؤمن جب کبھی ہنتا ہے اس کا منشأ موت سے غفلت ہوتا ہے، ورنہ اگر موت اس کے پیش نظر ہو تو ہنسی آنہیں سکتی۔)

عامر بن قیس فرماتے تھے کہ جو دنیا میں زیادہ ہنے گا دوزخ میں زیادہ روئے گا، (کیونکہ ہنسی دلیل غفلت ہے، اور جتنی آخرت سے غفلت ہوگی اتنا ہی اسے دوزخ میں اس غفلت پر افسوس ہوگا اور اتنا ہی وہ روئے گا)۔

عمر بن عبد العزیز چالیس برس تک نہیں ہنے حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہی حالت غزوہ و قاشی کی تھی۔

انس بن مالک فرماتے تھے کہ مجلس میں بہت ہنے والے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے (جو اس کو آخرت سے غافل کر کے ہنسی پر آمادہ کرتا ہے)۔

ایک روز معاذہ عدویہ کا گذر کچھ ایسے جوانوں پر ہوا جو صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا: عجیب بات ہے لباس تو صلحاء کا ہے افہم ہنسی اہل غفلت کی۔

وہیب بن انور فرماتے تھے کہ اسراف سے خالی ہنسی وہ ہے جس سے صرف دانت کھل جائیں اور آوازنہ سنائی دے۔ اور اسراف سے خالی لباس وہ ہے جس سے ستر چھپ جاوے اور گرمی سردی سے بچاؤ ہو جائے۔ اور اسراف سے خالی کھانا وہ ہے جس سے بھوک رک جاوے اور پیٹ نہ بھرے۔

عون بن ابی زید فرماتے تھے کہ مجھے پچاس برس تک عطا سلمی کی صحبت رہی، سو (اتنے عرصہ میں) میں نے کبھی انہیں ہنستے نہ دیکھا۔

عبدالعزیز بن ابی داؤد فرماتے تھے کہ جب صحابہ میں خوش مزاجی نمودار ہوئی توحیق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی : ﴿أَلَمْ يَأْنَ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخُشَّعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ﴾ (یعنی کیا مسلمانوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد سے ان کے دل ڈر جائیں)، یہ سن کر انہوں نے خوش طبعی ترک کر دی اور وہ ڈر گئے۔ اس بارہ میں اور بھی بہت آثار ہیں جو کتب رائق میں مندرج ہو کر مشہور

ہو چکے ہیں، (اس لئے ہم اس جگہ اسی قدر پر اکتفاء کرتے ہیں) اور (ما حصل سب کا یہ ہے کہ اہل اللہ اور غیر اہل اللہ میں موجب امتیاز صرف دو باتیں ہیں۔ ایک آخرت کی طرف توجہ اور دوسرے اس کے واقعات کے لئے تیاری۔ (پس جس میں جس قدر یہ دونوں باتیں ہوں گی اسی قدر اس کا شمار اہل اللہ میں ہوگا، اور جس میں جس قدر یہ باتیں نہ ہوں گی اسی قدر اس کا شمار اہل اللہ میں نہ ہوگا)۔ اب اے بھائی تو اپنے نفس میں اور اس سہو غفلت میں غور کر جو مانعات تقرب الی اللہ کے متعلق تیرے اندر ہیں اور بکثرت استغفار کیا کرو۔ والحمد لله رب العالمین۔

شوق آخرت

۱۰- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کو اپنے اوپر ایسے امور میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے جو خدا کو ان سے ناخوش کرنے والے ہیں تو وہ موت کی آرزو کرتے ہیں، اور یہ اندیشہ ان کو ان علامات سے پیدا ہوتا ہے جو ان کے نفس سے ظاہر ہوتی ہیں اور جو کہ بمنزلہ مقدمات معاصی کے ہوتی ہیں (اور ان پر وہ اس ائمہ اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ قرآن صدور گناہ ہوتے ہیں)، اور بہت سے مواقع پر (جن میں یہ موقع بھی ہے) قرآن دلائل میں شمار ہوتے ہیں۔

عباس غفاری طاعون کے زمانہ میں فرماتے تھے کہ اے طاعون مجھے لے لے اور ایسا بار بار فرماتے تھے۔ اس پر ان سے ان کے ایک پچاڑا بھائی نے کہ اے عباس میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ کوئی شخص تم میں موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کے متعلقین جدا ہو جاتے ہیں۔ (اور اس جدائی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پس آدمی کو اپنے اختیار سے کوئی ایسا فعل نہ کرنے چاہئے جس سے دوسروں کو خاص کر عزیزیوں کو تکلیف ہو جبکہ وہ شرعاً مامور بہ نہ ہو)، تو پھر آپ (خلاف حکم نبوی) ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پر عباسؓ نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسا نہ ہے مگر (میں اس وجہ سے ایسا کرتا ہوں کہ) مجھے چھ باتوں کا خوف ہے جن کے متعلق میں نے

جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ وہ ان کا اپنی امت پر خوف رکھتے تھے۔ ایک احمدقوں کی حکومت، دوسرے کثرت شرط، تیسرا بیع الحکم، چوتھے قطع رحم، پانچویں قتل کو معمولی بات سمجھنا، پھٹے وہ رند جو قرآن کوراگ بنائیں گے یعنی (نماز میں) ایسے لوگوں کو آگے کریں گے جو دینی حیثیت سے صاف بیان (اور اچھا پڑھنے والے) نہیں ہیں (تاکہ وہ آگے ہونے کے مستحق ہوں) بلکہ وہ ان کو اس لئے مقدم کریں گے کہ وہ ان کو گانا سنا دیں۔

یوں ہی ابو بکرؓ بھی موت کی آرزو کرتے تھے، سوان سے بھی اس بارہ میں گفتگو کی گئی (اور ان سے بھی پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں) تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسا زمانہ پانے کا اندیشہ ہے جس میں نہ امر بالمعروف ہو اور نہ نبی عن المنکر، (الہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ سے ایسا زمانہ نہ دیکھوں)۔

ابو ہریرہؓ فرماتے تھے کہ ع忿ریب لوگوں پر ایسا زمانہ آوے گا اس زمانہ میں موت علماء کو کندن سے زیادہ پیاری ہوگی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گی کہ ایک شخص اپنے بھائی کی قبر پر آوے گا اور کہے گا کہ کاش میں تیری جگہ ہوتا۔

یحیی بن معاذ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ موت کی تمنا نہیں کرتا (کیونکہ زندگی میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ زندہ رہے گا اتنی ہی زیادہ اطاعت کرے گا، اور اطاعت میں اس کو اس قدر لذت آتی ہے کہ وہ اس کے شرات پر نظر نہیں کرتا بلکہ وہ اطاعت ہی کوئین شرہ جانتا ہے۔ (وللناس فيما يعشرون مذاہب)۔

عمر بن عبد العزیزؓ جب کسی اچھے شخص کو دیکھتے تو فرماتے کہ میرے لئے موت کی دعا کیجئے (کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ زندہ رہ کر میں کسی بلا میں بتلانہ ہو جاؤں)۔

ابوالدرداءؓ فرماتے تھے کہ خواہ کوئی مؤمن ہو یا کافر، موت ہر ایک کے لئے بہتر ہے، (مؤمن کے لئے تو اس لئے کہ اس کو نہماۓ آخرت ملیں گی) اور (نعمائے آخرت کی نسبت) فرماتے ہیں: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ﴾ (یعنی خدا کے

پاس جو نعمتیں ہیں وہ نیک لوگوں کے لئے بہتر ہیں) اور (کافر کے لئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اس لئے مہلت دیتے ہیں کہ وہ زیادہ گناہ کریں اور ان کے لئے آخرت میں رسوائی کرنے والا عذاب ہے۔ (اس بناء پر ان کا جلدی مرجاناً قلت گناہ کا سبب ہے تو موت اس کے لئے بھی بہتر ہوئی)۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ اس میں ہمارے مشائخ موت کی آرزو کرتے تھے تو میں ان سے تعجب کرتا تھا (کہ یہ کیوں ایسا آرزو کرتے ہیں) اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب میں ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں جو موت کو پسند نہیں کرتے (غرض کہ اس زمانہ میں اور سابق زمانہ میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ وہ زمانہ تو ایسا تھا جس میں حیات، موت سے بہتر تھی) اور جو زمانہ اب ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں موت حیات سے بہتر ہے۔

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے کہ دنیا کا صاف اور سترہ ازمانہ رخصت ہو گیا اور گدلا و خراب زمانہ رہ گیا، لہذا آج کل ہر مسلمان کے لئے موت مثل تحفہ کے مرغوب ہے۔

عمر بن عبد العزیزؓ فرماتے تھے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر موت کی تختی میں تنخیف کی جائے کیونکہ وہ آخری شئی ہے جس پر مؤمن کو اجر ملتا ہے (اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آنے والا نہیں ہے جس پر اجر دیا جائے، اس وقت جس قدر بھی اجر مل جاوے غنیمت ہے)۔

ابوالدرداءؓ فرماتے تھے کہ کسی بھائی نے کبھی کوئی ہدیہ مجھے ایسا نہیں بھیجا جو ہدیہ سلام سے زیادہ مجھے پسند ہو (بلکہ ہدیہ سلام مجھے ہر ہدیہ سے زیادہ پسند ہے) اور کسی بھائی کے متعلق مجھے کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی جو مجھے اس کی موت کی خبر سے زیادہ پسند ہو (بلکہ اس کی موت کی خبر اس کی تمام خبروں سے زیادہ پسند یہ ہے)۔

عطاء سلمیؓ موت کی آزرو فرماتے تھے، اس پر ان سے عطاء ارزق نے کہا کہ آپ ایسی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہاں حیات تو وہ چاہے جس کی نیکی روز

افزوں ہو۔ رہے ہم سے اور تم سے لوگ وہ حیات سے کس بہبودی کی توقع رکھتے ہیں (کہ وہ حیات کے متنی ہوں)۔

ابوعقبہ خولانی فرماتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ شان تھی کہ وہ لقاء حق سبحانہ و تعالیٰ کو شہد سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے اور ان کو تنگستی دنیا کا بالکل اندیشہ نہ تھا، بلکہ ان کو خدا کی رزاقی پر پورا اعتماد تھا، اور موت ان کو اس سے زیادہ پیاری تھی جس قدر تم میں سے کسی کو صحت پیاری ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ میں نے سہل تستری سے دریافت کیا کہ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ کل ہی مر جائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ابھی (مرجاوں)۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ لوگ امراض و مصائب سے اس خیال سے ڈرتے تھے کہ مبادا ان میں پھنس کر ہم کو حکمِ الہی بر امعلوم ہو۔ پس وہ ان سے مرض اور مصیبت ہونے کے سبب نہ ڈرتے تھے بلکہ اس بڑی بات سے ڈرتے تھے جو احتمالاً ان میں ہوتی تھی، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ (جب دنیا کے سبب خود مرض اور مصیبت مبغوض ہو گئے ہیں اور خود میری یہ حالت ہے کہ) اگر میں کسی بلا میں پھنس جاؤں تو مجھے معلوم نہیں کہ میری کیا حالت ہو۔ شاید میں (شدتِ بعض قضاۓ الہی سے) کافر ہو جاؤں، اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو (کہ یہ کفر ہے)۔

اور مجھے روایت پہنچی ہے (واللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے): کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا کہ بیٹا میں نے بھاری پتھر بھی انھائے اور لوہا بھی انھایا، مگر میں نے قرض سے زیادہ بھاری کسی کو نہیں دیکھا، اور میں نے عمدہ غذا میں بھی کھائیں اور حسینوں سے بھی ہم آغوش ہوا مگر عافیت سے زیادہ مزدہ دار کسی کو نہیں پایا، اور میں نے ہر قسم کی تلخیاں چکھیں مگر لوگوں کے پاس اپنی ضرورت لے جانے سے زیادہ کسی کو تلخ نہیں پایا۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ اہل مصیبت کی حالت پر رو و اگرچہ ان کا گناہ

تمہارے گناہ سے بڑا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ تم کو بھی تمہارے گناہوں پر اتنی ہی سزا دی جائے جتنی کہ ان کو دی گئی یا ان سے زیادہ سزا دی جاوے (ایک تو تمہارے جرم کی وجہ سے، دوسری تحریر اہل ابتاباء کے سبب) اور بسا اوقات وہ قیدیوں کے پاس کھانا اور روپیہ جوان کے پاس ہوتا، سمجھتے اور فرماتے کہ یہ لوگ مسکین ہیں اور سلوک کے مستحق ہیں۔

سہل بن سعد تستری فرماتے تھے کہ بری چیز جس سے آدمی کا امتحان ہوتا ہے وہ اعمال دنیا و آخرت سے فارغ البالی ہے مگر اس بات کو کہ یہ امتحان ہے بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں (ورنہ اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی قسم کی فکر نہیں، اور نہایت بے فکری سے زندگی بسر ہوتی ہے)۔

مسلم بن قتیبہ فرماتے تھے کہ آدمیوں کی تکلیف پر صبر بڑی جوانمردی کی بات ہے اور (فرماتے تھے کہ) ہم نے اگلے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حکومت کو سخت مصیبت سمجھتے تھے، اور آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کوڈھونڈتے ہیں۔ اور اگلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب ان کا کوئی دوست بر سر حکومت ہو جاتا تو یہ دعا کرتے اے اللہ! اسے ہماری یاد بخلاف دے اور یہ حالت کر دے کہ نہ وہ ہمیں پہچانے اور نہ ہم اسے۔

یحیی بن الحسین فرماتے تھے کہ جو شخص (دین کی) سلامتی چاہے اس کو چاہئے کہ کہ لوگوں کی ملامت برداشت کرے (ورنہ لوگوں کی تعظیم و تکریم کے سبب دین کے بر باد ہونے کا اندیشہ ہے) اور فرماتے تھے کہ بلا عافیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر فرعون کو کبھی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو جو مکروہ کلمہ اس نے کہا ہے یعنی ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَى﴾ وہ ہرگز نہ کہتا (پس یہ مصیبت عافیت ہی کے سبب ہے) اور میں نے اپنے سردار علی خواص سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی اپنے علم و عمل میں دکھاوا بر تے مگر اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں (حالانکہ اکثر لوگ اس بلا میں بتلا ہیں، پس اسے خوب سمجھ لے) اور اے بھائی تو اپنے دل کو خوب ٹھوٹ لے (اور جس قدر ریاء وغیرہ کا حصہ اس میں تجھے ملے، اسے نکال ڈال) اور خبر ارتوا یسا نہ کہنا جیسا کہ بعض مجھیں نے

ابتلاء کے وقت کہا تھا کہ اے اللہ اگر اس میں آپ کی رضا ہے تو اس مصیبت کو اور بڑھاوے، کیونکہ مصیبت کے برداشت کرنے والے مرد صرف ان بیانات علیہم السلام ہیں۔ (اور دوسروں کی حالت ہرگز قابلِ اطمینان نہیں ہے، لہذا بہت ممکن ہے کہ وہ ازدواج مصیبت سے گھبرا جاوے اور شکایت و بے صبری میں بتلا ہو جاوے)۔

امام شافعیؓ مرض بواسیر میں بتلا تھے اور رات دن مسوں سے خون پیکتا تھا، حتیٰ کہ وہ درسِ حدیث کے لئے بیٹھتے تھے تو طشت آپ کے نیچے ہوتا تھا، جس میں خون پیکتا رہتا تھا۔ ایک روز آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اگر اس میں آپ کی رضامندی ہے تو مجھے اس میں ترقی فرمائیے، اس کو شیخ الاسلام مسلم بن خالد زنجیؓ نے سات تو آپ نے انہیں ڈانشا اور فرمایا کہ نہ کرو (ایسی دعا نہ مانگو بلکہ) اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرو، کیونکہ ہم اور تم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مصائب کے متحمل ہوتے ہیں۔

ابو بکر صدیقؓ اپنے خطبہ میں فرماتے تھے کہ لوگو! اللہ سے عفو اور عافیت کی درخواست کرو، کیونکہ مؤمن کو اسلام کے بعد جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ عفو اور عافیت ہے۔ اس وقت ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ اسی باب میں متفرق طور پر اس خلق پر مبسوط گفتگو ہو گی (تم کو خیال رکھنا چاہئے)۔ والحمد لله رب العالمین.

خوف و خشیتِ خداوندی

۱۱- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حضرات اپنی ابتدائی حالت میں اور (منازل سلوک طے کرنے کے بعد) انتہائی حالت میں دونوں حالتوں میں خدا سے بیدار تر رہتے ہیں، مگر دونوں حالتوں میں فرق یہ ہے کہ ابتدائی حالت میں تو گناہوں اور عذاب کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور انتہائی حالت میں عظمت و جلال خداوندی کی وجہ سے خوف ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کو عظمت و جلال خداوندی کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلہ میں وہ اپنی طاعات کو یقین اور اپنے کو سراپا تقصیر و ارجحیتے ہیں اور

اس سبب سے ڈرتے ہیں)، اور دونوں حالتوں کے خوف کا لازم ضروری اپنی تقصیرات پر نداومت ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے صفیہ محمد رسول اللہ ﷺ کی بیوی اور اے فاطمہ محمد رسول اللہ ﷺ کی بیٹی! تم خود اپنے کو آگ سے چھڑاؤ، کیونکہ خدا کے مقابلہ میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، (اور معصیت کی صورت میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ یہ امر آخر ہے کہ حق سبحانہ میری خاطر سے خود تمہارے گناہ معاف کر دیں گے مگر یہ کوئی لازمی امر نہیں ہے، اس لئے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے اور خود اعمال صالح کرنا چاہئے)۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ نیکی پرانی (ہو کر فنا) نہ ہوگی اور گناہ بھلا کیا نہ جاوے گا اور جزادینے والا خدا فنا نہ ہو گا، (اس لئے نیکی اور بدی دونوں کا معاوضہ ضرور ملے گا)۔ اب جیسے چاہو ویسے ہو جاؤ (خواہ نیک خواہ بد) جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ (اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا)۔

ابوسعید خدریؓ فرماتے تھے کہ چار چیزیں ہیں جب آدمی ان میں زیادتی کرتا ہے تو وہ اسے غارت کر دیتی ہیں اور محبوب الحواس بنادیتی ہیں۔ جماع کی کثرت، شکار، جوا اور گناہ۔

ابو تراب تخلشیؓ فرماتے تھے کہ جب آدمی گناہوں کے ترک کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو حق تعالیٰ کی مدد اسے ہر طرف سے ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ترک گناہ پر اس کی پوری مدد فرماتے ہیں)۔ اور دل سیاہ ہو جانے کی تین نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے گھبراہٹ نہ ہو، دوسری یہ کہ اطاعت کی دل میں جگہ نہ ہو، تیسرا یہ کہ نصیحت دل میں گھرنہ کرے۔

ابو محمد مرزوؓ فرماتے تھے کہ ابلیس پانچ خصلتوں کے سبب بد بخت ہوا، کیونکہ ایک تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، دوسرے وہ اس پر نادم نہ ہوا، تیسرا اس نے اپنے اوپر ملامت نہ کی، چوتھے اس نے توبہ کی طرف مبادرت نہ کی، پانچویں وہ خدا کی

رحمت سے نا امید ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کی حالت ہے، کیونکہ وہ پانچ خصلتوں کے سبب نیک بخت ہوئے۔ اول انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، دوسرے وہ اس پر پیشمان ہوئے، تیسرا نے انہوں نے اس پر اپنے نفس کو ملامت کی، چوتھے انہوں نے جلدی سے توبہ کر لی، پانچویں وہ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔

حاتم اصمم فرماتے تھے کہ جب تم سے خدا کی نافرمانی ہو جاوے تو فوراً توبہ کرلو اور اس گناہ پر نادم ہو، اور آدمیوں سے معدرت نہ کرو، کیونکہ تمہارا ان سے معدرت کرنا، اصل گناہ سے بڑا جرم ہے۔ (کیونکہ یہ شرکِ خفی ہے۔ ہاں اگر گناہ حقوق العباد میں سے ہو تو اس میں آدمیوں سے معدرت ضروری ہے)۔

ابراهیم بن ادہم فرماتے تھے کہ خدا کی اطاعت کر کے دوزخ میں جانا (اگر ممکن ہو تو) مجھے زیادہ پسند ہے، بہ نسبت اس کے کہ میں اس کی نافرمانی کر کے جنت میں جاؤں (بشر طیکہ یہ بھی ممکن ہو۔ حاصل یہ کہ اگر بفرض محال طاعت کا نتیجہ دوزخ ہو اور معصیت کا نتیجہ جنت، تو اس حالت میں بھی مجھے طاعت پسند ہے، پھر جبکہ ایسا نہیں بلکہ طاعت کا نتیجہ جنت اور معصیت کا نتیجہ دوزخ ہے تو میں طاعت کو کیسے پسند نہ کروں گا)۔

اوzaعی جب نبی کریم ﷺ کے کسی رشتہ دار کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے تو اس سے فرماتے کہ تم لوگ جناب رسول اللہ ﷺ کی سیرت اور ان کے ارشاد کی مخالفت کی حالت میں ان کی رشتہ داری کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ آپ نے خاص اپنی صلبی بیٹی فاطمہؓ سے فرمایا تھا کہ تو خود اپنے عمل سے اپنے کو آگ سے چھڑا، کیونکہ خدا کے مقابلہ میں، میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔

احمد بن حربؓ فرماتے تھے کیا گناہ ہگار کے لئے ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا (ضرور آچکا ہے)، کیونکہ اس کا گناہ درج رجسٹر ہے، اور کل قبر میں وہ (اس کی بدولت) بے چین ہو گا، اور اس کے سبب اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جایا جاوے گا۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ عاقل کو زیبانیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تکلیف دے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا کی مخالفت کر کے اپنے محبوب نفس کو تکلیف دے، (یہ نامناسب ہے)۔

جعفر بن محمدؐ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ جس کو معصیت کی ذلت سے نکالتا ہے، اس کو بلا مال کے غنی کر دیتا ہے (یعنی اس کے قلب میں استغنا کی صفت پیدا کر دیتا ہے) اور بلا کنبہ قبیلہ کے اس کو عزت و غلبہ دیتا ہے اور اپنے میں مشغول کر کے بلا آدمیوں کے اس کا دل بھلا تا ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ کمی گناہ کے ساتھ کمی عمل صالح خدا کو زیادہ پسند ہے، بہ نست کثرت عمل صالح مع کثرت گناہ کے۔

یحییٰ بن معاذؓ فرماتے تھے کہ بہ قدر گناہ سے پاک صاف ہونے کے قلوب کے لئے واپسی حالت سابقہ ہوتی ہے (یعنی جس قدر آدمی گناہوں کو چھوڑتا ہے اسی قدر قلب کی ظلمت و حلتوں، اور نورانیت سابقہ واپس آتی ہے)۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ آدمی کے گناہوں میں غرق ہونے کی شناخت یہ ہے کہ اس کا دل دن کو روزہ رکھنے اور رات کو تہجد پڑھنے کے لئے نہ کھلے گا۔

محمد بن واسعؓ اپنے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو سراسر گناہوں میں غرق ہیں، اور اگر تم میں سے کسی کو میرے گناہوں کی ہوا بھی لگ جاوے تو وہ میرے پاس بیٹھ بھی نہ سکے۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ بیچارے قاتلین حسینؑ اگرچہ فضل خداوندی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاویں (مگر ان کے لئے ایک بڑی بھاری مصیبت یہ ہے کہ) ان کو اس کی کس طرح ہمت ہو گی کہ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے نواسہ کے قاتل ہو کر ان کے پاس کو گذریں۔ بخدا اگر قتل حسینؑ میں میرا کچھ بھی دخل ہوتا اور اس حالت میں مجھے دزوخ اور جنت کے درمیان اختیار دیا جاتا (اور کہا جاتا کہ تیرا جی چا ہے جنت میں جا،

اور تیرا جی چاہا دوزخ میں جا) تو میں اس خیال سے کہ مبادا جناب رسول اللہ ﷺ جنت میں مجھے نگاہِ قہر سے دیکھیں، جس سے آپ کو بھی تکلیف ہوا اور مجھے بھی، دوزخ کو اختیار کرتا اور ہرگز جنت میں نہ جاتا۔ (اس سے تم اندازہ کرلو کہ جب ان کو جناب رسول اللہ ﷺ کی ناخوشی کا اتنا خوف تھا تو خدا کا خوف ان کو کس درجہ ہوگا)۔

ابن السماکؓ فرماتے تھے کہ اگر اطاعتِ خداوندی میں ان فائدوں کے سوا اور کوئی فائدہ نہ ہوتا کہ طاعاتِ گذار کے منہ پر نور اور رونق ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، اس کے اعضاء میں قوت ہوتی ہے، اس کو اپنے نفس پر حدود و قصاص و تعزیر کا خطرہ نہیں ہوتا اور لوگوں کے مقابلہ میں اس کی شہادت جائز رکھی جاتی ہے، تو یہ باتیں گناہوں کے چھوڑنے کے لئے کافی تھیں، (پھر جبکہ اس میں ان کے علاوہ بے شمار ایسے فوائد ہیں جن کے مقابلہ میں یہ فوائد کوئی حقیقت نہیں رکھتے تو اب اندازہ کرلو کہ گناہوں کا چھوڑنا کس قدر ضروری ہے) علی ہذا اگر گناہ میں اور کوئی خرابی نہ ہوتی بجز اس کے کہ چہرہ میں بدرونقی اور دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ کا رکا ذکر لعنت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی شہادت نامقبول ہوتی ہے اور اس کو اپنے نفس پر حد قصاص یا تعزیر کا خطرہ ہو جاتا ہے تو یہ امور گناہ کے ترک کے لئے کافی تھے۔ (پھر جبکہ ان کے علاوہ اس میں اور بھی بے انتہا مضرتیں ہوں تو اس کا ترک کیونکر ضروری نہ ہوگا)۔

الحاصل اللہ تعالیٰ فرمانبردار اور نافرمان ہر ایک کے لئے دنیا ہی میں اس کے مناسب علامتیں عطا فرمادیتا ہے، جن کو دیکھ کر فرمانبردار خوش ہوا اور نافرمان محسون۔ میں کہتا ہوں کہ قول مذکور میں لعنت سے مراد تعيین کی حالت میں تو صرف برائی ہے کیونکہ کسی خاص شخص پر تعيین کے ساتھ لعنت جائز نہیں۔ اور عدم تعيین کی حالت میں لعنت معروف مراد ہو سکتی ہے، اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ عام نافرمانوں کے ضمن میں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ لعنت جو عام نافرمانوں پر کی جاتی ہے، اس پر بھی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

عطاء بن ابی رباح^{رض} اللہ تعالیٰ کے قول: ﴿وَمَنْ يَعْظِمْ حُرْمَاتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَه﴾ کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ حرمات سے مراد معاصی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ معاصی کو معمولی نہ سمجھے بلکہ بڑا سمجھے، تاکہ ان میں بدلانہ ہو جاوے۔

کعب بن احبار^{رض} اللہ تعالیٰ کے قول ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَوَّلِهِ حَلِيم﴾ کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ انہوں نے آگ میں جانے سے پہلے آہ کی اور اس وقت سے پہلے آہ کی جبکہ آہ نافع نہ ہوگی (یعنی خوف عذاب سے دنیا ہی میں آہ کی، لہذا قرآن میں ان کی تعریف فرمائی گئی)۔

حسن بصری^{رض} فرماتے تھے کہ خدا اپنے نافرمان کو دنیا و آخرت میں لوگوں کے سامنے ذلیل کئے بغیر نہ رہے گا، اور اگر کوئی رات میں بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی ذلت صح کے وقت ضرور اس کے چہرہ پر نمایاں ہوتی ہے (جس کو اہل بصیرت محسوس کرتے ہیں)۔

فضیل بن عیاض^{رض} اللہ تعالیٰ کے قول ﴿لَا يغادر صغیرة ولا كبيرة إلا أحصاها﴾ کے متعلق فرماتے تھے کہ تم لوگ کبائر سے پہلے صغائر سے ہوش میں آؤ، (کیونکہ آیت مذکورہ میں احصاء صغیرہ کو احصاء کبیرہ پر مقدم فرمایا، جس سے مقصود یہ ہے کہ صغائر سے بچنے کا اہتمام کبائر سے زیادہ ہونا چاہئے، کیونکہ لوگ ان کو معمولی سمجھ کر ان سے احتیاط نہیں کرتے، اور اس بے احتیاطی کے سبب وہ بدلائے معاصی رہتے ہیں، برخلاف کبائر کے ان سے بہت سے اہل ایمان احتیاط کرتے ہیں)۔

عوام بن جوشب^{رض} فرماتے تھے کہ گناہ کے بعد چار باتوں کا ارتکاب گناہ سے بھی زیادہ برا ہے۔ اول یہ کہ گناہ سے زبانی استغفار کرتے ہیں مگر اس کو چھوڑنے کا قصد نہیں کرتے، دوسرے حکم خداوندی سے دھوکا کھاتے ہیں یعنی اگر گناہ پر دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوتی تو گناہ سے باز نہیں آتے، اور سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں پر سزا نہ دے گا۔ تیسرا گناہ سے تو نہیں کرتے بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں چوتھا یہ کہ جب گناہ کے بعد کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے ہمارا گناہ معاف ہو گیا،

حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ بھی حق تعالیٰ محض طاعت لاحقہ سے گناہ سابق کو معاف نہیں فرماتے بلکہ اس کے لئے مستقل توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کو یاد رکھتا ہے اگرچہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تلاوت قرآن کم ہو، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ (تو حاصل یہ ہوا کہ خدا کی یاد اس کی اطاعت کا نام ہے، اور اگرچہ وہ کم ہی ہو اور اس کا بھلانا اس کی نافرمانی ہے)۔ اور علماء باعمل کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیک کام کرتے رہتے ہیں۔

سفیان بن عینہؓ سے دریافت کیا گیا کہ جس کام کا آدمی صرف ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس پر عمل نہیں کرتا، فرشتے اس کو کس طرح لکھ لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کاتب اعمال فرشتوں کو علم غیب نہیں، بلکہ جب ^(۱) آدمی کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے مشک کی خوبصورتی ہے، اس سے وہ جان لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا قصد کیا ہے، اور جب وہ کسی بڑی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بدبوچھیتی ہے۔ اس سے وہ جان لیتے ہیں کہ اس نے برائی کا قصد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کہ قصد سے مراد عزم مضموم ہے نہ کہ مطلق ارادہ۔ تاکہ مضمون مذکور احادیث و قواعد شرعیہ کے موافق ہو جاوے۔ واللہ اعلم عمر بن عبد العزیزؓ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس پر آدمی کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر وہ اس کو عمل میں لانا چاہے اور اس کے ترک میں اس کو معذور قرار نہیں دیا۔ علی ہذا انہوں نے غصہ سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے مرتكب کے لئے کوئی جنت نہیں رکھی، (جس سے وہ اپنے کو معذور ثابت کر سکے۔ خلاصہ

(۱) یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس کے ذریعہ سے مطلق نیکی و بدی کا علم ہو سکتا ہے مگر اس کی تعین کا علم کیوں نہ ہوتا ہے کہ فلاں نیکی یا فلاں بدی کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نیکیوں اور بدیوں کے انواع مختلف ہیں، یوں ہی خوبصورتیوں کے درجات بھی مختلف ہیں۔ پس ممکن ہے کہ خوبصورتیوں کا ایک خاص درجہ نیکی و بدی کی ایک خاص قسم پر دلالت کرتا ہو، اور اس ذریعہ سے ان کو اس کی تعین ہو جاتی ہو۔

واللہ اعلم (مترجم)

یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو اطاعت و معصیت میں اختار بنایا ہے اور مجبور نہیں کیا، کیونکہ اگر خدا نے تعالیٰ مجبور کرنا چاہتے اور) یہ چاہتے کہ روئے زمین پر ان کی معصیت نہ ہو تو ابلیس کو پیدا نہ کرتے، کیونکہ ہر غلطی کی جڑ وہی ہے۔ (لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ ان کو معا�ی کا جبراً رکنا مقصود نہیں)، اور جب یہ ہے تو آدمی کو چاہئے کہ وہ خود معا�ی سے بچے اور طاعت کو اختیار کرے۔

ابو سلیمان دارانی ”فرماتے تھے کہ اہل طاعت دنیا میں رہنے کو محض اس لئے پسند کرتے ہیں کہ وہ اس میں (رہ کر) اس کی اطاعت کریں۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے لوگوں کو (بذریعہ تقدیر) ان کی اطاعت سے پہلے جنت میں داخل کر لیا اور ان کی معصیت سے پہلے ان پر دوزخ کو مقدر فرمادیا ہے۔ بوجہ اس کے کہ ان کو ہر شخص کی حالت کا پیشتر سے علم تھا۔ (اور وہ جانتے تھے کہ کون معا�ی کا ارتکاب کرے گا اور کون اطاعت کر کے جنت کا مستحق ہوگا)۔

بشر حافی ”فرماتے تھے کہ ایک زمانہ ہم نے وہ دیکھا ہے جس میں لوگ پہاڑوں جیسے اعمال صالح کرتے تھے، اور معہذہ اوہ ست نہ ہوتے تھے (اور برابر اعمال صالحہ جاری رکھتے تھے) اور ایک زمانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اعمال بالکل نہیں، مگر باوجود اس کے تم ست ہو اور اعمال میں کوشش نہیں کرتے)۔ واللہ ہمارے اقوال تو تارک الدنیا لوگوں کے سے ہیں مگر ہمارے افعال سرکشوں اور منافقوں کے سے (کس قدر افسوس کی بات ہے)۔

حاتم اصمؓ فرماتے تھے کہ جب تو اپنے پروردگار کی نافرمانی کرے اور تو دیکھے کہ اس پر بھی خدا کی نعمت تجھ پر فراخ ہے تو تو خدا کے اس برتابہ سے ڈر، کیونکہ یہ استدراج ہے۔ اور ہم نے سلف کو دیکھا ہے کہ وہ معمولی گناہوں کو اس قدر برا سمجھتے تھے کہ اتنا برا تم بڑے بڑے گناہوں کو بھی نہیں سمجھتے۔

ربیع بن خشمؓ جب عید کے روز قربانی کرتے تو فرماتے کہ اے اللہ آپ کی عزت و جلال کی قسم! اگر میں یہ جانتا کہ اپنی جان قربان کرنے میں آپ کی رضامندی

ہے تو میں آپ کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا۔

کہمیش بن الحسنؑ اتنی بات پر چالیس برس تک روتے رہے انہوں نے پڑوی کی مٹی اٹھا کر اس کی بلا اجازت اس سے ہاتھ دھولئے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب کسی کو کوئی گناہ کئے ہوئے زیادہ دن گذر جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اس کا گناہ معاف کر دیا، مگر یہ محض دھوکہ ہے (لہذا اس کو استغفار کرتا چاہئے)۔ اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے بذریعہ وحی فرمایا کہ اے داؤد! بنی اسرائیل سے فرمادو کہ تمہیں کس ذریعہ سے معلوم ہوا کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دئے تاکہ تم ندامت سے چھوٹ جاؤ۔ (یاد رکھو کہ یہ ایک بیہودہ خیال ہے)۔ اور میری عزت و جلال کی قسم! میں ہر گناہ گار کو اس کے گناہ پر قیامت میں مطلع کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید گناہ پر اطلاع سے مقصد یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو جاوے کہ خدا کو اس گناہ کی اطلاع ہے، اور با ایس ہمہ وہ اسے معاف کرتا ہے، تاکہ اسے اس کا فضل و کرم معلوم ہو جاوے۔ پس اس سے عدم مغفرت لازم نہیں آتی (یعنی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قیامت میں ہر گناہ کی سزا ضروری جائے گی)۔ واللہ اعلم

یزید حمیری فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک راہب سے کہا کہ تم لوگوں نے سیاہی کو سفیدی پر کیوں ترجیح دی ہے، اور سفید کپڑے چھوڑ کر سیاہ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ^(۱) یہ مصیبت زدوں کا شعار ہے اور ہم لوگ گناہ گار ہیں اور گناہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔

عبدة العلام کا ایک روز ایک مقام پر گذر ہوا تو وہ کانپنے لگے اور ان کے بدن سے پسینہ ملکنے لگا، لوگوں نے ان سے اس بارہ میں گفتگو کی (اور پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے) اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں نے بچپن میں خدا کی نافرمانی کی تھی، (اس سے تم ان کے خوف کا اندازہ کرلو کہ کس قدر رہا)۔

(۱) غالباً یہ جواب محض ایک توجیہ ہے، اور صحیح وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سفید کپڑا جلدی میلا ہو جاتا ہے، اور سیاہ کپڑا دیر میلا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

مالک بن دینار نے بصرہ سے پیدل سفر حج اختار کیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کیا نافرمان اور بھاگا ہوا غلام اپنے آقا سے مصالحت کے لئے سوار ہو کر بھی جانا پسند کرے گا۔ بخدا اگر میں انگاروں پر چل کر مکہ جاؤں تو یہ بھی کم ہے۔

پس اے بھائی تو ان باتوں کو خوب سمجھ لے، اور خبردار! جب تجھ سے گناہ کئے ہوئے ایک عرصہ ہو جاوے تو اس وقت بھی تو استغفار میں سستی نہ کرنا، کیونکہ تجھے گناہ کا تو یقین ہے اور اس کی معافی میں شبہ متین کو شبہ کی بنا پر نظر انداز کرنا حماقت ہے اور رات دن استغفار کرتا رہ۔ والحمد لله رب العالمین.

حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام

۱۲۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ خدا سے بہت ڈرتے ہیں، کہ مبادا خدا ان گناہوں پر عذاب دے جن کا انہوں نے اپنے نفس پر زیادتیاں کر کے یا دوسروں کی حق تلفیاں کر کے ارتکاب کیا ہے، اگرچہ اس حق تلفی کا تعلق ایک خلاں کے تنگے یا ایک سینے کی سوئی سے ہو۔ بالخصوص اگر ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی نظر میں اس کے اعمال صالح بہت کم ہوتے ہیں تو اس کو اور بھی زیادہ خوف اور بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ (اس کی نظر میں) اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہوتیں، جن کو قیامت میں مدعیوں کو دیدے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مظلوم قیامت کے روز حرص کرے اور مال کی یا آبرو کی ایک حق تلفی یا ایک تھیڑ کے بد لے میں ظالم کے تمام اعمال صالحے کے بھی رضا مند نہ ہو۔ (پس ایسی حالت میں تو جتنی بھی نیکیاں ہوں، کم ہیں اور ہر شخص کے لئے خوف لازم ہے، خواہ اس کے پاس تھوڑی نیکیاں ہوں یا زیادہ)۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جانتے ہو قیامت کے روز میری امت میں مفلس کون ہوگا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو

مفلس اسے جانتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ ہو اور نہ اشرفتی اور نہ ساز و سامان، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت میں نماز، روزہ زکوٰۃ، حج لے کر آؤے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کامال کھایا ہوگا، کسی کا خون بھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اور اس بناء پر کچھ نیکیاں اس کی ایک کو دیدی جاویں گی اور کچھ دوسرے کو، پھر اگر اس کی نیکیاں ادائے حقوق سے پہلے ختم ہو جاویں گی تو مظلومین کے گناہ لے کر اس پر ڈال دئے جاویں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جاوے گا۔

عبداللہ بن انبیس فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز اعلان فرماویں گے کہ میں بدلہ لینے والا بادشاہ ہوں، لہذا نہ کوئی دوزخی جس کے ذمہ کسی کا حق ہو، دوزخ میں جا سکتا ہے، اور نہ کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے تا وقتیکہ اس سے اس کا بدلہ نہ لے لیا جاوے۔

وہب بن منبه فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک جوان نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور خدا کی عبادت کرنے لگا، اور ستر برس تک اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کوشب بیداری کرتا، اور نہ کبھی سایہ میں آرام کرتا اور نہ کبھی مرغ ن کھانا کھاتا۔ پس جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے کسی دوست نے اسے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے حساب لیا اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرمادیا بجز ایک تنکے کے جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر خلال کر لیا تھا اور اس کی وجہ سے میں اب تک جنت میں جانے سے رکا ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تمیں چیزوں میں مخفی کیا ہے۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور اپنے غصہ کو اپنی نافرمانی میں، اور اپنے دوستوں کو اپنے بندوں میں، الی آخر الحدیث۔ پس بسا اوقات حق تعالیٰ کسی بندہ پر اپنی ناراضی کو ایسے گناہ میں بتلا ہونے کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں

جو اس کی نظر میں بہت معمولی ہوتا ہے، جیسا کہ دانتوں کے لئے خلاں لے لینا، یا ہاتھ دھونے کے لئے پڑوسی کی بلا اجازت مٹی لے لینا جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے۔ واللہ اعلم حارث محاسی فرماتے تھے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کسی پیانہ والے نے ناپے سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا، پس جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ارے فلاںے خدا نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مختلف غلوں کے پندرہ پیانے جو میں نے ناپے تھے، ان کے متعلق مجھ سے باز پرس ہوئی اور فرمایا کہ بتلا ویہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا قصہ یہ ہے کہ میں اس کا خیال نہ رکھتا تھا کہ پیانے کو غبار سے صاف کرلوں، اس لئے اس کی تملی میں کچھ مٹی جم گئی اور اس کے سبب ہر پیانے اس مٹی کی مقدار کم ہو گیا جو اس کی تہ میں جم گئی تھی، اس پر مو اخذہ ہوا)۔

ایسا ہی واقعہ ایک اور شخص کو پیش آیا جو ترازو کو پونچھ کر غبار صاف نہ کرتا تھا اور قبر میں اس کو اس پر سزادی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے قبر میں اس کی چینیں سنیں، حتیٰ کہ بعض صلحاء نے اس کے لئے دعا کی اور ان کی دعا مقبول ہوئی۔

ابو میسرہ فرماتے تھے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک مردہ کو قبر میں اتنا مارا گیا کہ اس کی قبر آگ سے بھڑک اٹھی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا دو تم کس جرم پر مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا ایک مظلوم پر گذر ہوا جس نے مجھ سے فریاد کی مگر تو نے اس کی فریاد نہ سنی، اور ایک مرتبہ تو نے بلا وضو نماز پڑھی تھی (یعنی مجھے معلوم تھا کہ میں بے وضو ہوں اور قصد اتو نے ایسا کیا)۔

قاضی شریح فرماتے تھے کہ خبردار رشوت نہ لینا، کیونکہ وہ دانا آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، اور اسے انصاف و بے انصاف میں تمیز نہیں رہتی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔

حسن بصریؓ جب کسی حاکم یا اس کے مددگار کو کسی محتاج کو خیرات دیتے دیکھتے تو فرماتے اے وہ شخص جو مسکین کو بہ نیت ترحم صدقہ دیتا ہے، تو اس پر رحم کر جس پر تو

نے ظلم کیا ہے اور اس کا حق مغضوب واپس کر دے، کیونکہ یہ فعل تجھے (صدقہ کی نسبت) زیادہ بری الذمہ کرنے والا ہے۔

میمون بن مهرانؓ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی کی حق تلفی کرے اور اس حق تلفی سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو چاہئے کہ ہر نماز کے بعد اس کے لئے استغفار کیا کرے۔ اس سے وہ انشاء اللہ اس حق تلفی سے عہدہ برآ ہو جائے گا۔

حدیفہؓ فرماتے تھے کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ حکام بدکار ہوں گے، علماء بے دین ہوں گے۔

میمون بن مهرانؓ فرماتے تھے کہ آدمی نماز میں اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں خود اپنے اوپر لعنت کر رہا ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پڑھتا ہے: ﴿الا لعنة الله على الظالمين﴾، اور وہ خود ظالم ہوتا ہے، خواہ اس لئے کہ اس نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور خواہ اس لئے کہ اس نے دوسروں کا مال لے کر اور ان کی بے آبروئی کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ خبردار تم کسی کے وصی نہ ہونا، کیونکہ وصی (اس زمانہ میں) وصیت کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے اگرچہ وہ احتیاط میں مبالغہ کرے (کیونکہ آج کل کی احتیاط بوجہ غلبہ بد دینی و حب دنیا کے کافی احتیاط نہیں)۔

مالک بن دینارؓ فرماتے تھے کہ خائن کا خزانچی بھی بھائی خائن ہے، اور عشر وصول کرنے والے کا خزانچی بھی عشر لینے والا ہے (پس جو حکم خائن اور عشار کا ہے وہی ان کے خزانچیوں کا، جیسا کہ چوروں کا تھا نگی چور ہوتا ہے)۔

یحیی بن معاذؓ فرماتے تھے کہ خبردار وصی نہ ہونا، کیونکہ وصیت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اپنا مال تیرے ذریعہ سے درست کرے اور تیرا دین بگاڑ دے۔ پس تجھے اپنے دین کی حفاظت کی اس کے مال کی حفاظت سے زیادہ حرص ہونی چاہئے۔

امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہؓ فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ وصیت میں داخل

ہونا تو غلطی (و نا تجربہ کاری) ہے، اور دوسری دفعہ صاف خیانت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں (کیونکہ اول مرتبہ کام کر کے اسے تجربہ ہو چکا ہے کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، پھر باوجود اس کے دوبارہ اس بار کو اپنے ذمہ لیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے چاٹ لگ گئی ہے)۔

کعب احبار نے ایک شخص کو دیکھا وہ جمعہ کے روز کسی پر ظلم کر رہا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھے اس دن لوگوں پر ظلم کرنے سے ڈر نہیں لگتا، جس روز قیامت آؤے گی اور جس روز تیراباپ آدم پیدا کئے گئے تھے (مقصد یہ ہے کہ یہ دن معظم ہے، اس دن کی حرمت کا تو خیال کرنا چاہئے)۔

عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی ظالم کے ظلم پر اس کی اعانت کرے یا اسے ایسی دلیل تعلیم کرے جس سے وہ ایک مسلمان آدمی کا حق باطل کر دے تو وہ خدا کا غصب لے کر پھرتا ہے۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندہ کو کوئی تخفہ دے تو اس پر اس شخص کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم کرے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی ظالم پر بدعا کرے تو اس نے اپنا انتقام لے لیا۔

یحییٰ بن معاذؓ فرماتے تھے کہ اگر مجھ پر کوئی ظلم کرے اور میں اس کا بدلہ نہ لوں تو یہ مجھے پسند ہے۔

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ حقیقتہ نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کوئی کسی سے برائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اچھا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لئے کرتا ہے، اور جو برآ کرتا ہے اس کا و بال بھی اسی پر ہے۔ (پس ثابت ہوا کہ جو کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے یا جو کوئی کسی سے برائی کرتا ہے وہ حقیقتہ اپنے ہی ساتھ کرتا ہے)۔

احمد بن حربؓ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ نیکیوں کی کثرت کے سبب دنیا سے دولت مند ہو جاویں گے، مگر قیامت میں لوگوں کے مطالبات کے سبب بالکل خالی

ہاتھ ہو جاویں گے۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ تمہارا خدا کے پاس ایسے ستر گناہ لے کر جانا، جن کا تعلق تم سے اور خدا سے ہو، یہ زیادہ آسان ہے بہبیت اس کے کہ تم صرف ایک گناہ ایسا لے کر جاؤ کہ اس کا تعلق تم سے اور بندوں سے ہو، (کیونکہ حق تعالیٰ اول تو غنی ہیں، دوسرے رحیم ہیں، اس لئے ان کے نزدیک ستر کیا ستر سو گناہ معاف کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، برخلاف بندوں کے کہ وہ نیکیوں کے محتاج اور اپنے گناہوں سے سبد و ش ہونے کے متمنی ہیں، اس لئے ان سے ایک گناہ کی معافی کی بھی امید نہیں۔ پس اے بھائی تو بزرگان سلف کے خوف کو دیکھ اور اس میں ان کا اتباع کر، کیونکہ تو ہلاکت کے کنارہ پر کھڑا ہے، اور خوف اس سے بچنے کا ذریعہ ہے، پس جو شخص ڈرتا رہا وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ والحمد لله رب العالمین۔

آخرت کے ہولناک واقعات پر رونا اور ڈرنا

۱۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ قیامت کے ہولناک واقعات یاد کرتے ہیں تو خدا سے بہت ڈرتے ہیں، اور جبکہ قرآن یاد گیر ذکر اللہ سنتے ہیں تو ان پر غشی اور بیہوٹی طاری ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک روز یہ آیت پڑھی: ﴿إِنَّ لِدِينِنَا أَنْكَالًا وَجَهَنَّمًا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ اس وقت آپ کے آگے حمران بن اعین تھے، تو (یہ سن کر ان کی روح پرواز کر گئی اور) مردہ ہو کر گر پڑے۔

ایک روز یزید رقاشی عمر بن عبد العزیزؓ کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ اے یزید! مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، اس پر انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین! آپ^(۱) پہلے خلیفہ نہیں ہیں جو مریں گے (بلکہ تم سے پہلے اور بھی مر چکے ہیں، جن کا مرنا تمہارے لئے موجب عبرت ہے)، یہ سن کر عمر بن عبد العزیز رونے لگے اور فرمایا اور کچھ ارشاد فرمائے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ (آپ کے تمام آباء و اجداد

(۱) اصل کتاب میں غلطی سے یزید کا مقولہ ”انک اول خلیفہ یموت“ لکھا گیا ہے فلینتبہ۔

مرچکے ہیں، چنانچہ) آپ کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان جتنے باپ ہیں ان میں سے اس وقت کوئی زندہ نہیں، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ آپ بھی ضرور مریں گے) یہ سن کر اور روتے اور فرمایا کہ اور کچھ ارشاد فرمائیے، اس پر انہوں نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان اور کوئی مرتبہ نہیں (اللہذا آپ یادو زخ میں جائیں گے یا جنت میں آپ اپنے اعمال دیکھ لیجئے کہ جنت کے قابل ہیں یا دوزخ کے) یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

حسن بن صالح ایک مرتبہ اذان دے رہے تھے۔ اس میں جب آپ نے فرمایا: أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، (اس سے عظمت خداوندی کا جواستحضار ہوا) تو بیہوش ہو گئے لوگ ان کو منارہ پر سے اٹھا کر نیچے لائے اور آپ کے بھائی نے اوپر چڑھ کر اذان دی اور نیچے آ کر نماز پڑھائی، اور حسن ہنوز بیہوش تھے (نہیں معلوم کس وقت ہوش آیا ہوگا)۔

ابو سلیمان دارالنی فرماتے تھے کہ میں نے حسن بن صالح سے زیادہ صاحب خشوع کسی کو نہیں دیکھا، ایک شب کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور عدم یتساء لون پڑھی اور اثنائے سورہ میں بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو وضو کیا اور نماز شروع کی، پھر عمما یتساء لون پڑھی اور بیہوش ہو گئے۔ غرض صحیح تک یوں ہی کرتے رہے مگر سورۃ نہ تمام کر پائے۔

ایک روز داؤ د طائی کا گذر ایک عورت پر ہوا، جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر رورہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ کاش مجھے معلوم ہو جاوے کہ تیرے کوں سے رخسارے میں کیڑے پڑ گئے، یہ سن کر داؤ د بیہوش ہو کر گر پڑے اور شعوانہ عابدہ اپنی مناجات میں کہتی تھیں کہ اے اللہ آپ سب کریموں سے زیادہ کریم ہیں، اور سب سرداروں میں بڑے سردار ہیں اور آپ ہی مسلمانوں کی امیدگاہ ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آج آپ اس شخص کو بخش دیں جو عقوبت معلوم کر لینے کے بعد آپ کی نافرمانی کرے اور یہ کہہ کر چیخ مارتی تھیں اور بیہوش ہو جاتی تھیں اور ہائے زبان سے نکلتا تھا۔

عمر بن الخطاب ایک روز "إذا الشمس كورت" پڑھ رہے تھے۔ جب ﴿إذا الصحف نشرت﴾ پر پہنچ تو بیہوش ہو کر گر پڑے اور دیر تک زمین پر لوٹتے رہے۔

ربیع بن خیثم ایک پڑھنے والے کو یہ پڑھتے سن: ﴿إذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيِّظًا وَزَفِيرًا﴾ تو بیہوش ہو کر گر پڑے۔ بیہوش ہو جانے کے بعد لوگ ان کو ان کے مکان پر لے گئے، وہاں بھی ہوش نہ آیا، اور اسی بیہوشی میں ان کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء قضاۓ ہو گئیں، اور یہ اپنے محلے کے امام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آیت پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود تھے۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے تھے کہ سفیان ثوریؓ نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور بیہوش ہو کر پیچھے کو گر گئے۔ یہ واقعہ بیان کر کے دارانی فرماتے تھے کہ یہ بیہوشی محض آسمان کی طرف نظر کرنے سے نہ ہوئی تھی بلکہ اس کا سبب قیامت کے ہونا ک واقعات کا خیال تھا، (یعنی اللہ اکبر وہ قیامت کیا چیز ہوگی، جو ایسے عظیم الشان آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور جس میں ایسا ایسا ہوگا)۔

وہب بن منبهؓ فرماتے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کوئی قصور یاد آ جاتا تو بیہوش ہو جاتے اور ایک میل سے ان کے دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دیتی۔ اس پر ان سے کوئی کہتا کہ آپ خلیل اللہ ہو کر ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ بھائی جب میں اپنا قصور یاد کرتا ہوں تو اپنا مرتبہ بھلت بھول جاتا ہوں۔

فضیل بن عیاضؓ نے ایک روز صبح کی نماز پڑھی تو اس میں سورہ یسین پڑھی۔

پس جب وہ: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِحَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدِينَا مَحْضُرُون﴾ تک پہنچ تو ان کے صاحبزادہ علیؓ بیہوش ہو کر گر پڑے، اور طلوع آفتاب تک ہوش نہ آیا۔ اور علیؓ مذکور کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی سورت پڑھنا چاہتے تو اسے پورا نہ کر سکتے۔ اور سورہ زلزلت اور سورہ القارعة تو کبھی سن ہی نہ سکتے، اور جب

ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے باپ فضیل بن عیاض ہنے۔ اس پر ان سے اس بارہ میں کسی نے سوال کیا، کیونکہ وہ غمگین رہا کرتے تھے۔ (پس ایسے شخص کا ہنسنا اور وہ بھی بیٹھ کی موت پر ضرور حیرت میں ڈالنے والا تھا) تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کو اس کی موت پسند آئی، لہذا مجھے بھی پسند آئی اور میں نے ہنس دیا۔ علی مذکور اپنے والد سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے میرے مرنے سے پہلے پوری سورۃ یا پورے قرآن کے سننے کی قدرت دیدے۔

حسن بصریؓ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے جب کوئی رات کو قرآن پڑھتا تو صبح کے وقت لوگ اس کا اثر یعنی شدت تغیر اور زردی رنگ اور دلائی اور مر جھا جانا، اس کے چہرہ میں محسوس کرتے تھے، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب کوئی رات کو پورا قرآن بھی پڑھتا ہے تو صبح کے وقت اس کے چہرہ پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں دکھلائی دیتا۔ اور اس کا قرآن پڑھ لینا ایسا معمولی معلوم ہوتا ہے جیسا چادر اٹھا لینا۔

میمون بن مهرانؓ فرماتے تھے کہ سلمان فارسیؓ نے کسی پڑھنے والے کو یہ پڑھتے ہوئے سنا: ﴿وَإِنْ جَهَنَّمْ لِمَوْعِدِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ تو چیخ اٹھے اور ہاتھ سر پر رکھ لیا اور سر گشته ہو کر نکل گئے۔ چنانچہ تین دن تک ان کو یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔

اب اے بھائی! تو اپنے سلف کے حال میں غور کر، اور سوچ کہ کیا اپنے پروردگار کا کلام سن کر تو کبھی خلوص سے بیہوش ہوا ہے، یا نہ خلوص سے اور نہ ریاسے کسی طرح بھی تجھے تیری سنگ دلی کے سب غش نہیں آیا؟ (اس کا جواب تیری طرف سے یہی ہو گا کہ مجھے کبھی غش نہیں آیا) لہذا (کہا جاتا ہے کہ) تو ذرتارہ، اور بھوکار ہنَا اختیار کر کیونکہ ان باتوں سے تیرا دل نرم ہو گا۔ **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔

بیماریوں میں توجہ الی اللہ

۱۲۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے دل ان کے جسموں سے اکھڑ جاتے ہیں، اور وہ تمدیر

اجسام سے بے فکر ہو کر آخوت کی درستی میں لگ جاتے ہیں۔ اور وہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مرض کوچ کا پیغام ہوا اور ہم اس کو معمولی مرض سمجھ کر بے فکر ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ نہ ہمیں تو بے نصیب ہوا اور نہ واجب التدارک حقوق کا تدارک ہو سکے، بلکہ ہم اسی طرح نافرمانی کی حالت میں عالم آخوت کو روانہ ہو جائیں، اور بلاشبہ ہماری حالت ایسی ہو جائے جیسے وہ غلام جس نے اپنے آقا کی حرم سرا میں بدکاری کی ہوا اور اس لئے آقا اس پر نہایت درجہ خفا ہو، اور اسی حالت اشتداد و غصب میں لوگ اس غلام کو اس کے سامنے لے آئیں، اور اس وقت ہمارا حشر وہی ہو جو غلام مذکور کا۔ اس لئے ہمیں اس کی آخری حالت تصور کر کے سفر آخوت کی تیاری میں مشغول ہو جانا ضروری ہے۔ (الغرض یہ وجہ ہوتی ہے جس کی بناء پر ہر مرض میں ان لوگوں کے قلوب ان کے اجسام سے اکھڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے موید و مناسب واقعات سنو)۔

ایک مرتبہ حسان بن سنان یہاں ہوئے تو ان کے احباب عیادت کے لئے ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیسا مزاج ہے؟ فرمایا کہ اگر دوزخ سے نقچ جاؤں تو مزاج اچھا سمجھو (ورنه مزاج و زاج کچھ بھی نہیں)، اس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جی کس بات کو چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے لمبی رات نصیب ہو جاوے جس کو میں نماز و استغفار سے زندہ کروں۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ میرا ایک پڑوسی بد اعمال تھا، وہ مر نے لگا تو میں اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں معاہدہ کر لیتے کہ میں اب گناہ نہ کروں گا، کیونکہ شاید تم اس معاہدہ کی حالت میں مر جاؤ (اور بعد مردن یہ معاہدہ تمہارے لئے نافع ہو)، مالک کہتے ہیں کہ (اس کا جواب اس نے تو کچھ نہ دیا مگر) گھر کے اندر سے آواز آئی کہ جناب! اگر آپ اس سے بھی ایسا ہی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ ہم سے کیا کرتے ہیں کہ آج معاہدہ کیا اور کل توڑ دیا تو ایسے معاہدہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے تو اور زیادہ مبغوض اور راندہ درگاہ ہو جاوے گا۔ یہ سن کر

امام مالک بیہوش ہو کر گرفڑے۔

ربیع بن خثیم کے مرضِ موت میں ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے لئے کسی طبیب کونہ بلا ویں؟ یہ سن کرو ہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا کہ کہاں ہے قوم شمود؟ کہاں ہے قوم عاد؟ کہاں ہیں اصحاب الرس؟ اور کہاں ہیں ان کے درمیان کے بہت سے قرن؟ حق تعالیٰ نے سب کے لئے مثالیں بیان کی تھیں، بہت سے طریقوں سے سمجھایا تھا مگر نہ مانے، آخر انجام یہ ہوا کہ خدا نے ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا، اور باوجود یہ کہ ان میں علاج کرنے والے بھی تھے طبیب بھی وہ لوگ ہلاکت سے نہ بچ سکے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ فرمایا کہ جنہا میں ہرگز اپنے لئے طبیب نہ بلاوں گا۔

مغیرہ الخیراز کے مرضِ موت میں لوگ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضرت مزاج کیسا ہے؟ فرمایا کہ گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا کسی چیز کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں اس کو جی چاہتا ہے کہ میری موت سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ احسان فرماویں کہ میں ان تمام باتوں سے توبہ کرلوں جو خدا کو ناپسند ہیں۔

جب وہب ابن الود بیکار ہوئے تو حاکم مکہ نے ان کے پاس ایک عیسائی طبیب کو بھیجا۔ اس نے آ کر پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ وہب نے فرمایا کہ میں تجھے نہ بتاؤں گا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ لوگوں نے (سمجھا کہ عیسائیت سے نفرت اس کا سبب ہے اور) کہا کہ (اگر آپ کو اس سے نفرت ہے تو) ہم سے کہہ دیجئے، ہم اس سے کہہ دیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: حیرت ہے کہ ان کی عقلیں کہاں گئیں۔ ارے عقائد! ذرا سوچو تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اپنے خدا کی شکایت اس کے اپک دشمن سے کروں؟ آپ سب حضرات میرے پاس سے تشریف لے جائیں (مجھے ایسے خیر خواہوں کی ضرورت نہیں ہے)۔

سفیان بن عتبہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم فضیل بن عیاض کی عیادت کے لئے گئے

تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ حضرات تشریف نہ لاتے تو آپ کی تشریف آوری سے اچھا ہوتا، کیونکہ آپ کے تشریف لانے پر مجھے اندیشہ ہے کہ شاید میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاوے جو خدا کی شکایت ہو۔

یحیی بن معاذ فرماتے تھے کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک بیمار کی عیادت کی اور پوچھا کیسا مزاج ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا میں اپنے خلاف منشاً بھیجا گیا اور اس میں ظالم ہو کر زندہ رہا، اور اب پشمیانی کی حالت میں دنیا چھوڑ رہا ہوں (اب تم سمجھ لو کہ جس کی یہ سوانح عمری ہو، اس کا مزاج کیسا ہوگا)۔

حسن بصریؓ عطاء سلمیؓ کے پاس گئے، اس وقت حضرت عطاء بیمار تھے، بیماری کے سبب پیلے ہو رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حسن بصریؓ نے فرمایا کہ (آپ گھر میں پڑے گھٹ رہے ہیں) اگر آنگن میں تشریف لے چلتے تو اچھا ہوتا۔ یہ سن کر عطاء نے فرمایا کہ بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ خدا مجھے میرے ہڈِ نفس میں سعی کرتے دیکھے (اس لئے میں ایمانہ کروں گا) اور جب عمر بن عبد العزیزؓ بیمار ہوئے تو لوگ ان کے معالجہ کے لئے طبیب کو لائے۔ طبیب نے دیکھ کر کہا کہ خدا کے خوف نے ان کا کلیچ کاٹ ڈالا ہے، ان کا علاج نہیں کر سکتا۔

جب ابو بکر بن عباس بیمار ہوئے تو ایک طبیب نصرانی ان کو دیکھنے آیا اور آکر بپن دیکھنی چاہی۔ آپ نے اس کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ جب نصرانی اٹھ کر چلا تو جاتے ہوئے ابو بکر نے اس کو دیکھا، اور فرمایا کہ اللہ جب آپ نے مجھے اس طبیب کے مرض کفر سے نجات دی ہے تو یہ میرے لئے کافی ہے، اور اب مجھے کسی بیماری کی پرواہ نہیں۔ آپ جو معاملہ میرے ساتھ چاہیں کریں۔ (خواہ مجھے اچھا کر دیں یا مار دیں۔ یا مرض بڑھا دیں)۔

سفیان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بڑے آدمیوں کے سوا اور لوگوں میں بہت کم مرتضیٰ ان چار بلاوں سے جدار ہتے ہیں۔ ایک طمع دوسرے جھوٹ تیسرا شکایت چوتھے ریا۔

شدادی حکیم جب کسی مرض میں باتلا ہوتے تو مرض کے شکرانہ میں سودرم خیرات کرتے۔

عمر بن الخطابؓ جب بیمار ہوتے تو طبیب کے مشورہ سے کوئی علاج نہ کرتے ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم طبیب کو بلا دیں تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، بخدا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاوے کہ کان کے چھونے سے میں اچھا ہو جاؤں۔ تو میں اپنا کان تک نہ چھوؤں گا۔ پس خدا جو کچھ کرے وہی اچھا ہے۔

جب لوگوں نے یحییٰ بن معاذ کی عیادت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا مزاد کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ظالمانہ زندگی بسر کی (اس کا افسوس ہے)۔ امام شافعیؓ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں۔ اور میرے اعمال میرے آگے آنے والے ہیں۔ اور خدا کے فضل پر بھروسہ کئے ہوئے ہوں۔

داود طائیؓ کی بیماری کے زمانہ میں ایک امیران کے پاس آئے۔ اور ان کے برابر میں ایک ہزار دینار کھدے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں، رکھو خدا تمہیں عافیت دے۔ اس پر اس نے کہا کہ کوئی خدمت میرے لاٹق ہو تو فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں ہے، وہ یہ ہے کہ پھر میرے پاس تشریف نہ لائیں۔ اور اس کے بعد حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے (مجھے تصفیہ باطن کا موقع نہ دیں بلکہ) میرے موجودہ میل پر اور میل کا اضافہ کر دیں۔

لوگ فضیل بن عیاضؓ کی عیادت کے لئے گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کس چیز کو جی چاہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی یوسفؓ بن اس باط کو مرنے سے پہلے ایک نظر دیکھوں۔

حاتم اصمؓ جب کسی بخل کو مرض الموت میں صدقہ کرتے دیکھتے، تو فرماتے کہ اے اللہ! اس کو بیمار ہی رکھ، کیونکہ اس میں اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور فقراء کے لئے بھی بہتر ہے۔

لوگوں نے محمد بن سیرینؓ کی بیماری کے زمانہ میں ان سے کہا آپ کی کیا
حالت ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو سخت مصیبت میں پاتا ہوں (کیونکہ مجھے بھوک
اتنی لگتی ہے کہ کسی طرح پیٹ نہیں بھرتا (ایک مصیبت)، اور پیاس اتنی لگتی ہے کہ کسی
طرح نہیں بجھتی (دوسری مصیبت)، اور سونا چاہتا ہوں تو آنکھ نہیں لگتی (تیسرا
مصیبت)۔ غرض یہ مصیبتوں ہیں جن میں بتلا ہوں) لوگ کہتے ہیں کہ مرض میں شکایت
ان کی عادت نہ تھی، مگر اس مرتبہ مرض سخت بہت ہو گیا تھا جس کا وہ تحمل نہ کر سکے۔

اس لئے اپنے مخلصین سے اپنی حالت بیان کر دی تاکہ وہ ان کے لئے اللہ
تعالیٰ سے نرمی کی دعا کریں۔

فضیل بن عیاض ایک مرتبہ بیمار ہوئے لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ
نے فرمایا اچھا ہوں، مگر تم لوگ یہ دعا کرو کہ میرا مرض طول پکڑ جاوے تاکہ نہ میں لوگوں
کو دیکھوں اور نہ لوگ مجھے دیکھیں۔

لوگ ابو بکرؓ بن عبد اللہ کی عیادت کے لئے گئے، تو وہ دو آدمیوں کے سہارے
سے باہر تشریف لائے۔ ان کو دیکھ کر لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت خدا سے
ہمارے لئے کوئی دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے یہ دعا فرمائی: خدارحم کرے اس شخص پر جو
خدا کی طاعت میں ایسی حالت سے پہلے مصروف ہو جاوے جیسی اس قت میری
ہے (کیونکہ ایسی حالت کی اطاعت تقریباً اضطراری ہے۔ اور زیادہ عمدہ وہ اطاعت
ہے جو پورے اختیار سے ہو)۔

لوگ مامون الرشید کے پاس اس کی اس بیماری کے زمانہ میں گئے جس میں
اس کا انتقال ہوا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ گھوڑے کی جھول
اس کے نیچے بچھا دیں اور اس پر راکھ پھیلادیں۔ خدام نے اس پر عمل کیا، اور مامون
اس خاک پر لوٹنے لگا اور کہنے لگا: کہ اے وہ بادشاہ جس کی سلطنت بھی نہ زائل ہوگی۔
آپ اس بادشاہ پر رحم فرمادیں۔ جس کا (چند روزہ) ملک زائل ہو چکا ہے۔

لوگ عتبۃ العلام کے مرض الموت میں ان کے پاس گئے۔ اور پوچھا آپ کا

کیا حال ہے؟ تو انہوں نے یہ شعر پڑھے۔

خر جت من الدنیا و قامت قیامتی
غداة یقل الحاملون جنازتی
وعجل اهلى حض قبری وصیروا
خر و جی و تعجیلی الیه کرامتی
کانهم لم یعرفوا قط صورتی
غداة اتی یومی علی ولیتی

ترجمہ: میری حالت یہ ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ اور جس روز اٹھانے والے میرا جنازہ اٹھاویں گے اسی روز میری قیامت آ جاوے گی، اور میرے عزیز میرے لئے جلدی قبر کھدوادیں گے۔ اور مجھے اس کی طرف جلدی لے جانے کو میری تعظیم قرار دیں گے۔ اور اس لئے جس قدر جلد ممکن ہوگا۔ مجھے قبر میں پہنچا دیں گے۔ اور جس روز میری موت کا دن اور اس کی رات میرے اوپر آؤں گی اس روز ان کی یہ حالت ہوگی۔ کہ گویا کہ وہ مجھے پہنچانے تک بھی نہ تھے۔ انتہی۔

عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے۔ کہ جب عمر بن الخطابؓ کو خبر مارا گیا۔ تو آپ نے دودھ منگایا۔ اور اسے پیا۔ تو وہ دودھ زخم میں سے نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ کاش میں دنیا سے ویسا ہی رخصت ہو جاؤں۔ جیسا میں دنیا میں آیا تھا۔ (یعنی نہ میں مستحق ثواب ہوں اور نہ مستحق عذاب اور نہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب ہو) اور اگر میرے قبضہ میں تمام شرق و مغرب ہوتے۔ اور میں ان کو دے کر ہوں..... سے نجات پا سکتا۔ تو میں ضرور دے دیتا۔

جب سلمان فارسیؓ کا انتقال ہونے لگا۔ تو وہ رونے لگے۔ اور فرمایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ دنیاوی سامان تمہارا اتنا ہونا چاہئے۔ جتنا سوار کا تو شہ اور میری حالت یہ ہے (کہ میں نے یہ سامان جمع کر رکھا ہے

(پھر میں کیوں نہ روؤں) پس جب وہ مر گئے تو اس کی قیمت کا تخمینہ کل پندرہ درہم ہوا
(اس سے ان حضرات کا خوف ان کی احتیاط معلوم ہو سکتی ہے)۔

جب ابراہیم "نخعی کا انتقال ہونے لگا۔ تو آپ رونے لگے۔ کسی نے سبب
پوچھا تو فرمایا۔ کہ مجھے اپنے پروردگار کے قاصد کا انتظار ہے۔ جو خدا کی طرف سے
میرے پاس آئے گا۔ اور آکر نہیں معلوم جنت کی خوش خبری سنائے گا۔ یادو زخم کی
اطلاع دے گا۔

محمد بن المائد رکا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے، اس پر ان سے کہا گیا کہ
کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے ان گناہوں پر روتا ہوں جن کو میں
اپنی نظر میں معمولی سمجھتا تھا، مگر وہ خدا کے نزدیک بہت بڑے تھے۔

محمد بن سیرین کا انتقال ہونے لگا تو وہ بھی رونے لگے۔ سوان سے بھی پوچھا
گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں ایک تو اس
کوتا ہی پر روتا ہوں جو میں گذشتہ ایام میں کر چکا تھا، اور دوسرے اس پر روتا ہوں کہ اس
وقت اس کی سزا میں مجھے گرم آگ میں داخل کیا جائے گا۔

جب عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ میں
گناہگار ہوں۔ اب اگر آپ مجھے معاف فرمادیں تو یہ آپ کا احسان ہے، اور اگر آپ
عذاب دیں تو یہ آپ کا اعدل ہے اور اصلاً ظلم نہیں۔ مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا
کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔

جب عامر بن قیس کا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے اور فرمایا کہ موت سے گھبرا
کر یاد نیا کی حرث سے نہیں روتا، بلکہ میں اس لئے روتا ہوں کہ میں نے جی بھر کر خدا کی
اطاعت نہ کر لی، اور نہ جی بھر کر جاڑوں میں نمازیں پڑھیں۔

جبکہ عبد اللہ بن مبارک کا انتقال ہونے لگا تو اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا سر
ز میں پر کھدو۔ غلام یہ سن کر رونے لگا تو دریافت کیا کہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مجھے
آپ کے عیش کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے کہ آپ

اس طرح جان دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ افسوس اور رنج کی بات نہیں۔ میں نے خود حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میں ایسی حالت میں مروں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب میری حالت بدل جائے تو مجھے لا الہ الا اللہ تلقین کرنا۔ اور ایک دفعہ تلقین کر کے دوبارہ تلقین نہ کرنا۔ ہاں اگر اس کے بعد مجھ سے کوئی اور کلام صادر ہو تو پھر کلمہ مذکور تلقین کرنا (تاکہ میرا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو)۔

عطاءُ بن یسار فرماتے تھے کہ ابلیس امام احمدُ بن حبیل کے سامنے کھڑا ہوا، اور کہا کہ اے احمد تم مجھ سے بے خطر ہو کر دنیا سے جارہے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی بے کھٹکے نہیں ہوں بلکہ اس وقت بے کھٹکے ہوں گا جب میری روح پر واز کر جاوے گی۔

حسنُ بصری ایک شخص کے پاس گئے جونزع کی حالت میں تھا، اور فرمایا کہ جس کا انجام یہ ہوا، اس کا آغاز بھی اس قابل ہے کہ اس سے بے رغبتی کی جاوے۔ (مطلوب یہ ہے کہ یہ زندگی کا انجام ہے۔ پس زندگی ہی اس قابل نہیں کہ اس کی خواہش کی جاوے)۔

جب ابوذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے موت جلدی سے گلا گھونٹ دے کیونکہ میں خدا سے (جلدی) ملنا چاہتا ہوں۔

ابوالدرداءُ ایک قریب مرگ شخص کے پاس گئے تو اسے الحمد للہ کہتے پایا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ کام تو نے بہت ٹھیک کیا ہے، کیونکہ حق سبحانہ جب کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر ان کی تعریف کریں۔

سفیان ثوریٰ ایک بچے کے پاس گئے جونزع میں بتلا تھا، اور اس کے ماں باپ اس کے پاس بیٹھے رورہے تھے۔ تو اس بچہ نے کہا کہ آپ لوگ روئیں نہیں۔ میں جس کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھ پر تم سے زیادہ مہربان ہے۔

جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ! اس گناہ گارا اور سنگدل بذھے پر رحم فرماء، اور اے اللہ میری ٹھوکر دور کر دے

(اور میری لغزش معاف فرمادے) اور اس شخص کی نادانی کے ساتھ جو آپ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں رکھتا اور نہ آپ کے سوا کسی سے توقع رکھتا ہے حلم کا برتابہ کیجئے اور یہ کہہ کر دھاڑیں مار کر رونے لگے۔

جب ہشامؓ ابن عبد الملک کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی اولاد کی طرف نظر کی۔ یہ لوگ اس وقت اس کے پاس بیٹھے رورہ ہے تھے اور دیکھ کر کہا کہ ہشام نے تمہیں دنیادی، اور تم اس پر روئے، اس نے تمہارے لئے اپنا جمع کیا ہوا ذخیرہ چھوڑا اور تم نے اس پر اس کے کمائے ہوئے گناہ چھوڑے۔ (حاصل یہ کہ میں نے تم کو فائدہ پہنچایا، مگر تم سے مجھے سوائے لغویات اور مضر باتوں کے اور کچھ نہ ملا)۔ سواب ہشام کا برا انجام ہے۔ اگر خدا نے اسے معاف نہ کیا۔

جب ابو ہریرہؓ کا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ منزل دور ہے۔ تو شہ کم ہے، یقین کمزور ہے اور پل صراط سے دور خیں گرنے کا ذر ہے، اس لئے روتا ہوں۔ اھ۔

اب اے بھائی! تو اپنے نفس کو ٹوٹوں، کیونکہ تو ہر دم مرنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک سانس بھی تیرے قبضہ میں نہیں کہ تیرے اختیار سے باہر آ جاوے یا اندر چلا جاوے۔ اور رات دن خوب استغفار کیا کر، کیونکہ تو اس گھائی کے کنارہ پر ہے جو گرنے کو ہے۔ اللہ تیری ہدایت کا کفیل ہو، اور وہی نیکیوں کی کفالت کرتا ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ الحمد لله رب العالمين۔

جنائزہ دیکھنے پر عملِ سلف

۱۵۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی جنازہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے نہایت عبرت حاصل کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور موت کا نہایت اہتمام کرتے ہیں۔

چنانچہ ابو ہریرہؓ جب کسی کو جنازہ لے جاتے دیکھتے تو جنازہ کو خطاب کر کے

فرماتے کہ میاں خدا کے پاس جاؤ۔ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔

مکھوں "مشقی جب کسی جنازہ کو دیکھتے تو فرماتے کہ تم صبح کو جاؤ، شام کو ہم بھی آنے والے ہیں۔ (اور فرماتے کہ موت بھی) نہایت بلیغ اور مختصر نصیحت ہے (اور ہماری غفلت بھی) بہت بڑی غفلت ہے کہ اگلا جاتا ہے اور پچھلے کو عبرت نہیں ہوتی، (اور وہ نہیں خیال کرتا کہ ایک روز ہم بھی یوں ہی چلے جائیں گے) اور جنازہ کو دیکھ کر (کئی دن تک ان کی ایسی حالت رہتی جیسے کوئی دیوانہ ہو۔

اسید بن حفیز فرماتے تھے کہ جب کبھی میں کسی جنازہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے صرف اس حالت کا خیال آتا ہے جو اس کی ہونے والی ہے، اور اس کے سوا اور کوئی خیال نہیں آتا نیز وہ (جنازہ کو دیکھ کر) چند روز تک کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی جنازہ کے ساتھ قبرستان گئے، جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو یہ بیہوش ہو گئے، اور لوگ ان کو اس پلٹ پر اٹھا کر گھر لائے جس پر وہ اس مردے کو قبرستان لے گئے تھے۔

مالک بن دینار اپنے ایک بھائی کے جنازہ میں شریک ہونے اور اس کو دیکھ کر رونے لگے، اور فرمایا کہ مجھے اس وقت چین آئے گا جب مجھے یہ معلوم ہو جاوے گا کہ میرے بھائی کا انعام بخیر ہوا۔

اعمش فرماتے تھے کہ ہم جنازہ میں شریک ہوتے تو یہ نہ پہچان سکتے کہ اہل میت کون ہیں جن کی تعزیت کی جائے، کیونکہ سب لوگوں کو رنج و غم ہوتا تھا۔ (اور اس کی وجہ سے اہل میت اور دوسرے لوگ سب ہم رنگ ہوتے تھے)۔

ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تو ہر شخص کو منہ لپیٹے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھتے تھے۔

ابراہیم زباب کا کچھ لوگوں پر گذر ہوا جو کسی میت کے لئے دعاۓ رحمت کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ صاحبو! وہ مردہ جس کی تم کو فکر ہے، تین منزلیں طے کر چکا ہے۔ ایک ملک الموت کا دیکھنا۔ دوسری موت کی تیلخی چکھنا۔ تیسرا سوء خاتمہ سے

بے خوفی، اور تم کو یہ تینوں مرحلے طے کرنے ہیں۔ اس لئے تم کو اپنا اندیشہ ہونا چاہئے۔
یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

عمرو بن ذرایک ایسے شخص کے جنازہ میں شرکیں ہوئے جو سخت بد افعال تھا،
اور لوگ اس کی بد کاری کی وجہ سے اس کے جنازہ میں شرکت سے احتراز کرتے تھے۔
جب لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا تو انہوں نے فرمایا کہ اے فلاں خدا تجھ پر رحم کرے
تو نے تو حید کی حمایت اور اپنے چہرہ کو (خدا کے سامنے) خاک آلو دکیا (کیونکہ تو نماز
پڑھتا تھا) اگرچہ لوگ تجھ پر ازالہ لگاتے ہیں کہ گناہ گار اور سخت بد کار تھا، مگر ہم میں سے
کون ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا، اور اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ ان کے اس بیان کا اتنا اثر
ہوا کہ وہ شخص جو غش اٹھائے ہوئے تھا رونے لگا (لغش اس پنگ وغیرہ کو کہتے ہیں جس
پر مردہ کو لے جاتے ہیں)۔

پس اے بھائی تو اس کو سمجھ لے، اور تو بھی یونہی عبرت حاصل کیا کر جس طرح
یہ اکابر عبرت حاصل کرتے تھے۔ اور خوب رویا کر اور خوب چیخا کر، کیونکہ تیرے سامنے
وہ ہولناک واقعات ہیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ والحمد لله رب العالمین۔

موت کی تنگی اور سختی کو یاد کرنا

۱۶۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ لوگ موت اور
سکرات موت کو یاد کرتے ہیں تو اپنے سوء خاتمہ کے خوف سے نہایت رنج و غم کرتے ہیں
پہاں تک کہ شدت غم سے ان کی عقلیں متزل ہو جاتی ہیں۔

کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس
یوسف علیہ السلام کے زندہ اور خوش عیش ہونے کی خبر دیئے والا آیا اور آ کر اس نے یہ
خوش خبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے میں
تیری اس خوش خبری کا بدلہ دے سکوں۔ ہاں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر
سکرات موت کو آسان فرمائے۔ (اس سے تم سمجھ لو کہ سکرات موت کس قدر خوف کی

چیز ہے اور اس سے کس قدر رُننا چاہئے) میں کہتا ہوں کہ بعض حضرات کا یہ ملفوظ پیشتر گذر چکا ہے کہ میں آسانی سے روح پرداز کرنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس میں سختی کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ مومن کا آخری عمل ہے۔ اس لئے اس کو جس قدر ثواب مل جاوے غنیمت ہے۔ پس (تم دعائے تخفیف والتجاء تشدید میں تعارض نہ خیال کرنا۔ کیونکہ دونوں کے محامل جدا گانہ ہیں۔ چنانچہ) دعائے تخفیف اس موقع پر ہے جہاں تشدید سے ناگواری کا اندیشہ ہو (التجاء تشدید وہاں ہے جہاں ناگواری کا اندیشہ نہ ہو۔) واللہ اعلم

نیز کعب احبار فرماتے تھے کہ موت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خاردار درخت آدمی کے بدن میں داخل کر دیا جاوے، اور اس کا ہر ہر کاشا بدن کی ایک ایک رگ کو پکڑ لے۔ پھر اس کو کوئی زور سے کھینچ لے جس سے کچھ رگیں ٹوٹ جائیں، اور کچھ مادف ہو کر رہ جائیں۔

سلمان فارسی فرماتے تھے کہ جب موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسند آئے، اور آنکھوں میں چمک ہو، اور نتھنے پھول جائیں تو یہ علامتیں اچھی ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ میت مرحوم ہے (کیونکہ پیشانی کا پسند شدت نزع پر دلالت کرتا ہے جو مکفر ذنب ہے اور آنکھوں کا چمکنا اور نتھنے کا پھولنا دلالت کرتا ہے کہ میت کو نعمائے آخرت کا مشاہدہ ہوا ہے جس سے اس کو خوشی حاصل ہوئی ہے) اور جب وہ یوں خرخ کرے جیسے گلا گھونشا ہوا شخص کرتا ہے، اور اس کی رنگت ماند پڑ جاوے۔ اور منہ پر جھاگ آ جائیں، تو یہ علامتیں بری ہیں۔ اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ میت معدب ہے (چونکہ یہ علامتیں بعض تجھیں ہیں، اس لئے ان پر اعتماد نہ کرنا چاہئے)۔ واللہ اعلم۔

حسن بصری جب اپنے کسی بھائی کے قبض روح کے وقت موجود ہوتے تو ان پر اس کا اس قدر اثر ہوتا کہ کئی دن تک نہ کچھ کھاتے اور نہ پیتے۔ اور صرف رونے اور چینخ سے کام ہوتا۔ اور فرماتے تھے کہ مومن کو تین چیزیں کبھی نہ بھولنی چاہئے۔ ایک دنیا، دوسرے اس کے حالات کا اختتام، تیسرا موت (دنیا کونہ بھولنے کے معنی یہ ہیں کہ

اس سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہئے۔ مبادا کسی وقت دھوکا دیدے، اور اس کے حالات کے اختتام کونہ بھولنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی خوشی اور غم کو معتد بہ نہ سمجھے۔ نہ خوشی سے بے فکر ہوا اور نہ غم سے متفلکر ہو، بلکہ سمجھے کہ یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ اور موت کے نہ بھولنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر وقت اس کے لئے تیاری کرتا رہے۔ (والله اعلم)۔

سفیان ثوریؓ کے سامنے جب کوئی موت کا تذکرہ کر دیتا تو (شدت غم سے ان کی یہ حالت ہو جاتی کہ) بالکل معطل ہو جاتے، اور کوئی ان سے منشفع نہ ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کوئی بات پوچھتا بھی تو فرمادیتے کہ مجھے معلوم نہیں (کسی اور سے دریافت کرلو)۔

شفیق زادہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے دین میں چند باتوں کی (نہایت شدید) مخالفت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ (دینی حیثیت سے) اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہماری روزی کافیل ہے مگر (وہ اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو کفالت خداوندی پر اعتماد نہیں، بلکہ) وہ اسی پر مطمین ہوتے ہیں جس کو وہ جمع کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ (دینی حیثیت سے) اقرار کرتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے مگر (وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ) ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مال جمع کرتے ہیں لیکن وہ (اس سے آخرت میں منشفع ہونے کے لئے) اس کو خرچ نہیں کرتے۔ تیسرا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مرتضیٰ ضرور ہے مگر وہ (عملًا اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور) ایسے لوگوں کے سے کام کرتے ہیں جن کو موت کا خیال بھی نہیں۔

جب عطاء سلمی کے انقال کا وقت ہوا اور ان کے احباب ان کے نزع کی آسانی کی دعا کرنے لگے تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، اور فرمایا کہ ایسی دعا نہ کرو۔ کیونکہ میں ان ہولناک واقعات کے خوف سے جن سے میں بعد مرگ دفعۃ ملا قی ہوں گا، یہ چاہتا ہوں کہ قیامت تک میری جان (نہ نکلے اور) میرے لگئے اور کوئے کے درمیان پھرتی رہے، اور فرماتے تھے کہ جو شخص زمین کی وہ حالت دیکھنا چاہے جو اہل زمین کے فنا ہونے گے بعد ہوگی، وہ حاجیوں کے چلے جانے کے بعد ان کے

فرودگا ہوں کو دیکھ لے۔

ابوالعتا ہبیہ نے اس مضمون کو نظم کیا ہے۔ اور کہا ہے ۔
 نفی و تبقی الارض بعد كمثل ما
 يبقى المناخ و ترحل الركبان
 ترجمہ: ہم فنا ہو جاویں گے۔ اور زمین رہ
 جاوے گی جس طرح پڑا اورہ جاتا ہے اور
 سوار کوچ کر جاتے۔

حسن بن عمران فرماتے تھے کہ موت آروں سے چیرنے سے اور ہانڈیوں
 میں پکانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور اگر میت کے ایک بال کی تکلیف تمام اہل دنیا
 پڑا لی جاوے تو اس سے وہ اس قدر تکلیف محسوس کریں کہ ان کو کھانے اور پینے کا خیال
 نہ رہے۔

حسن بن علی کا ایک مکان کے دروازہ پر گذر رہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مکان
 ایک وقت میں گویا تھا اب کیا بات ہے کہ میں اسے خاموش دیکھتا ہوں، یعنی پہلے اس
 میں سے آدمیوں کی آوازیں آتی تھیں اور اب کسی کی آواز نہیں آتی، تو دروازہ کے
 پیچھے سے ایک عورت نے جواب دیا کہ اس کے رہنے والے یتیم اور بیوہ ہو گئے (یعنی
 صاحب خانہ کا انتقال ہو گیا، اور چھل اور پہل ختم ہو گئی) یہ سن کر امام حسن اتنے روئے
 کہ آنسووں سے ریش مبارک تر ہو گئی۔

جب امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب "زنہی" کئے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم
 امید کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کو آگ نہ چھووے گی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ
 ناواقف ہو۔ (تمہیں میری حالت کی کیا خبر، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم کا کوئلہ نہ بنوں)۔
 اہل اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو یقچ اور اپنی معمولی کو تاہیوں کو پہاڑ کے برابر سمجھتے
 ہیں، اس بناء پر امیر المؤمنین نے ایسا فرمایا ہے۔ حضرات شیعہ اس قسم کے مضامین سے
 امیر المؤمنین پر طعن کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ تو تھا جو اتنا خوف تھا، ورنہ کیوں

ڈرتے تھے، مگر یہ ان کی صریح بد دیانتی ہے، کیونکہ حضرات اہل بیت سے بھی اس قسم کی باتیں ثابت ہیں تو کیا وہ ان پر بھی طعن کریں گے۔ (نعوذ بالله من سوء الفهم وتقلید الباطل - مترجم) نیزان کے زخمی ہونے کی حالت میں کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بعد اپنے صاحبزادہ عبد اللہؑ کو خلیفہ بنادیجھے کیونکہ وہ نیک آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آل خطاب کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ان میں کا ایک فرد خدا کے سامنے اس طرح حاضر کیا جاوے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بند ہے ہوں گے۔ (میرے نزدیک یہ کافی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے عزیزوں میں سے کسی کو اس بلا میں بتلا کروں۔)

ابن ابی ملکیہؓ فرماتے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابا جان آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا تھا کہ میری جان زنجیروں میں باندھ کر نکالی جاتی ہے۔ اور یہ سوال مجھ سے حق تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا، اور میں نے ان کو بھی یہ ہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ پر موت کو آسان کر دیا تھا۔ (ورنة موت نہایت سخت چیز ہے)۔

ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو فرمایا کہ کیا آپ نے آج شراب پی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا تو روزہ ہے۔ اس پر انہوں نے منہ سونگھا اور منہ کی بوکے ساتھ روح قبض کر لی۔ جب ان کا انتقال ہو چکا تو ان سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ فرمائیے آپ نے موت کو کیسا پایا؟ آپ بنے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زندہ بکری کی کھال چھپنی جاتی ہو۔

ربیع بن غیثم فرماتے تھے کہ اس وقت سے پہلے پہلے اپنی مقدور بھر موت کی تمنا کر لو جبکہ تم ایسے مکان میں منتقل ہو جاؤ جہاں تم موت کی تمنا کرو، اور تمہاری درخواست قبول نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جانے سے پہلے موت کی تمنا کرو (اور موت کی تمنا سے مراد زبان سے تمنا نہیں ہے، بلکہ موت کے لئے عملی تیاری اور شوق آخرت

مراد ہے)۔

ابن سیرینؓ کی یہ حالت تھی کہ جب لوگ ان کے سامنے موت کا تذکرہ کرتے تو ان کا ہر عضو معطل ہو جاتا (اور سکتہ کی سی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی)۔

کعب احبار فرماتے تھے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوحؓ کو زندہ کیا تو اس سے فرمایا کہ تم کب سے مردہ ہو اس نے کہا چار ہزار برس سے، پھر پوچھا کہ تم نے موت کو کیا پایا؟ تو اس نے کہا کہ اب تک اس کی تکلیف اور اس کی گرمی نہیں گئی۔

رابعہ عدویہ سے کہا گیا کہ کیا آپ موت پسند کرتی ہیں؟ تو (انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کسی آدمی کی نافرمانی کرتی تو مارے شرمندگی کے اس کے سامنے جانا پسند نہ کرتی۔ پھر خدا کی نافرمانی کر کے اس کے سامنے جانا کیوں کر پسند کروں گی۔

یحییٰ بن معاذؓ نے کسی دولتمند کے گھر میں کسی عورت کو نوحہ کرتے سناتا آپ نے فرمایا کہ دنیا سے دھوکا کھانے والوں کی حالت پر افسوس ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں کب تک آخرت کا شور سنتے رہیں گے اور خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں گے۔ (مطلوب یہ ہے کہ نوحہ آخرت کا شور ہے، جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتا ہے مگر وہ اتنے غافل ہیں کہ نہیں سنتے، اور آخرت کے لئے تیار نہیں ہوتے)۔

حامد لفاف فرماتے تھے کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے گا اس کو تین نعمتیں عطا ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں سے جلدی توبہ کرے گا، اور دوسری یہ کہ اس کو قناعت نفس حاصل ہوگی، تیسرا یہ کہ وہ جی کھول کر عبادت کرے گا۔

وہب بن منبهؓ فرماتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آسمانوں کے فرشتے ایک دوسرے کے پاس متسافانہ اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آئے، اور کہا کہ بس جی، جب موسیٰ کلیم اللہ بھی مر گئے تو اب کون رہ گیا جو نہ مرنے گا۔ (یہ قصہ کچھ جی کو نہیں لگتا۔ وہب بن منبهؓ اسرائیلیات کے ماہر تھے، انہوں نے ان کی کسی کتاب میں دیکھ کر نقل کر دیا ہے واللہ اعلم)۔

نیز وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ کتاب

اعمال فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا۔ اب اگر اس نے ان کے ساتھ خوبی سے رفاقت کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھ سے رفیق کو جزائے خیر دے تو ہمارا اچھا رفیق تھا تو ہمیں بہت مرتبہ اپنے ساتھ مجالس خیر میں لے گیا ہے اور تیری بے ریا طاعت میں ہم نے بہت مرتبہ عمدہ خوشبوئیں سونگھی ہیں اور اگر اس نے برائی کے ساتھ ان کی رفاقت کی ہے، تو کہتے ہیں کہ خدا تجھے جزائے خیر نہ دے تو ہمارا برابر رفیق تھا، تو نے بہت مرتبہ اپنے ساتھ ہمیں معاصی میں موجود ہونے کا موقع دیا ہے، اور ہم نے تجھ سے بہت مرتبہ بدبو سونگھی ہے۔ نیزوہ یہ فرماتے تھے کہ خدا کو وہ یہ شخص راضی کر سکتا ہے جو ہر وقت یہ سمجھتا ہو کہ خدا مجھے دیکھتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ محققین نے بیان کیا ہے کہ خدا کو اس طرح پیش نظر رکھنا کہ کسی سانس میں غفلت نہ ہو، انسانی طاقت سے باہر ہے۔ واللہ اعلم۔ اس مقام پر غور کر لیا جاوے (میں کہتا ہوں کہ وہب بن منبه کا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصود اس مراقبہ کی کثرت ہے، جس کو مبالغہ دوام سے تعبیر کر دیا۔ واللہ اعلم مترجم)

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کل بھی زندہ رہے گا، وہ موت کے لئے تیار نہیں ہے۔ نیزوہ فرماتے تھے کہ طاعت خدا کی یاد سے پیدا ہوتی ہیں، اور معاصی اس کے بھولنے سے۔ پس اے بھائی تو خوب سمجھ لے اور تہائی نیز علماء باعمل اور عابدوں وزادہوں کی صحبت اختیار کر، اور اہل غفلت اور راغبین فی الدنیا کی صحبت سے نہایت درجہ پر ہیز کر کیونکہ ان کا میل جوں قلب میں تاریکی پیدا کرتا ہے اور قیامت کے خوفناک احوال کے مشاہدہ سے مانع ہوتا ہے۔ والحمد لله رب العالمین.

دنیا پر عبرت کی نظر

۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کو اور اس کی خواہشات کو بنظر عبرت دیکھتے ہیں نہ کہ بنظر محبت، چنانچہ جمہور سلف صالحین اسی طریق پر چلتے تھے۔

سعد بن ابی وقار ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا سعد کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں جنگل میں ایسے لوگوں کے پاس تھا، جن کو کھانے پینے اور شہوت رانی کے سوا کوئی مشغله ہی نہیں۔ اس پر جناب رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم کوان کی حالت پر تعجب ہے؟ تم کہوتے میں تم کوان سے بھی زیادہ قابل تعجب بات بتلا دوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی باتوں کی برائی کو جانتا ہو جن کو تم نے ان لوگوں کے متعلق مععرضانہ لجھے میں بیان کیا ہے اور پھر وہ اس قسم کی باتیں کرے، اس کی حالت ان سے زیادہ قابل تعجب ہے۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا کی حالت میں غور کرے، اور اس سے عبرت حاصل کرے، اس کے اعمال نیک میں کمی نہ آئے گی۔ اور حاتم اصمؓ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کب اس قابل ہوتا ہے لہ اس کو دنیا سے عبرت حاصل کرنے والا سمجھا جاوے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا کی ہر چیز کا انجام بر بادی سمجھے، اور سمجھے کہ اس کا مالک ایک روز مئی میں جائے گا (یعنی یہ علم اس کے لئے ہر وقت متحضر ہو۔ اور اس کے مقتضی پر عامل ہو۔ ورنہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے)۔

یحییٰ بن معاذؓ فرماتے تھے کہ تم جو دنیا کو دیکھو تو اس سے تمہارا مقصد عبرت حاصل کرنا ہونا چاہئے، اور تم جو اس کے لئے کوشش کرو تو یہ کوشش سخت مجبوری کی حالت میں ہونی چاہئے، اور اپنے اختیار سے جو کام کرو، وہ یہ ہونا چاہئے کہ دنیا پر لات مار دو۔ حاتم اصمؓ فرماتے تھے کہ جس کے گھر سے جنازہ نکلے، اور وہ اس سے عبرت نہ حاصل کرے تو نہ اس کے لئے علم نافع ہے، نہ حکمت اور نہ نصیحت۔

احمد بن حربؓ فرماتے تھے کہ زمین وہ شخصوں کی حالت پر تعجب کرتی ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے سونے کے لئے خواب گاہ درست کرے اور بچھونا بچھائے، اس سے زمین کہتی ہے کہ تو یہ کیوں نہیں یاد کرتا کہ تجھے میرے اندر زمانہ دراز تک بلا بستر رہنا ہوگا۔ اور دوسرے وہ شخص جو اپنے کسی بھائی کے ساتھ کسی قطعہ زمین کے بارہ میں جھگڑا

کرتا ہے۔ اس سے زمین کہتی ہے کہ تو ان لوگوں کی حالت میں کیوں نہیں غور کرتا جو تجھ سے پہلے اس کے مالک رہ چکے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ گذرنے ہیں جو اس کے مالک ہوئے مگر اس میں رہ نہ سکے۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ جس شخص کی ظاہری و باطن آنکھے نے اس دنیا سے عبرت حاصل کر کے آخرت کی طرف انتقال نہ کیا اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ عمل کم کرے گا۔

ابراهیم بن ادہم فرماتے تھے کہ ابراہیم تھمی کا قاعدہ تھا کہ وہ رات کو اپنے مکان کے آنکن میں پیشاب کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ حجرہ سے پیشاب کرنے نکلے تو صبح تک دنگ کھڑے رہے۔ اس پر ان سے کسی نے اس کا سبب پوچھا، تو فرمایا کہ جب میں نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے دوزخیوں اور ان کی تکالیف کا خیال آگیا، اور وہ لوگ عالم خیال میں میرے سامنے صبح تک زنجیروں اور بیزیوں میں بند ہے ہوئے پیش ہوتے رہے۔ یہ سماں دیکھ کر میری نیند اڑ گئی (اور میں متھیر کھڑا رہا)۔

عمر بن عبد العزیز کی بیوی فاطمہ فرماتی تھیں کہ واللہ نہ عمر بن عبد العزیز کو کسی نے زہر دیا، اور نہ کسی نے انہیں (خفیہ تدبیر سے) قتل کیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ ان کا انتقال تو خدا کے خوف اور دوزخ کے ڈر سے ہوا۔

ثابت بنانی فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کا ایک تنور پر گذر ہوا، جو دھونکا جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ان کو دوزخ یاد آگئی۔ اس کے یاد آتے ہی لوٹ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور خدا کے خوف سے ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے اعضاء اور جوڑ ایک دوسرے سے جدا ہونے کو ہو جاتے اور لوگ ان کے اعضاء کو رسیوں سے باندھ دیتے تھے، تاکہ وہ ان کو حرکت دے سکیں اور چند روز تک یوں ہی بند ہے رہتے۔ اور گرمی کے زمانہ میں فرماتے تھے کہ الہی ہم سے تو آپ کے آفتاب کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، ہم آپ کی آگ کا تحمل کیوں کر کریں گے۔

یزید بن مرشد کی آنکھوں سے برابر آنسو جاری رہتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا، تو فرمایا: کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتے کہ وہ میری نافرمانی کی صورت میں حمام کے پانی میں داخل کریں گے، تو اس وقت بھی مجھے زیبا تھا کہ میں خون کے آنسوؤں سے روؤں۔ اور اب تو یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی میری نافرمانی کرے گا میں اسے دوزخ میں جلاؤں گا، تواب کیسے نہ روؤں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان پر گزر ہوا، وہاں آپ نے کسی کو کہتے سنا کہ کتنے ہی بے نقش بدن، اور تمکین چہرے اور فضیح زبانیں مٹی کے اندر عذاب الہی سے چھختے ہیں (اور کوئی ان کی مد نہیں کر سکتا)۔

احمد بن حرب فرماتے تھے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ ضعیف العقل ہو۔ ہم لوگ دھوپ کے مقابلہ میں سایہ کو اختیار کرتے ہیں مگر دوزخ کے مقابلہ میں جنت کو اختیار نہیں کرتے۔ حالانکہ دوزخ دھوپ سے کہیں زیادہ موزدی ہے، اور جنت سایہ سے کہیں زیادہ راحت بخش ہے۔ پس اے بھائی ان باتوں کو سمجھ لے اور اپنے مشاہدہ موجودات کو موجب عبرت بنا، یعنی جو کچھ تو دیکھے اس سے عبرت حاصل کر۔ والحمد لله رب العالمین۔

نصیحت و خیرخواہی اہل اسلام

۱۸۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے بچاتے ہیں کہ وہ ان کے (ان) برے افعال کا اتباع کریں (جو ان سے سہو یا غفلت کی وجہ سے بعض اوقات صادر ہو جاتے) اور اس سے مقصود ان کا لوگوں کی خیرخواہی ہوتی ہے زندگی میں بھی (کہ وہ میرے افعال سے بچیں) اور مرنے کے بعد بھی (کہ ان کے برے نتائج سے بچیں)۔ نیز اس میں خود ان حضرات کی ایک غرض ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ان لوگوں کے سبب سے جنہوں نے ان حضرت کا ان بری باتوں میں اتباع کیا تھا، جو ان سے بوجہ غفلت یا بوجہ سہوا حیانا صادر ہو جاتی تھیں، خود یہ حضرات گنہگار نہ ہوں۔

ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سکندر رذ والقر نین کے زمانہ میں سیلا ب کے ذریعہ سے ایک سونے کی قبر ظاہر ہوئی جس کا طول و عرض دس دس ہاتھ تھا۔ لوگوں نے اس قبر کو گھولاتو دیکھا کہ ایک شخص ایسے تخت پر سورہ ہے جس کے پائے سونے کے ہیں اور ریشمیں چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ اور اس کے گلے میں زبرجد کی ایک تختی پڑی ہوئی ہے۔ جس میں لکھا ہے باسم واجب الوجود و علة العلل (یہ بجائے بسم اللہ کے ہے۔ اور اس کے بعد اصل مقصود ہے جو یہ ہے) جس چیز کی ابتداء ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ چنانچہ میں ایک ہزار برس تک دنیا کے رباع مسکون کا مالک رہا۔ اور میرے ملک کی روزانہ آمدنی اس قدر سونا تھی، جس قدر میری قبر میں لگا ہوا ہے۔ آفتاب و ماہتاب، اور تمام آسمان میرے تابع تھے۔ ہوا پانی آگ لوہا یہ سب میرے فرماں بردار تھے۔ یہ سب کچھ تھا مگر پھر بھی میں عالم بالا کو چلا گیا، اور تمہارے درمیان اپنا یہ جسم چھوڑ گیا، جو کہ کسی وقت فنا ہو جاوے گا، تاکہ میرے بعد آنے والی نسلیں اس سے سبق لیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور فنا ہوگا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہ اس واقعہ کو امام غزالیؒ نے ذکر کیا ہے اور اس جگہ اس کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ اس بادشاہ نے لوگوں کو اس سے بچا دیا کہ وہ دنیا میں مشغول ہو کر موت سے غافل ہونے میں اس کا اتباع کریں۔

وہب بن منبهؓ فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام بیت المقدس کے ایک غار میں داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تخت رکھا ہے جس پر ایک مردہ پڑا ہے اور اس کے سر انہے ایک تختی رکھی ہوئی ہے، جس میں یہ لکھا ہے: میں فلاں بادشاہ ہوں میں نے ہزار سال دنیا پر حکومت کی اور ہزار دو شیزہ لڑکیوں سے شادی کی، اور ہزار شہر بسائے، اور ہزار شکروں کو نکست دی، اور میں یہاں مردہ پڑا ہوں سوائے اہل دنیا میری حالت سے عبرت حاصل کرو۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ بسا اوقات آدمی کا دشمن اس کو نقصات پہنچانا چاہتا ہے، مگر اللہ اس کو اس سے دفع کر دیتا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد

یہ آیت پڑھتے: ﴿اذ کرو انعمۃ اللہ علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا علیکم
ایدیہم فکف ایدیہم عنکم﴾.

انس بن مالک فرماتے تھے کہ قیامت سے پیشتر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا
کہ اس میں لوگوں کو شعر سننا بہ نسبت قرآن سننے کے زیادہ محبوب ہو گا۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے کہ مجھے لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ وہ نیکوں پر اس قدر
خختی کرتے ہیں کہ اگر وہ یچارے کوئی مباح کام کرتے ہیں تو یہ لوگ ان سے اس کو برا
سمجھتے ہیں اور اپنے ساتھ اتنی نرمی کرتے ہیں کہ نہایت برعے برے گناہ کرتے ہیں اور
کبھی نہیں خیال کرتے کہ ہم لوگ برا کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ غیبت کرتے ہیں،
چغلی کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کھوٹ رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، خود
پسندی کرتے ہیں۔ غرض کہ ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں مگر کبھی صدق دل سے استغفار نہیں
کرتے۔ اور اگر کوئی بزرگ مباح کپڑا پہن لے یا مباح مٹھائی یا مباح شکر کھالے تو
اس پر طعن کرتے ہیں (کہ یہ کیسے بزرگ جو ایسا ایسا کرتے ہیں۔ خدا بچائے اس غلط
بنی اور غلط فہمی سے)۔

ابو حمزہؓ بغدادی فرماتے تھے کہ جب علماء موت روحاں میں مبتلا ہو کر عوام کی
خوشامدانہ شکر گزاری کرنے لگیں تو تم اس پر نظر نہ کرو بلکہ تم اس شکر گزاری پر نظر کرو جو
عبدول اور زادہوں کی جانب سے ان لوگوں کی کیجا تی ہے، (کیونکہ پر نسبت علماء کے
عباد و زہاد اس سے دور تر تھے۔ پھر جب وہ بھی اس بلا میں پھنس گئے تو علماء کی کیا
شکایت ہے)۔

صالحؓ مری نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا دروازہ برابر کھنکھنا تا
رہے گا تو کبھی نہ کبھی ضرور کھل جاوے گا۔ یعنی کہ ایک عورت نے کہا کہ کیوں حضرت کیا
اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی کسی پر بند بھی ہوا ہے؟ تو ان کو اپنی غلطی پر تنبہ ہوا، اور فرمایا کہ
عورت تو سمجھ گئی مگر بدھا مرد نہ سمجھا۔

(یہ تھا ان حضرات کا اتباعِ حق، اور یہ حالت تھی ان کی لوگوں کو اپنی لغزشوں

کی اتباع سے بچانے کی)۔

عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ نبی یا بزرگ کو وہی برا کہتے ہیں جو ان کے اہل شہر یا پڑوی ہیں، کیونکہ وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں اور وہ سننا نہیں چاہتے۔ لہذا وہ انہیں برا کہتے اور برا کہتے ہیں (اور اس زمانہ میں تو حالت اور بھی خراب ہو گئی ہے اس لئے کہ اہل اللہ کے اہل شہر اور پڑوی بالخصوص ان کے ہم قوم مغضحد کے طور پر ان سے جلتے ہیں۔ خدا بچاوے اس پر فتن زمانہ سے۔ مترجم)

یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے کہ جب تو کسی عالم کو کسی ایسی جگہ دیکھے جو ان کے شایان شان نہیں ہے تو اس پر ملامت کرنے میں جلدی نہ کر، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ باوجود حاضر ہونے کے تجھ سے زیادہ اس مقام سے نچنے والا ہو، اور باوجود تیری ملامت کے تجھ سے کم قابل ملامت ہو، (کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو کوئی عذر ہو، جس کی تجھے اطلاع نہ ہو، اور بلا عذر کے وہ اس بارہ میں تجھ سے زیادہ محتاط ہو)۔ میں کہتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ مضمون بھی آئے گا کہ بعض دیندار ایسے بھی ہیں جو معصیت کے مقام سے نہیں ہٹتے، کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والوں کے لئے سفارش کرتے ہیں اور ان کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور اس بناء پر وہ نزول بلا سے ان کے محافظ ہوتے ہیں، ایسی حالت میں ان لوگوں پر جلدی سے اعتراض نہ کر دینا چاہئے، ان کی حالت کی تحقیق کر کے اعتراض کرنا چاہئے۔ والله اعلم.

یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے کہ جب نفس کو مال مل جاوے تو ایسا سمجھو جیسا بھیڑیے کو جنگل میں بکری مل جاوے، (کیونکہ جس طرح بھیڑ یا بکری کا بھوکا ہوتا ہے، یوں ہی نفس مال کا بھوکا ہے)۔ ابوالدرداء فرماتے تھے کہ خدا کی عبادت کو اپنے اوپر مصیبت نہ بناؤ۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ عنہ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ذمہ کوئی نیک کام نہیں کام نہیں کا مٹھرا لے، پھر اسے پورانہ کرے جس سے اس پر اس کا و بال ہو، اور چونکہ اس و بال کا ذریعہ خدا کی عبادت ہوئی ہے اس لئے ہم نے کہا کہ خدا کی عبادت کو اپنے اوپر مصیبت نہ بناؤ۔

عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ خدا کے ہر کلام کے معنی اس طرف راجع ہوتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور کسی کو اس بارہ میں شک نہ کرنا چاہئے۔

حاتم^(۱) اصم فرماتے تھے کہ جو شخص درہم سے اس کی ذات کے لئے محبت کرتا ہے، وہ بھی اس سے آخرت کے لئے محبت کرتا ہے (مطلوب یہ ہے کہ جس کو خود روپیہ سے محبت ہے، یہ محبت بھی مذموم نہیں۔ کیونکہ روپیہ فی حد ذات خدا کی نعمت ہے، اور خدا کی ہر نعمت قابل محبت ہے، اور اس کی محبت شرعاً مطلوب ہے۔ ہاں اگر کسی کو روپیہ سے اس لئے محبت ہے کہ وہ اس کو معا�ی کا ذریعہ بناؤے گا تو یہ بیشک مذموم ہے)۔

پس اے بھائی اس مضمون کو سمجھ لے اور خدا سے دعا کر کہ اللہ ہمیں دوسروں کے لئے سبب عبرت نہ بنا، اور ہم کو ہمارے عیوب دکھلادے۔ والحمد لله رب العالمین۔

تواضع و انکساری

۱۹- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کو سب سے زیادہ فاسق سمجھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے، اور اسی لئے ان میں سے بعض حضرات استققاء و دفع بلاء کے لئے لوگوں کے ساتھ نہ جاتے تھے۔

سعید بن جبیر فرماتے تھے کہ شاہان بنی اسرائیل میں سے کسی بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا۔ لوگوں نے بارش مانگی مگر مینہ نہیں بر سایا گیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اگر خداۓ تعالیٰ نے ہم پر بارش بھیج دی تو خیرورنہ میں اسے ستاؤں گا۔ کسی نے اس سے کہا کہ تو اسے کیسے ایذا دے سکتا ہے؟ کیونکہ حق تعالیٰ کا آسمان میں ہونا بھی محال ہے، کیونکہ وہ زمانہ اور مکان سے منزہ ہے (تو تیرا اسے ایذا دینا کیوں کر ممکن ہے؟) تو اس نے کہا کہ (یہ صحیح ہے، مگر میں اسے اس طرح ایذا دوں گا) کہ اس کے دوستوں اور

(۱) اصل عبارت یہ ہے کان حاتم الاصم يقول من احب الدرهم لذاه فقد احبه للآخرة

فرمانبرداروں کو قتل کر دوں گا۔ پس یہی اس کی ایذا ہے۔ سو (گویہ بات نہایت بیباکی و جرات پر دلالت کرتی ہے اور اس لئے وہ بادشاہ سخت سزا کا مستحق تھا مگر) اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور علم سے انہیں بارش عطا فرمادی۔

مالک دینار سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ استقاء کے لئے کیوں نہیں تشریف لے چلتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری وجہ سے تم پر پتھر نہ برسنے لگیں۔ اور فرماتے تھے کہ تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ بارش میں بہت دیر ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سنگ باری میں دیر ہو گئی (اور یہ خدا کا فضل ہے۔ ورنہ ہم لوگ عرصہ سے اس کے مستحق ہو چکے ہیں)۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام استقاء کے لئے تشریف لے گئے اور جا کر بہت روئے پیٹے، مگر بارش نہ ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ صاحبو! جس کسی نے گناہ کیا ہو، وہ چلا جاوے۔ یہ سن کر سب لوٹ گئے اور صرف ایک آدمی رہ گیا۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ کیوں میاں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا جی ہاں (خدا کا شکر ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا)۔ صرف ایک مرتبہ اتنا ہوا تھا کہ میں نے ایک عورت کی طرف دیکھ لیا تھا۔ سو جب وہ چلی گئی تو میں نے اس کا تدارک یہ کیا کہ اپنی آنکھ میں انگلی ڈال کر اسے نکال لیا۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا لوگوں کے لئے خدا سے دعا کرو۔ اس نے دعا کی تو فوراً سارے آسمان پر ابر چھا گیا اور لوگوں کو بارش دی گئی۔

مویٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ تین روز استقاء کے لئے باہر تشریف لے گئے مگر بارش نہ ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم لوگوں میں ایک شخص چغلخور ہے۔ جب تک وہ تم میں رہے گا میں تمہاری دعا نہ قبول کروں گا۔ اس پر مویٰ علیہ السلام نے عرض کیا: کہ اے اللہ ہمیں بتلاد تھے وہ کون ہے؟ تاکہ ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیں۔ اس پر حضرت حق نے فرمایا کہ اے مویٰ میں تمہیں تو چغلخوری سے منع کرتا ہوں اور خود چغلخور بن جاؤں۔ تب مویٰ علیہ السلام نے فرمایا: کہ

صاحب! سب لوگ چغل خوری سے توبہ کرلو۔ یہ سن کر سب نے توبہ کر لی اور اسی وقت بارش ہو گئی۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل پر سات برس تک نقطہ پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ مردار جانور اور اپنے بچوں کو کھانے لگے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو لوگوں نے یہ کیا کہ پہاڑوں میں جانے اور گریہ زاری کرنے لگے، لیکن اس پرانی کی دعا قبول نہ ہوتی تھی (جب لوگ حد سے زیادہ پریشان ہوئے) اس وقت حق تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ان سے فرمادیجھے کہ اگر تم میری اتنی عبادت کرو کہ سوکھ کر پرانے کوڑے کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میں دعا قبول نہ کروں گا، تا وقتنکہ تم ناجائز طور پر حاصل کئے ہوئے مالوں اور دیگر حقوق کو ان کے مستحقین کو واپس نہ کر دو۔ اور ایک اور مرتبہ بنی اسرائیل پر نقطہ پڑا۔ اس وقت بھی لوگوں نے خدا سے بارش مانگی اور ان کو بارش نہ دی گئی تھی۔ اس وقت حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی آئی تھی کہ میں ان کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہوں، یہ لوگ بخش بدن لے کر آئے ہیں اور جو ہاتھ ہماری طرف اٹھاتے ہیں، وہ وہ ہیں جن سے انہوں نے حرام کھایا ہے حتیٰ کہ انہوں نے حرام سے اپنا خوب پیٹ بھر لیا، اب تو ان کو ہم سے دوری ہی ہو گی، اور یہ لوگ نقطہ میں بتلا ہوں گے۔ اگر یہ لوگ یوں چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میں ان سے نقطہ اٹھالوں گا۔ ایک مرتبہ ان پر اور نقطہ پڑا تھا، اور اس قدر سخت پڑا تھا کہ لوگ کتے اور مردار جانور کھانے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے بارش کی دعا کی تھی مگر ان کو بارش نہ دی گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی تھی کہ آپ ان سے فرمادیجھے کہ اگر تم پیدل اس قدر چلو کہ تھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ اور تمہارے عمل آسمان تک پہنچ جائیں، اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے تھک جاویں، تب بھی میں کسی دعا کرنے والے کی دعائے قبول کروں گا اور نہ تم میں سے کسی رونے والے پر رحم کروں گا، تا وقتنکہ تم حقوق مغضوبہ ان کے مالکوں کو واپس نہ کر دو۔ سو حضرت مویٰ علیہ السلام نے یہ حکم ان کو پہنچا دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ایسے حقوق تو بیحد ہیں، ہم کیسے

واپس کر دیں؟ سو جب انہوں نے تعیل حکم سے انکار کیا تو قہر الہی بحال رہا اور وہ بھوکے پیاس سے مر گئے۔ اے بھائی تو سلف کے بکثرت اپنے نفسوں کو مبتہم کرنے کو دیکھا اور تو بھی ان کی تقلید کر اور ہرگز استقاء کے لئے جانے میں جلدی نہ کر۔ ہاں اگر تو سمجھتا ہو کہ خدا نے میرے تمام گناہ معاف کر دئے ہیں تو مصالحتہ نہیں، (مگر یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لئے اب یہ ہی کہا جاوے گا کہ) اگر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تو توقف کراور اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کراور پھر نکل۔ والحمد لله رب العالمین۔

عفو اور درگذر کرنا

۲۰۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص ان کو مار کریا ان کا مال لے کر یا ان کی آبرو پر حملہ کر کے یا ایسے ہی کسی اور طریق سے ان کو تکلیف دے تو وہ اخلاق محمدی سے آراستہ ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے اور اس سے درگذر کرتے ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ بھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہ لیتے تھے بلکہ اس وقت انتقام لیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قابل احترام اشیاء کی (احکام ہوں یا شعائر) تحقیر کی جاوے۔

جعفر بن محمد فرماتے تھے کہ میں معاف کر کے پیشمان ہوں یہ مجھے زیادہ پسند سے بہت اس کے کہ میں سزادے کر پیشمان ہوں۔

حاتم اصم فرماتے تھے کہ یہ تمہاری نا انصافی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا کی نافرمانی کریں تو تم ان سے عداوت رکھو۔ اور جب تمہارا نفس خدا کی نافرمانی کرے تو اس سے عداوت نہ رکھو۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے نفس سے عداوت رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس کے ذریعہ سے اور بستر پر نہ سو کر۔ نیز اسی قسم کی باتوں سے سزادی جاوے، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاوے، جیسا آدمی اس کے ساتھ کرتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اس پر غصہ کرتا ہے اور مہربانی نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جاوے جیسا عاشق اپنے معشوق سے کرتا ہے کہ اس کی ہر خواہش

پوری کرنے کی کوشش کی جاوے۔

شیخ بایزید بسطامیؒ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے نفس سے عبادت کے لئے کہا، تو اس نے نہ مانا، تو میں نے اس کو سزا دی اور ایک سال تک پانی بند کر دیا۔ مذاقیؒ فرماتے تھے کہ یہ نہایت برا بد لہ ہے کہ برائی کے بد لے میں برائی کی جاوے۔

تیمیؒ فرماتے تھے کہ کثرت تحمل محبت پیدا کرتی ہے، (یعنی جب بہت مرتبہ کسی کی زیادتیاں برداشت کر لی جاویں گی تو آخر کار اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاوے گی، اور وہ دشمن سے دوست بن جاوے گا)۔

لوگ ایک ایسے شخص کو عبد اللہ بن الزبیرؓ کے حضور میں لے گئے جس نے کوئی جرم کیا تھا۔ عبد اللہ بن زبیر (بعد ثبوت جرم) اس کے مارنے کے لئے کوڑے منگائے، تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس کے سامنے آپ قیامت میں اس سے زیادہ ذلیل ہوں گے جس قدر میں آپ کے سامنے ذلیل ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرماویں۔ یہ سن کر عبد اللہ بن الزبیرؓ تخت سے اترے اور زمین پر رخسار گز کر فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید ان کا اس قسم دینے والے کو سزا نہ دینا کسی عذر شرعی کی بناء پر تھا، مثلاً یہ کہ سزا دینے میں بہ نسبت سزا نہ دینے کے زیادہ اندیشہ فساد ہے۔ والله اعلم (میں کہتا ہوں کہ اس توجیہ کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ روایت میں کسی جرم خاص کی تصریح نہیں ہے، تاکہ اس توجیہ کی ضرورت ہو۔ اس لئے اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ جرم ایسا ہو گا جس میں سزا نہ دینے کا امام کا اختیار ہے جبکہ مجرم کی طرف سے اطمینان ہو کہ آئندہ ایسا نہ کرے گا۔ مترجم)

قادوٰؒ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ عالی مرتبہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا عفو سب سے زیادہ ہو۔

ایک عورت نے مالکؓ بن دینار کا قرآن اور چادر وغیرہ چڑائے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو پیچھے دوڑے۔ پس وہ دوڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ بی تو ڈر

مت، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا۔ تو چادر لے جا، اور قرآن شریف مجھے دیدے۔
ابوسعید^(۱) مقبری فرماتے تھے کہ پورا عفو یہ ہے کہ ظالم سے انتقام نہ لے اور
اس پر رحم کرے، اور خدا سے اس کے لئے عفو کی درخواست کرتا رہے۔
جب امام مالک[ؓ] کو مارا گیا ہے۔ تو آپ نے پہلے کوڑے پر مارنے والے کو
معافی دیدی تھی۔

یہی خبر ہم کو امام احمد[ؓ] کے متعلق ملی ہے کہ جب ان کو مارا گیا تھا تو انہوں نے
بھی مارنے والے کو معاف فرمایا تھا۔ اور فرماتے تھے کہ آدمی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ
تعالیٰ اس کے سبب سے کسی کو عذاب نہ دے۔

کعب بن احبار[ؓ] فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر کرے گا تو اللہ
تعالیٰ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا سا ثواب دے گا، اور جو عورت اپنے
خاوند کی زیادتی پر صبر کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب دے گا جو آسیہ بنت مزاحم یعنی
فرعون کی بیوی کو دے گا۔

عنقریب آخر کتاب میں اس مضمون کی انشاء اللہ مزید تفصیل آئے گی (منتظر
رہو) والحمد لله رب العالمین۔

اکرام و احترام اہل اسلام

۲۱۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حرمت مسلمین کی
بہت عظمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان شعائر اللہ میں سے ہے جن کی بے تو قیری حرام
ہے۔ نیزوہ مسلمانوں کی بہتری کو پسند کرتے ہیں۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے،
کیونکہ معمولی درجہ کا مسلمان بھی خدا کے نزدیک مرتبہ میں بڑا ہے۔

(۱) سعید مقبری تو معروف ہیں۔ مگر ابوسعید مغربی نہیں معلوم کون بزرگ ہیں۔ غالباً یہ زلت قلم ہے۔
(والله اعلم امترجم۔)

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ ہمنشین کی عزت کرنا اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ نیزوہ کعبہ کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے کہ اے کعبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے محترم اور مشرف اور مکرم بنایا ہے، مگر مومن خدا کے نزدیک حرمت میں تجھ سے بڑھ کر ہے۔

عکرمؓ یہ فرماتے تھے کہ خبردار کسی عالم کو نہ ستانا، کیونکہ جو کسی عالم کو ستائے گا وہ جناب رسول اللہ ﷺ کو اذیت پہنچائے گا، (کیونکہ علماء آنحضرت کے وارث ان کے جانشین ہیں اور ان کی تکلیف سے آنحضرت ﷺ کو تکلیف ہونا لازمی ہے۔ مگر یہ اس وقت ہے جبکہ ایذا عالم ناحق ہو۔ اور اگر جائز طور پر ہوتا وہ اس وعدید میں داخل نہیں)

ابو ہریرہؓ فرماتے تھے کہ مومن کی وقعت خدا کے نزدیک بعض ان فرشتوں سے زیادہ ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں۔

حاتم اصمؓ سے دریافت کیا گیا کہ ہاتھ کی دیت پانچ سو دینار ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ پانچ درم میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹنے میں صرف دراہم کا ہی لحاظ نہیں ہوتا بلکہ ان کے ساتھ پرده دری، ظلم اور ترک احترام مال عبد بھی ملحوظ ہوتے ہیں، اور یہ امور ضرور مہتمم بالشان ہیں، لہذا اب شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب اے بھائی تو اپنے نفس کی حالت میں غور کر، اور دیکھ کر کیا تو نے علماء صلحاء کو تو جانے دو، عامہ مسلمین کی حرمت کی بھی اس طرح تعظیم کی ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ یا تو نے ان کو تحریر سمجھا، اور ان کی آبرو پر حملہ کیا۔ اور اس طرح توفیق میں داخل ہو گیا (اس کا جواب تو یہ ہی دے گا کہ میں نے ان کی حرمت کی تعظیم نہیں کی) پس تو خدا سے استغفار کر، اور آئندہ کے لئے ایسا کرنے سے تو بہ کر۔

گھروالوں سے حسن سلوک

۲۲- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بیویوں کی تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بیویوں سے ان کی جس قدر مخالفتیں سرزد ہوتی ہیں، وہ صورت ہیں، ان کے خدا کے ساتھ معاملہ کی (یعنی چونکہ وہ خدا کی

مخالفت کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو ان کا مخالف بنادیتا ہے تاکہ ان کو تنبہ ہو اور وہ سمجھیں کہ مخالفت کس قدر ناگوار چیز ہے، اور سمجھ کرو وہ خدا کی مخالفت سے احتراز کریں) مگر یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کلیے نہیں، کیونکہ بعض اوقات انبیاء کی بیویاں بھی مخالفت کرتی ہیں مگر انبیاء مخالفت حق تعالیٰ سے معصوم ہوتے ہیں۔ سو وہاں کچھ اور مصلحت ہوگی۔ خیر یہ حالت تو خواص سلف کی تھی اور عوام سلف چونکہ اتنی دلیل نظر نہ رکھتے تھے، اس لئے وہ اس بات کو تونہ سمجھتے تھے مگر وہ یہ سمجھ کر ان کی اذیتوں کا تحمل کرتے تھے کہ ان کا نفع ان کے ضرر سے زیادہ ہے۔ غرض کہ عوام و خواص سب عورت کا پورا حق ادا کرتے تھے، اور اس کی مخالفت اس سے ان کو مانع نہ ہوتی تھی، کیونکہ ان کو اس حدیث پر عمل مقصود ہوتا تھا کہ جس نے تمہیں امین بنایا ہے۔ تم اس کی امانت ادا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو۔ (پس اس حدیث کی بناء پر وہ عورت کے جملہ حقوق ادا کرتے تھے اور اپنی حق تلقی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔) گو جس طرح عورتوں کے مردوں کے ذمہ حقوق ہیں، یوں ہی مردوں کے بھی عورتوں پر حقوق ہیں، جیسا کہ کتب حدیث و فقه میں مصرح ہے (اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ جب عورتیں مردوں کے حق میں کوتا ہی کریں، تو مردوں کی طرف سے ان کے حق میں کمی کی جائے) اور اس سے پہلے خلق میں کعبؐ احرار کا قول گذر چکا ہے کہ جو شخص عورت کی تکلیف پر صبر کرے گا، اس کو صبراً یوب علیہ السلام کا اجر ملے گا۔ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ خوبی کے ساتھ اپنے خاوند کی ہور ہے۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ چار باتیں بدجنتی کی ہیں۔ ایک بال بچوں کا زیادہ ہونا۔ دوسرے مال کا کم ہونا۔ تیسرا ہمیشہ رہنے کے مقام میں پڑوئی کا برا ہونا۔ چوتھے بری عورت جو اپنے خاوند سے خیانت کرے۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جس نے شادی کی اس نے دنیا اپنے گھر میں گھسالی، اور جس نے دنیا گھر میں گھسالی، اس نے گویا شیطان کی بیٹی سے شادی کر لی، اور جس نے شیطان کی بیٹی سے شادی کر لی، اس کے گھر میں شیطان کی بیٹی کی وجہ سے

شیطان کی بکثرت آمد و رفت ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی کرنا، شیطان کو گھر میں دخیل بنانا ہے۔ لہذا شادی سے بچنا چاہئے۔

میں کہتا ہوں کہ سفیان[ؓ] کا کلام اس شادی کے بارہ میں ہے جو نیک نیتی کی بناء پر نہ ہو بلکہ دنیاوی حیثیت سے ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رضاۓ الہی کے لئے شادی کرے گا، خدا اس کے لئے کافی اور اس کا محافظ ہوگا۔ پس سفیان کے کلام کو محمل مذکورہ پر حمل کرنا ضروری ہوا تا کہ انبیاء اور محفوظین واولیاء اس سے خارج ہو جاویں۔ واللہ اعلم (میں کہتا ہوں کہ سفیان[ؓ] ثوری نے یہ بات اپنے زمانہ کی عورتوں کی حب دنیا، اور مردوں کی ضعف دین پر نظر کر کے..... فرمائی ہے پس اس کو عام نہ سمجھنا چاہئے، بلکہ اس کی علت تک محدود رکھنا چاہئے۔ واللہ اعلم)۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عورت پر شرم کا پرده نہ ڈال دیتا، تو وہ مٹھی بھر مٹی کے برابر بھی نہ ہوتی (کیونکہ نہایت بد کار ہوتی)۔

علی بن ابی طالب[ؓ] فرماتے تھے کہ پانچ باتیں آدمی کی کمال خوش نصیبی ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی اس کے مزاج کے موافق ہو۔ دوسرے اولاد اس کی نیک ہو۔ تیسراے دوست احباب اس کے نیک ہوں۔ چوتھے پڑوسی اس کے اچھے ہوں۔ پانچویں روزی اس کی اس کے وطن میں ہو۔ اور اس کے لئے اس کو باہر نہ جانا پڑے۔

جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: کہ اے اللہ میں آپ سے تین قسم کے آدمیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اس آدمی سے جو دین سے غافل ہو، دوسرے برے پڑوسی سے، تیسراے اس بیوی سے جو خاوند کوستاے۔

جب مالک[ؓ] بن دینار کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس کے بعد شادی نہیں کی، اور فرماتے تھے کہ بھائی اب تو تعلقات سے بہت جی گھبرا تا ہے۔ اگر مجھ سے یہ ہو سکتا کہ اپنے آپ کو طلاق دے دیتا تو میں اپنے آپ کو بھی طلاق دیتا، کیونکہ مجھے اپنا آپ بھی برا معلوم ہوتا ہے۔

احمد بن حرب[ؓ] فرماتے تھے کہ بعض کسی عورت کے اندر یہ چھ باتیں جمع

ہو جاویں تو وہ پوری صالح ہے۔ اول یہ کہ پنج وقتی نماز کی پابند ہو۔ دوم یہ کہ اپنے خاوند کی فرمانبردار ہو۔ تیسرا یہ کہ اپنے خاوند کو خوش رکھے۔ چوتھے یہ کہ اپنی زبان کو غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے۔ پانچویں یہ کہ سامان دنیا (زیور لباس وغیرہ) سے اسے رغبت نہ ہو۔ چھٹی یہ کہ مصیبت پر صبر کرے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ عورتوں کا وہ فتنہ جس سے جناب رسول اللہ ﷺ ڈراتے تھے، یہ ہے کہ وہ مردوں سے قطع رحم کرتی ہیں، اور ان کو ایسے ذلیل کاموں کے لئے مجبور کرتی ہیں جو ان کی ذاتی خواہش نفسانی و رغبت کے فتنے سے زائد ہیں۔ (خلاصہ یہ ہوا کہ عورتوں کا فتنہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مرد کو ماں باپ بہن بھائی وغیرہ سے چھوڑتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ان کو ان کاموں کے لئے مجبور کرتی ہیں جن کو آدمی اپنی خواہش نفسانی کی وجہ سے نہیں کر سکتا، (کیونکہ وہ لا یعنی فرمانشات کرتی ہیں اور ان کی فرمانشوں کے پورا کرنے کے لئے آدمی کو ہر ممکن تدبیر کرنی پڑتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی ذلیل کیوں نہ ہو، حالانکہ وہ اپنی ذاتی خواہش کے لئے ایسا نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم)

حاتم اصم فرماتے تھے کہ نیک عورت دین کا ستون ہے جس سے دین محفوظ رہتا ہے، اور گھر کی آبادی ہے، اور عبادات کی معین ہے۔ اور ناموافق عورت خود بُنی خوشی رہتی ہے اور خاوند کے دل کو غم سے گھلادیتی ہے۔

عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ عورت کے دوزخی ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب شوہر آوے تو اسے دیکھ کر خوشی ظاہر کرے۔ اور جب وہ چلا جاوے اس کے پیچھے اس کے مال میں اور اس کی آبرو میں خیانت کرے۔

شیق بلخی اپنی بیوی سے فرماتے تھے کہ اگر اہل بلخ تمام میرے ساتھ ہوں، اور ایک تو میرے خلاف ہو تو میں اپنے ہی کو نہیں بچا سکتا۔

مدائی فرماتے تھے کہ کسی نبی نے حق تعالیٰ سے اپنی بیوی کی بد مزاجی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو تمہارا عذاب کا حصہ بنادیا ہے (یعنی اپنی بعض لغزشوں پر تم جس سزا کے مستحق تھے، ہم نے اس کا بدلہ اس سے کر دیا ہے۔)

عبدالملک بن عمر فرماتے تھے کہ جب عورت کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کا رحم بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان بگڑ جاتی ہے اور عادت خراب ہو جاتی ہے، اور جب مرد کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی عقل مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کی تیزی جاتی رہتی ہے، اور عادت اچھی ہو جاتی ہے۔

حاتم اصم فرماتے تھے کہ نیک عورت کی شناخت یہ ہے کہ اس کا وصف خدا کا خوف ہو، اور اس کی دولت جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر قناعت ہو، اور اس کا زیوراپنے مال میں سخاوت ہو، اور اس کی عبادت خاوند کی عمدہ خدمت ہو، اور اس کا مقصد موت کے لئے تیاری ہو۔ اور فرماتے تھے کہ تو اپنی بیٹی اور بہن کے مقابلہ میں اپنے داماد اور بہنوئی کی طرف داری کراس سے تو اپنی بیٹی اور بہن کے دین کو سنوارے گا، اور اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ ہو کر اپنے داماد اور بہنوئی کی مخالفت مت کر، کیونکہ ایسے کرنے سے تو ان کا دین بگاڑے گا۔

ابومطیع بلخی نے ایوب بن خلف سے اپنی بیوی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اس کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا تو پھر تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ تجھے اس پر فوقيت ہے، (کیونکہ نہ اس میں تحمل ہے نہ تجھے میں۔) اور نہ اس میں عقل ہے، نہ تجھے میں، تو اب تم دونوں برابر ہو گئے۔

حاتم اصم اپنے گھر میں یوں رہتے تھے جیسے بندھا ہوا جانور، اگر کسی نے کچھ آگے رکھ دیا کھالیا، ورنہ خاموش بھوکے رہے۔

حدیث میں ہے کہ ایک بد عورت ہزار بد مردوں کے برابر ہے۔

ایاس بن معاویہ فرماتے تھے کہ میرے پاس دو شخصوں کا علاج نہیں۔ ایک وہ جو پیشاب روکنے کے سبب امراض خبیثہ میں بیتلاء ہو جاوے، دوسراے برمی عورت۔ انتہی۔

اس خلق پر اس کتاب کے مختلف مقامات میں مزید کلام آئے گا، پس تم کو متنبہ رہنا چاہئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ملک سالھین اسی طریق پر چلتے تھے کہ وہ عورتوں کی تکلیف

پر صبر کرتے، اور ان کو بدلہ یا سزا نہ دیتے، بھر اس صورت کے کہ اس میں خود عورت کی مصلحت ہو۔ والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله.

ترک ریاست و حب جاہ

۲۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک سرداری خود بخود ان کو نہیں ملتی وہ از خود اس کے لئے کوشش نہیں کرتے۔ لوگ بطور خود ان کو اپنا سردار بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس منصب امانت وغیرہ کے اہل نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضرور اس کے اہل ہیں بلکہ اس منصب سے آپ کی شان اعلیٰ ہے۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جو شخص سرداری کو اس کے از خود آنے سے پہلے طلب کرے گا، وہ اس سے بھاگے گی، اور اس سے بہت سا علم چھوٹ جاوے گا (کیونکہ جب وہ طلب ریاست کے لئے جدوجہد میں مصروف رہے گا تو تحصیل علم کا موقع اسے کم ملے گا، اور اس لئے وہ علم سے محروم وجاوے گا۔ اور اگر اس نے تحصیل جاہ کا ذریعہ یہ ہی خیال کیا کہ علم حاصل کیا جاوے۔ اور اس وجہ سے وہ علم میں مصروف رہا، تب بھی وہ بہت بڑے علم سے محروم رہے گا، کیونکہ جس قدر حقائق اس شخص پر منکشف ہوتے ہیں جو خدا کے لئے علم حاصل کرے، اس پر نہیں کھلتے، جو دنیا کے لئے علم پڑھے۔ پس بہر صورت اس کا بہت سے علوم سے محروم ہونا ثابت ہو گیا۔ واللہ اعلم) نیز وہ فرماتے تھے کہ ستر برس تک مجاہدہ کرنے سے پہلے آدمی کو سرداری کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، (اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستر برس مجاہدہ کے بعد کوشش کرنی چاہئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ستر برس مجاہدہ نہ کر لیا جاوے آدمی کے اندر سرداری کی قابلیت پیدا نہیں ہوتی)۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے: کہ جب لوگ تمہیں سردار بنائیں تو تم تابع بنو اور سرداری قبول نہ کرو..... مطلب ہے کہ جب تم کو سردار بنایا جائے تب بھی تم اپنے کو سردار نہ سمجھو، بلکہ خدام میں سے سمجھو)۔

حجاج بن ارطاة فرماتے تھے کہ مجھے طلب ریاست اور اس کی محبت نے ہلاک کر دیا (یہ بطور تواضع و انکسار کے فرماتے تھے)۔

انطا کی فرماتے تھے کہ ریاست جز ہے حب ریا کی، اور معشوق ہے نفس کا، اور آنکھ کی ٹھنڈک ہے شیطان کی، (مطلوب یہ ہے کہ سرداری میں تین عیب ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے ریا کی محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے نفس پھولتا ہے، تیسرا یہ کہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے اس کو اس کے مقصد اضلال میں کافی مدد ملے گی)۔

ابراهیم بن ادہم فرماتے تھے کہ تم دم بنو، سرنہ بنو۔ کیونکہ سر ہلاک ہو جاتا ہے اور دم نجح جاتی ہے، (یعنی سر محل آفات ہے، اور دم آفات سے دور ہے۔ پس تم سرنہ بنو بلکہ دم بنو، یعنی متبع نہ بنو بلکہ تابع بنو)۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ جو شخص سرداری کو پسند کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے نقص اور عیوب بیان کرے تاکہ وہ کمال میں سب سے ممتاز معلوم ہو (اور اس طرح اس کا مقصد سرداری حاصل ہو سکے)..... اور اس کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ کسی کو اچھا کہیں، (کیونکہ اس سے اس کے مقصد کو صدمہ پہنچتا ہے)، اور جو شخص ریاست پر عاشق ہو گیا سمجھ لو کہ اپنی اصلاح کو خیر باد کہہ دیا۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ ریاست کا چھوڑنا، اور عورت کی محبت کا ترک کرنا، ایلوے سے زیادہ تlix ہے۔

میمون بن مہران فرماتے تھے کہ جب تم کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لئے کہیں جاؤ تو کسی کو اپنے ساتھ یا اپنی رکاب میں نہ چلنے دینا، کیونکہ یہ امر متبع کے لئے فتنہ ہے اور تابع کے لئے ذلت (تابع کے لئے ذلت ہونا ظاہر ہے، اور متبع کے لئے فتنہ ہونا اس لئے ہے کہ اس سے متبع کے اندر عجب و کبر و حب جاہ پیدا ہوں گے۔ اور یہ تمام امراض مہلک ہیں۔ اعاذنا اللہ منها).

سب سے پہلا شخص جس کی متابعت میں لوگ مسجد سے گھر تک چلے ہیں،

اشعش بن قیس تھا، چنانچہ وہ سوار ہوتا تھا، اور غلام اس کے آگے چلتے تھے۔ سو اس وقت کے لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ خدا اس جبار کو غارت کرے۔ پس اے بھائی تو کسی ایسے کام میں جو بلا واسطہ یا بواسطہ دنیاوی ہو، سردار بننا ہرگز پسند نہ کرنا (بلا واسطہ دنیاوی امور حکومت وغیرہ ہیں، اور بواسطہ دنیاوی امور امانت وغیرہ ہیں، کیونکہ گویہ امور بالذات دینی ہیں مگر جب ان سے جاہ مقصود ہو تو یہ بھی دنیاوی ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم) اور اس کی مزید تفصیل اس کتاب میں مختلف مقامات پر آئے گی (تم کو متینہ رہتا چاہئے)۔ والحمد لله رب العالمین۔

نصیحت و خیرخواہی اہل اسلام

۲۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حضرات آپ میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، بڑا چھوٹے کو اور چھوٹا بڑے کو (مگر جب چھوٹا بڑے کو نصیحت کرتا ہے تو ادب کو ملحوظ رکھ کر کرتا ہے) اور ان میں سے کوئی نصیحت سے مکدر نہیں ہوتا، اور یہ روشن ان کی آج کل کے متكلّرین کے طرز عمل کے خلاف ہے، کیونکہ اگر ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو یہ بہت برا مانتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے اس زمانہ کے ایک شیخ کو نصیحت کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرتبے دم تک مجھ سے ناراض رہا اور مجھ سے نہیں ملا۔

انس بن مالک فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ خدا کو وہ جوان پسند ہے، جو بدھے کو نصیحت کرے اور وہ بدھا پسند ہے جوان کو نصیحت کرے، اور اسی وجہ سے وہ جوان جو گناہوں سے توبہ کرے خدا کا محبوب ہے، (کیونکہ اس نے اپنے نفس کو نصیحت کی)۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں جوانوں کے ساتھ عمده برتاوہ کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں (جس کی وجہ سے اثر کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اور اب اگر تم انہیں اچھی باتیں سکھاؤ گے تو یہ اچھے ہو جاویں

گے اور بری باتیں سکھاؤ گے تو برے ہو جاویں گے۔ پس تم ان کو اچھی باتیں سکھانا)۔ دیکھو خدا نے مجھے گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنانے کر بھیجا تھا، پس جوانوں نے میرے ساتھ نشست و برخاست رکھی، اور بڑھوں نے مجھ سے مخالفت کی آہ اور لوگ اس بارہ میں یہ شعر پڑھتے تھے۔

ان الغصون اذ لا ينتها اعتدلت
ولن يلiven اذا لا ينتها الخشب.

یعنی جب تم شاخوں کو نرم کرو تو وہ سیدھی ہو جاویں گی، اور جب تم سوکھی لکڑی کو نرم کرو تو وہ نرم نہ ہو گی (بس اس شعر میں جوان کوشاخ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بڑھے کو سوکھی لکڑی سے۔ اور بتلایا ہے کہ جوان شاخ کی طرح قابل تائیر ہیں، اور بڑھے سوکھی لکڑی کی طرح اثر قبول کرنے سے آبی)۔

انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جوان لوگ عبادث کم کرتے تھے مگر آپ کے انتقال کے بعد وہ عبادت زیادہ کرنے لگے، اور وجہ اس کی یہ بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم کو اطمینان تھا کہ ہم پر عذاب نہ نازل ہو گا، مگر آپ کے انتقال کے بعد وہ امان جاتی رہی۔

احمد بن حرب فرماتے تھے: کہ آدمی کو چاہئے کہ ان اوقات میں اہو و لعب اور معاصی کو چھوڑ دے۔ ایک تو جب چالیس برس کی عمر ہو جاوے، دوسرا جب بال سفید ہونے لگیں، تیسرا جب خانہ کعبہ کا حج کرے، چوتھے جب نکاح ہو جاوے، کیونکہ نکاح کے بعد زنا بد سے بدتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ باتیں اجتماعاً یا انفراداً پائی جائیں، ان کے لئے گناہ سخت معیوب ہیں۔ اور یہ معنی نہیں کہ چالیس برس سے پیشتر مثلاً گناہ مباح ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہتے ہیں کہ روزہ دار کے لئے ترک غیبت اولی ہے۔ سواں کے یہ معنی نہیں کہ جو روزہ دار نہ ہو اس کے لئے غیبت مباح ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کے لئے اس کا ارتکاب دوسروں سے زیادہ نامناسب ہے۔

یحییٰ بن معاوہ فرماتے تھے کہ دنیا میں اگرچہ آدمی کتنا ہی زیادہ رہے مگر بمقابلہ جنت کے اس کا یہ رہنا بمنزلہ ایک سانس کے ہے، اور جو ایک ایسے سانس کو ضائع کر دے جس کے سبب وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ بھی نوٹے والوں میں ہے (پھر جو لوگ تمام عمر برباد کر دیتے ہیں ان کی نسبت سمجھ لو کہ وہ کس قدر نوٹے میں ہوں گے)۔

کعب اخبار فرماتے تھے کہ جوان عبادت گذار بوز ہے عبادت گذار سے بہتر ہے۔ خذیفة بن الیمان کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ نوجوان تمہارے پاس کیوں جمع ہیں؟ آپ نے فرمایا: کہ یہاں بہتری نوجوانوں میں ہے۔ کیا تو نہیں سنا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتْيَى يَذْكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمٌ﴾۔ نیز فرماتے ہیں: ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ أَمْنَوْا بِرَبِّهِمْ﴾۔ نیز فرماتے ہیں ﴿قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاءَ نَا﴾۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جس قدر انہیاں کو مبعوث فرمایا ہے جو ان میں سے جوانوں کے فضائل ثابت ہوئے، اس لئے میں نے نوجوانوں کو اپنا ہممنشیں بنایا ہے)۔

زبور میں ہے کہ جو شخص ستر برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے بلا بیماری کے بیمار ہوتا ہے (کیونکہ تمام قوی میں طبعی طور پر ضعف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے افعال طبیعیہ میں خلل آ جاتا ہے)۔

محمد بن حسان فرماتے تھے کہ میاں جو عمل تم پچھلے سال کرتے تھے۔ اس کے اس سال اپنے نفس سے خواہاں نہ ہو، کیونکہ آدمی دن بدن گھٹتا ہے (اس لئے جس عمل پر وہ پچھلے سال قادر تھا، اس سال اس پر اتنا قادر نہ ہو گا)۔

ایک بڑھے سے پوچھا گیا کہ بڑے میاں کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حالت یہ ہے کہ جو جوان عمل میں میرے ساتھ تھے، وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو پیچھے تھے وہ برابر ہو گئے، اور جو اچھی بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور جب کھڑا ہوتا ہوں تو زمین مجھ سے قریب ہو جاتی ہے، (کیونکہ میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا) اور

جب بیٹھتا ہوں تو دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک کودو دیکھنے لگا ہوں، اور جس کا میں سفید ہونا پسند کرتا تھا وہ سیاہ ہو گیا ہے، (یعنی رنگ، کیونکہ بڑھا پے میں خون کی قلت سے رنگت میں سیاہی آ جاتی ہے، اور جس کا سیاہ ہونا پسند کرتا تھا وہ سفید ہو گیا ہے یعنی بال، اور جس کا نرم ہونا پسند کرتا تھا وہ سخت ہو گیا ہے یعنی دل، اور جس کا سخت ہونا پسند کرتا تھا وہ نرم ہو گیا یعنی اعضاء اہم۔

پس اے بھائی! جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں غور کرو اور اپنی جوانی و غنیمت سمجھو، اور اپنے بڑھا پے کا کثرت استغفار سے جر نقصان کر جو رخنه تیرے دین میں پڑھ کا ہے، وہ اس سے بند ہو جاوے۔ والحمد لله رب العلمين

ہر شخص کا ادب و احترام

۲۵۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بڑے چھوٹے وغیرہ متعلق عالم و جاہل ہر کسی کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں۔

دیکھئے حق تعالیٰ نے موسیٰ وہارون علیہما السلام کو فرعون کے ساتھ رعایت ادب کی تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا ﴿فَقُولُّهُ قُولًا لِيْنًا﴾ یعنی اس سے نرمی سے گفتگو کرنا، حالانکہ فرعون نہایت بد کار کافر تھا۔ (پس جبکہ رعایت ادب فرعون کے ساتھ بھی ضروری ہوئی، تو دوسرے تو بدرجہ اولیٰ اس کے مستحق ہوں گے)۔

نیر یہ امر سب کا متفق علیہ ہے کہ علو درجات زیادتی ادب سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر جس قدر ادب زیادہ ہو گا اسی قدر اس کا مرتبہ عالی ہو گا۔ اور (راز اس میں یہ ہے کہ) ادب کا منشایہ ہے کہ آدمی قلیل الادب لوگوں کی حالت کے بر عکس اپنے اندر نقص کا اور دوسروں کے اندر کمال کا مشاہدہ کرے، (اور ظاہر ہے کہ جس کے اندر جس قدر یہ صفت زیادہ ہو گی اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہو گا اور جس کے اندر جس قدر یہ بات کم ہو گی اسی مرتبہ کم ہو گا۔ پس دعویٰ مذکور ثابت ہو گیا)۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایک شخص

دوسرے کو گھورے (کیونکہ اس میں تعلیٰ کی شان ہے، اور یہ خلاف ادب ہے)۔

میمون بن مهران کا قاعدہ تھا کہ وہ دعوت شادی میں شریک ہوتے تو بچوں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، اور دولتمندوں کو چھوڑ دیتے (ان کے پاس نہ بیٹھتے)۔

سعید بن عامر[ؓ] فرماتے تھے کہ جو شخص کسی کو ایسی صفت قبیحہ کے ساتھ موصوف کرے جو اس میں نہیں ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ کسی شخص نے ان کو پہچانا تو تھا نہیں، اور بلا پہچانے ہوئے کسی دوسرے شخص کے دھوکے میں یا اصلاح^(۱) کہہ کر پکارا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی! تجھے تو فرشتوں کی لعنت کی ضرورت نہ تھی، (پھر تو نے مجھے ایسی صفت کے ساتھ کیوں موصوف کیا جو مجھے میں نہیں ہے، کیوں فرشتوں کی لعنت مولی؟

علی بن ابی طالب[ؓ] فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ خدا شناس وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی سب سے زیادہ عظمت کرے، کیونکہ ان کی عظمت کرنا تعظیم خداوندی پر دلالت کرتا ہے، اور تعظیم خدا شناسی ہے، خدا شناسی سے اس لئے سب سے زیادہ خدا شناس وہ شخص ہوا)۔

ابو بکر بن عبد اللہ مزنی فرماتے تھے کہ جب تو اپنے سے بڑے کو دیکھتے تو اس کی تعظیم کر اور یہ سمجھ کہ اس نے تجھ سے پہلے اسلام عمل صالح اختیار کیا ہے اور جب تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے تو اس کی بھی تعظیم کر اور یہ خیال کر کہ میں اس سے پہلے گناہوں میں بٹلا ہوا ہوں، اور لوگ جب تیری تعظیم کریں تو تو یہ سمجھ کر یہ خدا کا تجھ پر انعام ہے، اور جب وہ تیری تو ہین کریں تو سمجھ لو کہ یہ میرے گناہ کا بدلہ ہے جو میں نے کیا ہے، اور جب تو اپنے پڑوی کے کتے کے ڈھیلہ مار دے تو سمجھ کہ تو نے اپنے پڑوی کو ایذا دی۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے سوالات کئے اور انہیں دق کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لئے ایک دن میں ایک ہزار آدمیوں کو نبی بنادیا، تاکہ وہ حضرت

(۱) اصلاح اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر جائیں اور تابا سار نکل آؤ۔ ۱۲۔

موسیٰ علیہ السلام کی اعانت کریں۔ پس جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعانت کی تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے رخی کر کے ان جدید نبیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی روز میں ان تمام انبیاء کی روح قبض کر لی۔ میں کہتا ہوں کہ انبیاء کا رشک محمود ہوتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور ان کے رشک میں نفس کا داخل نہیں ہوتا، اور ان نبیوں کو ایک دن میں اٹھایا سزا کے طور پر نہ تھا (بلکہ اس لئے تھا کہ خدا کو معلوم تھا کہ ان کی عمر اس وقت ختم ہو جاوے گی۔ جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر چکیں گے)۔ (میں کہتا ہوں کہ وہب بن منبه نے جو قصہ بیان کیا ہے، وہ بھی غلط اور یہودی گھڑت ہے۔ اور علامہ نے جو توجیہ کی ہے وہ بھی غلط ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ ہی غلط ہے، اس لئے ہمیں کسی توجیہ کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم ۱۲ مترجم)۔

محمد بن واسع فرماتے تھے کہ جب آدمی کی یہ حالت نہ ہو جاوے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ احسان کرے جو اس کے ساتھ تھوڑی دیر بھی رہا ہو۔ اس وقت تک وہ مقام احسان تک نہیں پہنچتا، اور خود ان کے احسان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کوئی بکری بیچتے تو خریدار سے فرمادیتے کہ بھائی اس کو اچھی طرح رکھنا، یہ ہمارے پاس رہ چکی ہے۔

حاتم اصمؓ فرماتے تھے کہ تمیں باتوں میں لوگوں کے اخلاق میں کمی آگئی ہے۔ ایک اپنے بھائیوں کے اخلاق حمیدہ کی وقعت کرنا، دوسرے ان کے عیوب چھپانا، تیرے ان کی تکلیف برداشت کرنا۔ (پس نہ کوئی دوسرے کے اخلاق حمیدہ کی وقعت کرتا ہے بلکہ اس سے جلتا ہے اور اس کے ہنر کو عیوب بنانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی کسی کی عیوب پوچھی کرتا ہے بلکہ ان ہوئے عیوب اس میں پیدا کرتا ہے، اور نہ کوئی کسی کی ایذا سہتا ہے بلکہ اپنی طرف سے ایذا دینے کی کوشش کرتا ہے)۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے کہ وہ لوگ بھی برے لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی مسلمان مالدار ہو جاوے تو اس کی تعریف کریں، اور اگر کوئی مفلس ہو جاوے تو اسے ذلیل کریں، اور جو کوئی چھوٹا بڑے کے آگے چلا ہے اس کو

ضرور یہ سزادی گئی ہے کہ بھائیوں سے محروم کر دیا گیا۔

فضیل بن عیاض کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ فلاں شخص خبیص (۱) نہیں کھاتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خبیص کھانا چھوڑنا۔ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھو کہ صدر حم کے معاملہ میں اس کا کیا برداشت ہے، اور غصہ ضبط کرنے کے باب میں اس کا طرز عمل کیا ہے، اور دیکھو کہ پڑوی یہودیتیم ان لوگوں پر اس کی شفقت کی کیا حالت ہے اور دیکھو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کے حسن خلق کی کیا حالت ہے؟ (غرض کہ کمالات شرعیہ پر نظر کرنی چاہئے، اور کمالات عرفیہ کو نظر انداز کر دینا چاہئے)۔

احمد بن حرب[ؓ] فرماتے تھے کہ جو شخص (خدا کے واسطے) لوگوں کو دین سکھاوے، اور اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بہت سے نوکر کھلے جو اپنے جسموں اور اپنے مالوں سے رات اور دن اس کی حیات میں اور اس کے انتقال کے بعد اس کا کام کریں (کیونکہ جب لوگ اس کے سکھائے ہوئے دین پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب اس سکھانے والے کو بھی ہوگا تو گویا کہ یہ لوگ اس کے نوکر ہیں۔ اور اس کی خدمت کر رہے ہیں)۔

یحییٰ بن معاذ نے ایک شخص کو مال کی تمنا کرتے سناتو اس نے فرمایا کہ میاں مال کیا کرو گے، تو اس نے کہا کہ میں غریبوں کو دوں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ غریبوں کا بار خدا پر رہنے دو۔ اس سے تمہیں ان سے محبت رہے گی، کیونکہ ان کا بار تم پر آپڑے گا، تو تم انہیں برا سمجھنے لگو گے، اور وہ تمہارے دل پر گراں ہونے لگیں گے۔ اور فرماتے تھے کہ مسلمان بھائی کی ایک تعظیم یہ بھی ہے کہ جب وہ دوسرے شہر میں ہو اور اس کے یہاں موت ہو جاوے تو اس کی تعزیت کے لئے سفر^(۲) اختیار کیا جاوے، (اور اس کے گھر جا کر اس کی تعزیت کی جاوے)۔

(۱) نوعے از خوردانی کے از خرما و غن پزند۔

(۲) اس سے ہمارے زمانہ کی تعزیت کے جواز پر استدلال نہ کیا جاوے کیونکہ یہ تعزیت نہیں۔ بلکہ عرفی رسم ہے جس میں شرعی قباحتیں ہیں، والله اعلم ۱۲ مترجم۔

جبکہ فضیل بن عیاض کے صاحبزادہ علی کا انتقال ہو گیا تو ابو معاوية الاسود ان کی تعزیت کے لئے شام سے مکہ تشریف لائے، حالانکہ اس سے پیشتر حج و عمرہ کے لئے بھی تشریف نہ لائے تھے۔ (مطلوب یہ ہے کہ انہوں نے تعزیت مسلم کو نفل حج و عمرہ پر ترجیح دی تھی، اور کچھ بعد نہیں کیونکہ بعض اوقات تعزیت مسلم بعض عوارض کے سبب نفل حج و عمرہ سے بڑھ سکتی ہے۔ کما لا یخفی)

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص اس سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں دوزخ کی آگ سے بچائے، اس کو چاہئے کہ وہ مسلمانوں سے رحم دلی اور زرم دلی کا برتاب کرے۔

محمد بن المنکدر رات کو نوافل پڑھتے تھے مگر جب ان کی والدہ ان کو پاؤں دبانے کے لئے بلا تیس تو صبح تک پاؤں دباتے، اور اس کو نماز سے افضل سمجھتے اور ایسا ہی بزرگوں نے آدمی کے پیر کے حق میں بیان کیا ہے (یعنی اگر آدمی اپنی خدمت کے لئے بلا تھے تو نفل عبادت کو چھوڑ دینا چاہئے۔

کہمس بن الحسن فرماتے تھے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا، اور ان کا پاخانہ تک اٹھاتا تھا۔ سلیمان بن علی نے یہ معلوم کر کے میرے پاس ایک تھیلی بھیجی کہ اس کے ذریعہ سے خادمہ خرید لو جو کہ تمہاری ماں کی خدمت کرے، اور خود تم اس محنت کے کام کو چھوڑ دو۔ سو میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ جب میں بچھتا تو میری والدہ اس پر راضی نہ تھیں کہ ان کے سوا کوئی اور میری خدمت کرے۔ (ایک تو اس وجہ سے کہ محبت کا تقاضا تھا، اور دوسرے اس وجہ سے کہ دوسرے پر اطمینان نہیں تھا۔) سو میں بڑا ہو کر اس کو پسند نہیں کر سکتا کہ میرے سوا کوئی ان کی خدمت کرے۔

مورق عجلی اپنی ماں کی جو میں خود دیکھتے تھے اور دوسرے کو نہ دیکھنے دیتے تھے، (کیونکہ ان کو دوسرے پر اطمینان نہ تھا، بلکہ سمجھتے تھے کہ ممکن ہے کہ دفع الوقت کر دے۔ دوسرے وہ خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور چاہئے تھے کہ جس قدر سعادت مل سکے، اسے چھوڑنا نہ چاہئے۔

حسن بصریؓ ”ولا تقل لهم أَفْ“ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جب ماں باپ بدھے ہو جاویں، اور جس طرح اس کے بچپن میں وہ دونوں اس کا پاخانہ اٹھاتے تھے اسی طرح اب اس کو ان کا پاخانہ اٹھانا پڑے تو اسے چاہئے کہ وہ اف نہ کرے اور نہ انہیں ڈانٹے، اور جس طرح وہ دونوں اس کے پاخانہ کی بدبو سے ناک پر ہاتھ نہ رکھتے تھے یوں ہی ان کے پاخانہ سے یہ بھی نہ رکھے اور والدین کے ساتھ ادب کی تفصیل ان اخلاق میں مختلف مقامات پر آؤے گی، (تم کو متمنہ رہنا چاہئے)۔ اور جاننا چاہئے کہ جو شخص اپنے باپ یا ماں کا نام لے کر پکارے گا تو وہ عاق ہے ہاں یوں کہے ابا، اماں، اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کے آگے چلے، وہ عاق ہے۔ ہاں کسی جائز غرض کے لئے آگ ہو لے مثلاً یہ کہ رستے میں کوئی تکلیف وہ چیز پڑی ہو تو اسے ہٹا دے تو اس کا مضافات نہیں، جیسا کہ ابن محیری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ پس اے بھائی تو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ با ادب رہ، بالخصوص فقراء و مساکین کے ساتھ (کیونکہ اہل وجہت کے ساتھ تو ادب ہر شخص بر تھا ہے، یہ ہی بیچارہ ایسے ہیں جن کے ساتھ ادب برتنے کی پرواہ نہیں کی جاتی، اس لئے ان کے ساتھ ادب برتنے کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے)۔ والحمد لله رب العالمین۔

خوف سوء خاتمه

۲۶- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ برانہ کر دے اور دوزخ میں جا کر اس سے محبوب ہو جاویں، اور ان میں سے بعض کی تو یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ فکر و غم میں اس قدر مستغرق ہوتے تھے کہ ان کو یہ بھی خبر نہ رہتی تھی کہ ان کے پاس کون لوگ بیٹھے ہیں۔

حسن بصریؓ جب یہ حدیث سنتے کہ سب سے پچھلا شخص جو دوزخ سے نکلے گا، وہ ہوگا جو ہزار برس کے بعد نکلے گا، تو فرماتے کہ اے کاش میں ہی وہ شخص ہوں۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا وہ دوزخ سے نہ

نکلے گا (مقصد یہ تھا کہ آخر وہ لوگ ہی ہوں گے جو ابدال آباد کے لئے دوزخ میں رہیں گے، اور یہ شخص بہر حال ان سے بہتر ہو گا، اور مجھ میں یہ ہی احتمال ہے کہ شاید میں بھی ان لوگوں سے ہوں جو ابدال آباد کے لئے دوزخ میں رہیں گے۔ اور میں اس کو پسند نہیں کرتا اس لئے میں تمبا کرتا ہوں کہ میں ابدال آباد رہنے والوں میں نہ ہوں، بلکہ ان میں ہوں جو کسی وقت اس سے نکلیں گے خواہ وہی ہوں جو سب سے پیچھے نکلنے والا ہے، کیوں کہ وہ بلا سے نکل تو جاوے گا، اور وہ سے پیچھے ہی سہی)۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے دین پر مطمئن ہو جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دین چھین لیا جاتا ہے (وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مکر خداوندی سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور خدا اس کو اس بے خوفی کا مزہ چکھاتا ہے)۔

امام ابوحنیفہ فرماتے تھے کہ اکثر آدمی کا ایمان مرتے وقت سلب کیا جاتا ہے (کیونکہ شیطان اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور اپنے قوت اضلال ختم کر دیتا ہے، اور اس کے مکر سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ اللہم احفظنا منه لہذا کسی کو مطمئن نہ ہونا چاہئے، اور خدا سے اپنے ایمان کی سلامتی کی ذعا کرتے رہنا چاہئے)۔

بشر حافی فرماتے ہیں کہ جب فرشتے مومن کی روح لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، اور اسلام پر انتقال کرتا ہے تو فرشتے تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے فریب سے کیسے نجٹ نکلا، حالانکہ ہمارے بہتر افراد اس میں ہلاک ہو گئے۔ (غالباً ہاروت و ماروت کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم)

ربيع بن خثیم فرماتے ہیں کہ آدمی کی روح اسی حالت پر پرواز کرتی ہے جو اس پر موت سے پہلے غالب ہوتی ہے۔ اس کی تائید میں انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک قریب المرگ شخص کے پاس گیا تو جب میں اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا تھا تو وہ روپیوں کا حساب کرتا تھا (کہ اتنے روپے میرے فلاں کے ذمہ ہیں اور ابھی وہاں سے نہیں آئے وغیرہ وغیرہ)۔

مطرف بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ مجھے ہلاک ہونے والے پر تعجب نہیں ہوتا

کہ وہ کیسے ہلاک ہو گیا، بلکہ مجھے فتح جانے والے پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ فتح کیسے گیا، کیونکہ دنیا میں رہ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کا بچالینا مشکل ہے۔) لہذا خدا کا سب سے بڑا انعام بندہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو اسلام پر موت دے۔ زبد بن اسلم فرماتے تھے کہ اگر موت میرے قبضہ میں ہوتی تو میں اسلام کو دوست رکھتے ہوئے اپنے نفس کو موت کا مزہ چکھاتا مگر وہ میرے قبضہ میں نہیں ہے (اس لئے مجبوری ہے)۔

ایک مرتبہ سفیان ثوریؓ اس قدر روئے کہ بیہوش ہو گئے۔ اس پر ایک غلام نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلے تو ہم گناہوں پر روتے تھے اور اب ہم اسلام پر روتے ہیں کہ دیکھئے اسلام بھی بچتا ہے یا نہیں؟ اور فرماتے تھے کہ بسا اوقات آدمی بتوں کی پرستش کرتا ہے مگر اللہ کے علم میں وہ اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اور بسا اوقات آدمی حد درجہ مطیع خدا ہوتا ہے۔ مگر خدا کے علم میں وہ اہل شقاوتوں میں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ بعض آدمی جنت کے لئے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے مگر تقدیر الٰہی غالب ہوتی ہے، اور وہ عمل جنت چھوڑ کر دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ الی آخر الحدیث۔ یہ وہ بات ہے کہ اس سے عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں، (اور کچھ کام نہیں دیتیں، اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتیں کہ فلاں شخص کا انجام کیا ہو گا)، اور حدیث شریف میں ہے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ صادق الایمان وہ ہے جو دنیا کے حالات میں سب سے زیادہ غور کرنے (اور ان سے عبرت حاصل کرنے) کا عادی ہو، اور سب سے زیادہ جنت میں وہ شخص خوش ہو گا جو سب سے زیادہ دنیا میں (اپنے اعمال پر اور سوء خاتمه کے خوف سے) روتا ہے۔)

یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے کہ تفکر اور عبرت حاصل کرنا، یہ دو چیزیں مومن کے خزانہ قلب سے عجیب حکمتیں نکالتی ہیں، اور آدمی اس سے ایسی ایسی باتیں سنتا ہے جن کو حکماء پسند کرتے ہیں، اور جن کے سامنے علماء کی گرد نیں پست ہو جاتی ہیں، اور جس سے

فقط ہاء تعجب کرتے ہیں، اور جن کو یاد کرنے کے لئے اہل ادب دوڑتے ہیں۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ مومن کا خوف اور اس کا حزن اس کے نور بصیرت کے اندازہ پر ہوتا ہے (بس جس قدر نور بصیرت ہوگا اتنا ہی خوف و حزن ہوگا)۔

محمد بن واسع کا چہرہ شدت غم سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا اس عورت کا جس کا بچہ گم ہو گیا ہوا اور وہ اس کے لئے غمگین ہو، اور اس کا اثر یہ تھا کہ جو کوئی ان کو دیکھ لیتا تھا اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی اور اسیں نرمی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ فرمایا کرتے کہ صحبت ایسے شخص کی اختیار کرنی چاہئے (اور پیر اس کو بنانا چاہئے) کہ جس کو تم بات چیت سے پہلے صرف صورت دیکھ کر یہ سمجھ لو کہ یہ دین میں ہم سے بڑھا ہوا ہے (اور اس قابل ہے کہ اس کو پیر بنایا جاوے)۔

وہب بن الود فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے دل کو دھوؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ پانی تو وہاں تک پہنچتا نہیں، پھر میں اسے کیوں کر دھوؤ۔ حکم ہوا کہ (دل پانی سے نہیں دھلتا ہے بلکہ رنج و غم سے دھلتا ہے لہذا تم کو چاہئے کہ میری طرف سے جو چیز تم سے فوت ہو چکی ہے، یا جس کے فوت ہونے کا آئندہ اندیشہ ہے، اس پر نہایت مهموم و مغموم و محزون رہو اور اس طرح دل کو دھو دو جلا دو)۔

ابراہیم بن ادہم فرماتے تھے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کا منع جسمانی روگ ہیں، یوں ہی دل کی بیماریوں کی جڑ گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دو! پیدا کی ہے (اس لئے اس نے دل کی بیماریوں کی بھی دو اپیدا کی ہے، اور وہ دوا حزن و ملال ہے۔) پس جبکہ (اپنے گناہوں کے سبب) نہایت غمگین ہوگا، اور اس کے آنسواس کے آنکھوں سے دل کی طرف منتقل ہو جاویں گے، (یعنی وہ بجائے آنکھوں سے رونے کے دل سے رونے گا) تو اس کا بدن کھل جاوے گا (اور وہ بالکل تند رست ہو جاوے گا)۔ کسی نے ابراہیم سے عرض کیا کہ آپ کی ریش مبارک سفید ہو گئی ہے، آپ خضاب کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میاں خضاب زینت میں شمار ہوتا ہے، اور

ہم لوگ رات دن سوگ میں رہتے ہیں (تو زینت کو سوگ سے کیا نسبت)۔

بشر بن الحارث سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے ہم آپ کو ہمیشہ معموم دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میاں بات یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کو حاکم کی جانب سے سرکاری و غیر سرکاری حقوق کے متعلق طلب کیا گیا ہے (اور ابھی پیشی ہوئی نہیں ہے اس لئے وہ ذرتا ہے کہ دیکھئے ان بہت سے مقدمات کا کیا نتیجہ ہو، جو مجھ پر قائم ہیں۔ لہذا میرا غمگین رہنا ضروری ہے) نیز وہ فرماتے تھے کہ ہرغم دیر سور ختم ہو جاتا ہے، برخلاف گناہوں کے غم کے کہ یہ ہر سانس کے ساتھ تازہ ہوتا ہے (کیونکہ دوسرے غنوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے اسباب یا توجاتے رہتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں، اس لئے غم بھی جاتے رہتے ہیں، برخلاف گناہوں کے غم کے کہ یہ جوں جوں زمانہ گزرتا ہے اسی قدر اس کے سبب کو قوت ہوتی ہے، کیونکہ موت اور پیشی کا زمانہ قریب آتا جاتا ہے، اس لئے اس کا ہر سانس میں بڑھنا ضروری ہے)۔

حاتم اصم حق تعالیٰ کے ارشاد ان "ان لاتخافوا ولا تحزنوا" کے متعلق فرماتے تھے کہ عدم خوف و عدم حزن ان لوگوں کے لئے ہوگا جو دنیا میں گناہوں سے بہت خالف اور بہت غمگین رہ چکے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا اور اس پر نادم نہ ہوئے بلکہ اترائے، اس کو یہ حکم نہ ہوگا کہ وہ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں۔

معاذ بن جبل فرماتے تھے کہ جب تک جہنم کے پل یعنی پل صراط سے نہ گذر جائے اس وقت تک آدمی کے لئے کسی قسم کی خوشی مناسب نہیں۔

علی بن ابی طالب روتے تھے اور فرماتے تھے کہ چرند پرند مچھلیاں مر کر سب چین سے ہو جاویں گی، مگر مجھے مر کر بھی چین نہ ہوگی بلکہ میں اپنے اعمال کے سبب محبوس رہوں گا۔

حاتم بن عبد الجلیل کا قاعده تھا کہ جس روز عید ہوتی (سب لوگ تو خوش ہوتے مگر) وہ اپنے متعلقین کو جمع گرتے اور سب کے سب ایک جگہ بیٹھ کر روتے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ دنیا عید کو خوش ہوتی ہے مگر آپ روتے ہیں؟ آپ نے

فرمایا کہ بھائی میں بندہ ہوں جسے خدا نے طاعت کا حکم دیا ہے، اور معصیت سے منع فرمایا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں نے اس امر و نبی کا حق ادا کر دیا یا نہیں (پس میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں)۔ عید کی خوشی تو ان ہی لوگوں کو زیبا ہے جن کو عذاب کا کھلا نہیں رہا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کبھی جبریل میرے پاس آتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سہمگلین اور خدا کی ہیبت سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اس لئے خلیل بن نایا ہے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتے تھے، اور خوف کے سبب یہ حالت ہوتی تھی کہ لوگ ان کی دل کی حرکت کی آواز ایک میل سے سنتے۔

موسیٰ بن مسعود فرماتے تھے کہ ہم جب سفیان ثوریٰ کے پاس بیٹھتے تو ہم کو ان کی شدت خوف و جزع و فزع کے سبب ایسا معلوم ہوتا جیسے ہم کو چاروں طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہو۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ خدا کے ایسے بھی بندے ہیں کہ وہ خدا کی عظمت کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل پاش پاش ہو جاتے ہیں اور پاش پاش ہونے کے بعد پھر جڑ جاتے ہیں۔ غرض جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، برابر یہ ہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خوف اسی قدر ہوتا ہے جتنی کہ اس کو خدا کی معرفت ہوتی ہے۔

ابراہیم بن الحارث اس وجہ سے کہ آسمان قبلہ دعا ہے (اور اس کی طرف توجہ خدا کی طرف ہے) خدا کے خوف اور شرم سے اس کی طرف آنکھ نہ اٹھاتے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بسا اوقات سفیان ثوریٰ و مالک بن دینار و فضیل بن عیاض رحمہم اللہ پر خوف کا غلبہ ہوتا اور منہ اٹھا کر کسی طرف کو چل دیتے، اور ان کو یہ نہ معلوم ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔

عمران حسین (غلبہ خوف میں) فرماتے تھے کہ واللہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں راکھ ہو جاؤ اور آندھی روز ہوا میں مجھے اڑاٹا لے۔

اسحاق بن خلف فرماتے تھے کہ خوف یہ نہیں کہ آدمی بیٹھا رہا کرے، اور آنسو پوچھتا رہے، بلکہ حقیقی خوف یہ ہے کہ آدمی ان باتوں کو چھوڑ دے جن پر اسے عذاب کا خوف ہو۔

حسن بصریؒ فرماتے تھے کہ میں بار بار کل نفس ذاتۃ الموت پڑھ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تو کب تک اس آیت کو دھرا تا رہے گا، تو نے اس کو پڑھ کر چار ہزار جنوں کا خون کر دیا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس آیت کو سنات تو غلبہ ہیبت کے سبب آسمان کی طرف آنکھ نہ اٹھا سکے اور وہیں ٹھنڈے ہو لئے۔

فضیل بن عیاض نے عرفہ کے دن عرفات میں وقوف فرمایا، اور زوال غروب تک اپنی ریش مبارک پکڑے ہوئے روتے رہے، اور یہ فرماتے تھے کہ اگر چہ میری برائی (بہ برکت حج معاف ہو چکی) مگر مجھے اب بھی اس پر افسوس ہے۔

حمداد بن زیدؒ جب بیٹھتے تو اکڑو بیٹھتے، اور اچھی طرح نہ بیٹھتے۔ کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ بھائی اطمینان کے ساتھ وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جو عذاب خداوندی کی طرف سے بے کھلکھلے ہو۔ اور میں رات دن میں کسی وقت بھی اس سے بے خوف نہیں ہوں کہ مجھ پر عذاب نازل ہو (پھر میں اچھی طرح کیسے بیٹھ سکتا ہوں)۔

عمر بن عبد العزیزؒ فرماتے تھے کہ غفلت نہ ہوتی تو تمام مخلوق خدا کے خوف سے مر جاتی (پس تم اس سے خدا کے خوف کا اندازہ کرو کہ کیا چیز ہے، اس لئے تمہیں اس کا احساس ہونا چاہئے)۔

مالک بن دینار (کہ خوف کی یہ حالت تھی کہ وہ) فرماتے تھے کہ میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے گھروالوں کو وصیت کر دوں کہ جب میرا انتقال ہو جاؤ تو مجھے طوق اور بیڑیاں پہنا کر قبر میں رکھیں جیسا کہ اس قصور وار غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، اور تم لوگ یہ تو بتلاو کر تم مستحق دوزخ وہلاکت ہو کر کس

منہ سے اپنے نفس کو جنت میں جانے، اور حوروں اور بہشتی محلوں سے تمتع کی امید دلاتے ہو۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ واللہ نہ مجھے کسی نبی مرسل پر رشک ہوتا ہے، اور نہ کسی مقرب فرشتے پر، کیونکہ یہ سب قیامت کے ہولناک واقعات کا مشاہدہ کریں گے، (اور ان سے اپنی اپنی حدیثت کے متاثر بھی ہوں گے) بلکہ مجھے تو ان پر رشک آتا ہے جو ہنوز پیدا نہیں ہوئے، (کیونکہ یہ لوگ احوال قیامت سے بالکل بے تعلق ہیں۔ پس میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی طرح پیدا نہ ہوتا، اور مجھے بھی ان کی طرح احوال قیامت سے دوچار نہ ہونا پڑتا ہے)۔

سفیان بن عینہؓ کا یہ قول پیشتر مذکور ہو چکا ہے کہ آدمی کو ایسا ہونا چاہئے کہ خدا کے یہاں تواہ نہایت معزز لوگوں میں ہو اور اپنے نزدیک سب سے بدتر ہو اور مخلوق کے نزدیک او سط درجہ کا ہو۔ (حاصل یہ ہے کہ آدمی کو اپنا طرز عمل یہ رکھنا چاہئے کہ خدا کی اصلاح نافرمانی نہ کرے تاکہ خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو، اور با اس ہمہ اپنے کو بدترین مخلوق سمجھے، اور مخلوق خدا کے ساتھ نہ ایسا بر تاؤ کرے جس سے وہ اسے برا کیں، اور نہ اس کی کوشش کرے کہ وہ اسے اچھا کیں۔ واللہ اعلم۔

فرقد سنجی فرماتے تھے کہ بیت المقدس میں پانسو کنواری لڑکیاں گئیں۔ وہاں کسی عالم اہل کتاب نے ان سے آخرت کے واقعات بیان کئے تو وہ سب کی سب ایک ہی وقت جان بحق ہو گئیں، وہ لڑکیاں تارک الدنیا تھیں۔ چنانچہ ان کا لباس ثاث کا تھا جو کہ اس وقت زہاد کا لباس تھا۔

عطاء سلمیؓ یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ میں آپ سے عفو اور در گذر کی درخواست کرتا ہوں، اور یہ کہنے کی ان کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے (کیونکہ ان کو شرم آتی تھی کہ میں ایسے افعال پر ایسی درخواست کروں۔ اور یہ ان کا کمال تواضع تھا)۔

فرقد سنجی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عطا سلمی کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ

دھوپ میں زمین پر رخسارہ رکھے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر جو ہم نے اور غور کیا تو دیکھا ان کے رخساروں پر آنسو بننے کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، اور ابھی روکر تھے ہیں۔ نیز ہم نے دیکھا کہ ان کے رخسار کے نیچے کی زمین آنسوؤں سے گارا اور کچڑ ہو گیا ہے، اور وہ یہ کرتے تھے آنسووں کو ہاتھ سے پونچ کر ادھر ادھر جھٹک دیتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ انہوں نے وضو کیا ہے، اور یہ وضو کا گارا ہے نہ کہ آنسوؤں کا۔ اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے چالیس برس سے آسمان کی طرف نہ دیکھا تھا۔ ایک روز بھولے سے اس کی طرف نظر اٹھ گئی اور پیٹ کے بل گر پڑے، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کوئی چیز پھٹ گئی اور اس کے سبب سے وہ یہاں ہو گئے اور اسی مرض میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کا قاعدہ تھا کہ جب ان کے اہل شہر پر کوئی مصیبت آتی تو فرماتے کہ یہ میرے گناہوں کا و بال ہے۔ اگر میں یہاں سے نکل گیا ہوتا تو ان یہاں پر یہ مصیبت نہ نازل ہوتی، اور رات کو اکثر اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے کہ مبادا میں اپنے گناہوں کی سزا میں مسخ کر دیا گیا ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم عتبہ العلام کے ساتھ جاری ہے تھے۔ راستہ میں ایک مقام آیا، عتبہ العلام اس کو دیکھ کر بیہوش ہو کر گر پڑے، جب ان کو ہوش آیا تو فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں نے بالغ ہونے سے پہلے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اور یہ حالت ان کی اس وقت ہوئی تھی جبکہ وہ اور ان کے مرید چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ چکے تھے، اور ان کے بدن دبلے ہو گئے تھے، اور ننگتیں بدل گئی تھیں، اور ایسے ہو گئے تھے جیسے تربوز کے جھلکے (اس سے ان حضرات کے خوف کا اندازہ کرلو کہ کس قدر تھا۔ اور بعض سلف کی یہ حالت تھی کہ وہ روتے روتے بیہوش ہو جاتے تھے، اور بعض یوں روتے رہتے تھے جیسے کسی مردہ کو روتے ہیں، یہاں تک کہ اس حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ اس موضوع پر اور کلام آئے گا، تم کو منتظر ہنا چاہئے۔ والحمد لله رب العلماء۔

تجدد پر دوام

۲۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ گرمی ہو یا جاڑا ہر

حال میں قیام لیل پر مداومت کرتے ہیں اور بمنزلہ فرض کے اس کو اپنے اوپر مٹا کر سمجھتے ہیں، اور اس میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فقیر بلا غلبہ نیند کے رات کو سوتا ہے، اس سے طریق میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، (مگر یہ تشدی صرف التزام عمل کے لئے ہے۔ اعتقاد پر اس کا کچھ اثر نہیں) مگر آج کل اس خلق کو بہت سے صوفیوں نے چھوڑ کر رکھا ہے، اور وہ عوام والی دنیا کی طرح بے تکلف رات کو بستروں پر سوتے ہیں (اور قیام لیل کا خیال تک بھی نہیں آتا) اور بعض کے تنعم کی تو یہ کیفیت ہے کہ محض بلا ضرورت اور صرف تنعم کے طور پر (امراء کی طرح) ہر صبح حمام میں جاتے ہیں اور طلوع نہش تک وہاں سے نہیں نکلتے شیخ ہو کر ہر روز صبح کے وقت حمام میں جاوے، اور عوام و مریدین اس کی یہ حالت دیکھیں نہایت بری بات ہے، اور وہ نہایت برا شیخ ہے۔ (کیونکہ اس سے وہ خود ہی خراب نہیں ہوتا بلکہ عوام و مریدین کو بھی اپنے ساتھ خراب کرتا ہے) میدان شب کے وہ شہسوار جن کو میں نے پایا ہے، ان میں سے آخری شخص ایک شیخ محمد بن عنان ہیں، جن کا معمول ہر شب پانسورة کعت کا تھا۔

شیخ صالح صاحب احوال و کرامات شیخ فرج جوناہیہ شان شلموں واقعہ شرقیہ
 کے رہنے والے ہیں، سیدی محمد بن عنان مذکور کے پاس آتے تھے اور فرماتے اہلا براعی الصھیب، اور راعی صھیب ان کو اس لئے کہتے تھے کہ وہ قیام لیل پر مداومت فرماتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز جائز میں کوئی پڑھتے تھے، اور حدیث شریف میں ہے کہ تم قیام لیل کا التزام کرو، کیونکہ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تم ہے پہلے کے نیک لوگوں کی سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ تقرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ چوتھے یہ کہ وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ جسم سے یہاری کو دفع کرتا ہے۔

سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا رات کو نہ سویا کرو، کیونکہ جورات کو سوئے گا قیامت میں نیکیوں سے خالی ہاتھ آئے گا۔ اور حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے بذریعہ وحی کے فرمایا کہ اے داؤد جو شخص میری محبت کا دعویٰ

کرے، اور جب رات ہو تو مجھ سے غافل ہو کر سوئے، وہ جھوٹا ہے (کیونکہ عاشق ایسے وقت کے منتظر ہوتے ہیں جس میں بفراغ خاطر محبوب کے ساتھ عرض و معروض کی جاسکے، اور یہ ایسے وقت کو قصد اکھوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے ذریعہ سے ملائکہ پر فخر کرتے ہیں جبکہ وہ سردی کی رات میں تہجد پڑھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو دیکھو کہ میری خاطر اس نے دنیا کو اور اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ دیا، اور لحاف میں سے نکل کر مجھ سے میرے کلام (قرآن شریف) کے ذریعہ با تیس کرتا ہے۔ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اس حدیث کو نافع نے بیان کیا ہے۔

عبدالله بن عمرؓ کا قاعده تھا کہ وہ رات کو اٹھتے، اور فرماتے نافع کیا صحیح ہو گئی؟ وہ فرماتے کہ نہیں۔ اس پر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو پوچھتے نافع کیا صحیح ہو گئی؟ وہ کہتے کہ جی ہاں۔ تب بیٹھ کر استغفار کرتے رہتے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی (اور نماز کا وقت آ جاتا۔ اس وقت آپ نماز پڑھتے)۔

امام زین العابدینؑ فرماتے تھے کہ ایک روز اتفاقاً یحیی بن زکریا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور معمول شب قضا، ہو گیا، اور وجد اس کی یہ ہوئی تھی کہ جو کی روئی پیٹ بھر کر کھالی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بذریعہ وحی کے فرمایا کہ اے یحیی اگر تم جنت الفردوس کو ایک مرتبہ بھی جھانک کر دیکھ لیتے تو اس کے عشق میں تمہارا جسم کھل جاتا، اور آنسو بھاکنے کے بعد تمہاری آنکھوں سے کچھ لہو بہتا۔ اور مٹھ چھوڑ کر تم لوہا پہنئے۔ (غرض کہ اس کی تحصیل کے لئے تم ہر قسم کی سختیاں جھیلتے، مگر چونکہ تم نے دیکھا نہیں، اس لئے غافل ہو کر سو گئے)۔ عمر بن الخطابؓ کا قاعده تھا کہ جب ان کے معمول شب میں قرآن پڑھتے ہوئے کوئی وعید وغیرہ کی آیت آ جاتی تو بیہوش ہو کر گر جاتے، اور کئی دن تک ان کی یوں عیادت کی جاتی جیسے بیمار کی کرتے ہیں۔ نیز وہ اپنے زمانہ خلافت میں نہ رات کو سوتے تھے نہ دن کو، بلکہ کبھی..... بیٹھے بیٹھے ٹول جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے کو کھوتا ہوں (کیونکہ قیام لیل ترک ہوتا ہے) اور

اگر دن کو سوتا ہوں تو رعیت کو کھوتا ہوں ، اور مجھ سے ان کی نسبت بھی باز پرس ہوگی۔
(اس لئے میں نہ دن کو سوکتا ہوں ، اور نہ رات کو)۔

عبداللہ بن مسعود کا قاعدہ تھا کہ جب سب لوگ سور ہتے تو آپ تہجد کے لئے اٹھتے ، اور صبح تک آپ کے اندر سے ایسی آواز سنائی دیتی رہتی جیسے مکھیوں کی بخوبی ہے (یعنی بہت آہستہ آواز سے قرآن پڑھتے ، تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو)۔

سفیان ثوری جب اتفاق سے اپنے نفس کی طرف سے غافل ہو جاتے اور زیادہ کھالیتے تو ساری رات نماز پڑھتے ، اور فرماتے کہ جب گدھے کو چارہ زیادہ دیا جاتا ہے تو اس سے محنت کے کام لے کر اس کو تھکایا بھی زیادہ جاتا ہے۔

طاوس رحمہ اللہ عشاء کے وقت سے اپنا بستر خواب بچھاتے ، اور صبح تک ان کی آنکھ نہ لگتی ، اور (بے چینی کے سبب) برابر کروٹیں بدلتے اور روٹے رہتے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ عشاء سے صبح تک آنکھیں کھولے اور بے خبر کھڑے رہتے۔ اور بسا اوقات اپنا ہوتا کہ صبح تک گردن جھکائے اور گریبانِ تفکر میں منہ ڈالے خاموش بیٹھے رہتے ، اور فرماتے تھے کہ دوزخ کے خوف نے اہل عبادت کی نیندا اڑادی۔

سلف صالحین کی یہ حالت تھی کہ جو شخص تہجد کی نمازنہ پڑھتا اس کو صورت دیکھ کر پچان لیتے ، اور فرماتے کہ میاں رات ہم نے تمہیں خدائے تعالیٰ کے دربار میں نہیں دیکھا مگر فلاں فلاں موجود تھے اور ان کو انعام دیتے ، وہ حضرات آپس میں ایک دوسرے پر اس بناء پر نکتہ چینی کرتے تھے کہ وہ ایسے بستر پر سوئے جو اس کے لئے بچھایا گیا ہو (کیونکہ اس میں تنعم اور ریاست کی شان ہے ، اور یہ بات اخلاق صوفیہ سے بعید ہے)۔

بعض حضرات کا واقعہ ہے کہ جب وہ سفر سے آئے تو ایک بستر پر بیٹھ گئے ، تکان کی وجہ سے کمر سیدھی کرنے لیئے تو نیندا آگئی ، اس نیند کے سبب ان کا معمول شب قضاۓ ہو گیا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ بستر پر لیٹنے سے عمر بھر کے لئے میں نے قسم کھالی ہے۔ عبد العزیز ابی داؤد کے لئے بستر بچھایا جاتا ، تو وہ اس پر ہاتھ رکھتے ، اور

فرماتے کہ اے بستر تو نہایت نرم ہے، مگر میاں جنت کے بستر تجھ سے زیادہ نرم ہیں (میں تجھ پر سوکران کو نہیں کھونا چاہتا) یہ کہہ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے، اور صحیح تک نماز پڑھتے رہتے۔

فضیل بن عیاض فرماتے کہ میں ساری رات نماز پڑھتا ہوں، اور جب صحیح ہوتی ہے تو میرا دل کا نپ جاتا ہے، اور کہتا ہوں کہ اپنے آفتاب کو لے کر دل آکھڑا ہوا اور عیش و راحت کا زمانہ ختم ہوا۔ اب خدا خیر کرے۔)

بشر حافی امام ابوحنیفہ یزید رقاشی، مالک بن دینار، سفیان ثوری، ابراہیم بن ادہم، جب تک وہ زندہ رہے، ہمیشہ تمام رات نماز پڑھتے رہے۔

لوگوں نے ایک مرتبہ **بشر حافی** سے کہا کہ رات کو تھوڑی دیر تو آرام فرمایا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحبو جناب رسول اللہ ﷺ اس قدر قیام لیل فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک درم کر جاتے تھے اور ان میں سے خون پسکنے لگتا تھا، حالانکہ آپ کے الگے پچھلے گناہ معاف کئے جا چکے تھے، تو پھر میں کیسے سوکتا ہوں، جبکہ مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ میرا ایک گناہ بھی معاف ہوا ہے۔ (یا نہیں)

حسن بصری فرماتے تھے کہ جس کسی کا قیام شب قضا، ہوتا ہے، وہ ضرور کسی ایسے گناہ کی سزا میں قضا، ہوتا ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، پس تم ہر شب غروب آفتاب کے وقت اپنے نفسوں کی پڑتال کرو، اور دیکھو کہ آج تم نے کس قدر گناہ کئے ہیں، اور جس قدر گناہ کئے ہوں سب سے توبہ استغفار کرو، تاکہ تمہیں قیام لیل نصیب ہو اور فرماتے تھے کہ قیام شب اسی پر گراں ہوتا ہے جس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے (کیونکہ جس طرح حصی بوجھ سے جسم پر اثر ہوتا ہے، یوں ہی شغل معنوی سے روح پر اثر ہوتا ہے)۔

ابوالاًحوص فرماتے تھے کہ ہم نے پہلے علماء و عباد کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ رات بھرنے سوتے تھے، اور میں رات کے وقت جس گھر یا مسجد کا چکر لگاتا تھا، اس میں شہد کی مکھیوں کی سی بخوبی ہٹ سنتا تھا، مگر نہیں معلوم ہمارے زمانہ کے لوگوں کو کیا ہوا کہ جس

چیز سے وہ لوگ ڈرتے تھے اور اس سے ڈر کر اس قدر تکلیف برداشت کرتے تھے، اس سے یہ لوگ بے خطر کیوں کر ہو گئے۔

صلوٰۃ بن ایشٰم عشاۃ سے صحیح تک قدم جمائے نماز میں کھڑے رہتے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو (بجائے لمبی چوڑی درخواستوں کے) یہ فرماتے کہ اے اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت کی درخواست کروں۔ ہاں آپ مجھے دوزخ سے پناہ دیجئے (اور یہ درخواست بھی اس بناء پر نہیں ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے میں اس کے تحمل کی قوت نہیں)۔

ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے عرض کیا کہ میں قیام لیل نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی دو ابتلاء دیجئے (جس سے میں قیام لیل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میاں دن میں گناہ چھوڑ دو، جب تم دن میں گناہ نہیں کرو گے تو حق سبحانہ رات کو تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، اور راز اس میں یہ ہے کہ رات میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، بہت بڑی عزت ہے، اور نافرمان اس شرف کا مستحق نہیں ہو سکتا (پس تم نافرمانی ترک کر دو)۔

عبدۃ العلام رات کے وقت وضو کرنے کے بعد اور نماز کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے فرماتے تھے، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر معاصی و قبائح کا ناقابل برداشت بوجھ لاد دیا ہے، حتیٰ کہ میں زمین میں دھنادے جانے، اور مسخ کر دئے جانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہر اس شخص کے پیچھے کھڑا ہوں جو روئے زمین پر کہیں بھی آپ سے عرض معروض کر رہا ہو، صرف اس توقع پر کہ آپ ان میں سے ضرور کسی کی مغفرت فرمائیں گے، اور اس طرح اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جاوے گا۔

حسن بن صالح کا قاعده تھا کہ وہ اور ان کی لوئڈی رات کو قیام لیل کرتے تھے۔ اتفاقاً کسی ضرورت سے انہوں نے اس لوئڈی کو بیج دیا۔ بس جب وہ مشتری کے یہاں گئی تو اس نے حسب معمول عشاۃ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز شب شروع

کردی، اور صبح تک پڑھتی رہی۔ پس جب رات کا کچھ حصہ گذرتا تھا تو وہ کہتی تھی ارے گھروالو! انھو نماز پڑھو۔ اور اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ ہم تو صبح کو انھیں گے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو وہ حسن بن صالح کے پاس آئی اور شکایت کی کہ آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچا جو تمام رات سوتے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے آرام کو دیکھ کر کبھی میری ہمت نہ پست ہو جاوے۔ یہ حالت معلوم کر کے حسن کو اس پر رحم آیا اور اداء حق صحبت کا خیال ہوا، اور اسے واپس لے لیا۔

رابعہ عدو یہ کا قاعدہ تھا کہ جب رات ہوتی تو آپ وضو کرتیں، اور بدن میں خوبصورگا تیں اور اپنے شوہر سے کہتیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہہ دیتے کہ نہیں، تو پھر صبح تک نماز میں کھڑی رہتیں اور اول شب میں فرماتیں کہ آے اللہ لوگ سو گئے، اور ستارے چھپ گئے، اور شاہان دنیا نے اپنے دروازے بند کر لئے مگر ایک آپ کا دروازہ ہے کہ بند نہیں ہوتا۔ پس آپ مجھے معاف کر دیجئے، پھر نماز کے لئے قدم برابر کرتیں۔ اور فرماتیں کہ آپ کی عزت و جلال کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گی، ہر شب صبح تک آپ کے سامنے یوں ہی کھڑی رہوں گی۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ کھانا کم کھانے کا التزام کرو۔ تم کو قیام لیل پر قابو حاصل ہو جاوے گا۔

ثابت بنیٰ تمام رات نماز پڑھتے اور اپنے گھروالوں سے فرماتے کہ انھوں اور نماز پڑھو، کیونکہ قیام لیل کی تکلیف قیامت کے خوفناک واقعات کے جھیلنے سے آسان ہے۔

ابوالجبور یہ ”فرماتے تھے کہ میں چھ مہینہ تک امام ابوحنیفہ کے اس طرح ساتھ رہا کہ ایک دن کو بھی جدا نہیں ہوا، مگر میں نے اس عرصہ میں نہیں دیکھا کہ کسی رات انہوں نے زمین سے پینچھے لگائی ہو، اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ رات کے لئے امام صاحب کے پاس کوئی بستر انہ تھا (کیونکہ وہ رات کو سوتے ہی نہ تھے تاکہ بسترے کی ضرورت ہوتی)۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے نہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ عبادت کرنے والا دیکھا، اور نہ ان سے زیادہ دنیا سے بے رغبت دیکھا..... اور نہ ان سے زیادہ پرہیز گار دیکھا۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ حق سبحانہ رات کے وقت تجلی فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دن کو میری محبت کے دعوے کیا کرتے ہیں؟ کیا عشاق کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ خلوت چاہتے ہیں اور ضرور ہے) تو اب میں اپنے عشاق کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ حاضر ہو کر مجھ سے گفتگو کریں، اور مشاہدہ کے طور پر مجھ سے خطاب کریں، اور کل کو میں اپنے دیدار سے جنت میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔

مغیرہ بن حبیب فرماتے تھے کہ میں نے بوقت شبِ مالک بن دینار کو بچشم خود دیکھا کہ وہ عشاء کے وقت ڈاڑھی پکڑ کر خدا کے سامنے کھڑے ہوتے اور روتے اور کہتے کہ اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرم۔ اور اسی طرح صبح کر دیتے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبد الواحد بن زید کو ایک مہینے تک دیکھا کہ وہ رات کو اصلا نہ سوتے تھے، اور رات کو تھوڑی تھوڑی دیر میں فرماتے تھے کہ اے گھروالا! جاگ جاؤ، کیونکہ دنیا سونے کا گھر نہیں۔ یاد رکھو کہ عنقریب تمہیں کیڑے کھائیں گے۔

صہیب عابد بصرہ میں ایک عورت کے غلام تھے، اور ساری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے۔ اس پر ان کے آقا نے ایک روز کہا کہ رات کو اتنی دیر کھڑے رہنا دن میں تمہاری خدمت میں خلل ڈالے گا (پس تم رات کو اتنے نہ جا گا کرو، تاکہ دن میں کام کرسکو)۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ میں کیا کروں، جب مجھے دوزخ یاد آ جاتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔

از ہر بُنِ مغیث فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نہایت خوبصورت حور کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تو کس لئے ہے؟ اس نے کہا کہ اس شخص کے لئے جو جاڑوں کی راتوں میں قیام لیل کرے۔

علاء بن زیاد نماز میں تمام شب کھڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ اس پر انہوں نے اس کا کہنا مان لیا، تو ان کے خواب میں ایک شخص آیا اور ان کے موئے پیشانی کیڈ کر کہا: کہ انہونماز پڑھوا اور اپنے پروردگار کی عبادت کا حصہ ضائع نہ کرو۔ سو وہ اٹھے اور ان بالوں کو کھڑا ہوا پایا اور وہ ان کے انتقال تک کھڑے ہی رہے۔

ابراهیم بن ادہم ایک شب بیت المقدس میں سوئے تو انہوں نے ججرہ کی جانب سے ایک آوازنی کر کوئی کہتا ہے کہ قیام شب آگ کے شعلہ کو خنثا کرتا ہے، اور پاؤں کو پل صراط پر جماتا ہے۔ پس تم قیام شب میں سستی نہ کیا کرو۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے مرتبے دم تک اس کو ترک نہیں کیا۔ پس اس کو خوب سمجھ لو اور اس پر عمل کرو۔
والحمد لله رب العلمين . تم الباب الاول .



دوسرا باب

کچھ اور اخلاق کے بیان میں

کسر نفس اور تواضع

۲۸۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہایت کسر نفسی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کے بعض حضرات اپنے شاگردوں سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ (ان کی دنیاوی عزت کی یہ حالت ہوتی ہے) کہ ان کو دوسرے لوگ (پاکی وغیرہ میں) اٹھاتے ہیں (مگر وہ اس عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ان کی اس پر نظر ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے زیادہ عالم ہیں، یا عمل میں اس سے بڑھے ہوئے ہیں۔ مگر یہ تمام باتیں حد شرعی کے اندر ہوتی ہیں۔ اور اس وقت ہوتی ہیں جب کہ اس شاگرد کے فتنہ (عجب و کبر میں بتلا ہونے کا اندیشہ) ہو۔ چنانچہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جب امام شافعی نے امام احمدؓ کے پاس اپنا قاصد سے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ عنقریب ایک سخت مصیبت میں بتلا ہونے والے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آپ اس سے سلامتی دین کے ساتھ نجات پا جائیں گے۔ ان کا مقصد اس سے اس مسئلہ کی طرف اشارہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، توجہ قاصد نے یہ پیغام پہنچایا ہے تو انہوں نے اس کے آنے کی خوشی میں اپنا پیرا ہم مبارک اتار کر اس کے حوالہ کر دیا۔ اب جب کہ قاصد کرتے لے کر امام شافعی کے پاس پہنچا اور ان کو اس واقعہ کی اطلاع کی تو امام نے اس سے دریافت کیا کہ امام احمدؓ اس کرتے کے نیچے تو کچھ نہیں پہن رہے تھے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر امام نے اس کو بوسہ دیا، اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور ایک برتن سے اس پر پانی ڈال کر اس کو خوب ملا اور اس کے بعد اسے نچوڑا، اور اس دھوون کو ایک شیشیہ میں بند کر کے اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد ان کا یہ معمول تھا کہ جب ان کا کوئی متعلق یہاں رہوتا، تو وہ پانی اس کے پاس

بھیجتے اور وہ اس کو اپنے بدن میں ملتا اور فوراً شفا یاب ہوتا۔ اب تم غور کرو کہ باوجود یہ کہ امام احمدؓ امام شافعیؓ کے شاگردوں میں سے تھے مگر باسیں ہمہ امام کا اس کے ساتھ کس قدر متواضعانہ بر تاؤ تھا۔ اور اس سے تمہیں معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ حضرات باوجود اپنے اعمال صالح کی کثرت کے اپنے کو کسی مسلمان سے بالا تنہیں سمجھتے تھے، برخلاف آج کل کے بنے ہوئے مشائخ کے (کہ وہاں اعمال صالح کا تو نام بھی نہیں، اور کبر و عجب کی یہ حالت ہے) کہ کسی کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے اپنے سے اعلیٰ تو در کنار (یہ تو پہلے زمانہ کا قصہ ہے)، اور جن مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں سے وہ آخری بزرگوار جو اپنے شاگرد کے معتقد اور اس سے برکت حاصل کرتے، اور اس کے پاس آشوب چشم والے اور دوسرے قسم کے بیمار کو جھائز نے کے لئے بھیجتے تھے وہ شیخ محمد بن عنان اور شیخ محمد سروی تھے۔ شیخ محمد بن عنان اس شخص کو جو اپنے بیمار کے لئے دعا کرانا چاہتا، شیخ یوسف حریتی کے پاس بھیجتے تھے، اور شیخ محمد سروی اس کو شیخ علیؓ حدیدی کے پاس بھیجتے تھے، حالانکہ شیخ یوسف اور شیخ علیؓ مذکورین ان حضرات کے شاگردوں میں تھے۔ پس خدا پھوں سے راضی ہو۔ اس مضمون کو خوب سمجھ لو (اور اس پر عمل کرو)۔ الحمد لله رب العلماء۔

استحضار جلال خداوندی

۲۹۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان حضرات کو اس بات پر نہایت غیرت آتی ہے کہ کوئی شخص غفلت کی حالت میں (اور کسی دنیاوی غرض سے) خدا کا نام لے، مثلاً قاعدہ ہے کہ جب ماں رات کے وقت بچہ کی وجہ سے جاگ رہی ہو تو وہ اس کے سلانے کے لئے ذکر اللہ کرتی ہے (چنانچہ ہمارے یہاں کا قاعدہ ہے کہ عورتیں ایسے موقع پر اللہ اللہ یا اللہ جی اللہ کہتی ہیں۔ مترجم) تو یہ بات ان کو پسند نہیں، کیونکہ ذکر خدا کی شان اس سے ارفع ہے کہ ایسی غرض کے لئے کیا جاوے۔ ایک روز ایک بزرگ نے کسی مریض سے کہا کہ میاں تم (حصول شفاء کے لئے) یا لطیف پڑھا کرو۔ اور اس وقت ان کو اپنے خدا کے سامنے ہونے سے ذہول تھا تو حق سجنے

اس بات پر خواب میں ان پر عتاب فرمایا، اور فرمایا کہ تم نے میرے ذکر کو لہو و لعب بنالیا۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔ والحمد لله رب العلمين.

نرم خوئی

۳۰۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حضرات نہایت ہی نرم خو ہوتے ہیں کہ ایک بچے کے ساتھ یوں چلے جاتے ہیں جیسے اونٹ بے چون و حجر اشتر بان کے پچھے چلتا ہے۔ جس حدیث میں صفوں کو برابر کرنے کا حکم ہے، اس میں اس نرمی کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: لَيْسُوا فِي يَدِ الْخَوَانِكُمْ یعنی اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ (اور جس طرح وہ تمہیں کھڑا کریں۔ اس طرح کھڑے ہو جاؤ اور مزاحمت نہ کرو)۔ نیز قرآن میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ﴿وَ لَوْ كُنْتَ فِطَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ یعنی اگر آپ تندخو، اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے پر اگنڈہ ہو جاتے۔ جب تم کو نرمی کی خوبی اور اس کا نافع ہونا معلوم ہو گیا، تو اب سمجھو کہ فقراء کی نرمی میں یہ بھی داخل ہے کہ جب ان میں کا کوئی شخص ایسی جماعت کے پاس جاوے جو خدا کا یوں ذکر کر رہے ہوں جیسے عجمی لوگ یا مغربی حضرات۔ یا شنادیہ یا مطاوعہ یا رفاعیہ وغیرہم کرتے ہیں تو حد شرعی کے اندر نیت ذکر میں ان کی موافقت کر کے ان کے ساتھ مشغول ذکر ہو۔ اور اسی طرح نفس ذکر میں بھی ان کی موافقت کرے جو ان کو مشائخ نے سلسلہ میں داخل کرتے وقت تعلیم کیا ہے مثلاً نفی و اثبات یا اور کوئی، اور یہ نہ کہے کہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس کی ہمارے شیخ نے تعلیم کی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ اس بلا میں بتلا ہیں۔ اور اس سے ان کو دو قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ دوسرے بد خلقی اور سخت مزاجی کے بلا میں بتلا ہوتے ہیں، (کیونکہ یہ موافقت عارضی تلقین شیخ کے منافی نہیں ہے، اس لئے کہ تلقین شیخ کا مقصد یہ ہے کہ تم کو بالاستقلال اس پر عامل ہونا چاہئے۔ اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی عارض کے سبب سے بھی اس

کے خلاف نہ کرنا چاہئے)۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔ الحمد لله رب العلمين۔

کم کھانا

۳۱۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شرعی طریق سے بھوکے رہتے ہیں (مثلاً وہ روزہ رکھتے ہیں یا کھانا کم کھاتے ہیں وغیرہ) اور اگر ان کو حلال غذا میسر نہیں آتی تو بھی وہ کئی کئی دن بلا کھائے کاٹ دیتے ہیں۔ اور فائدہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے غلو معدہ کو تجربہ سے سراپا نور اور سراسر بہتر پایا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اس مثال میں جو ڈھول کے بارے میں مشہور ہے، کہا ہے کہ اس کی آواز زوردار اور بلند اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے (اور اس سے انہوں نے خلو معدہ کی خوبی پر استدلال کیا ہے)۔ نیز انہوں نے کہا ہے کہ عالم کو نہ چاہئے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے، بالخصوص تایف کے زمانہ میں تاکہ وہ قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ کے کما حقہ سمجھنے سے مانع نہ ہو جاوے کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کی فہم کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ ایک صحیح واقعہ ہے جس کو اس میں شبہ ہو، وہ تجربہ کر کے اطمینان کر لے، اور ہم نے صوفیہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا ہے جس کو بھوکار بننے میں حد درجہ کمال تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات سات روز میں صرف ایک مرتبہ پاخانہ جاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی تھی کہ وہ پاخانہ میں بکثرت جا کر ستر کھولیں۔

شیخ تاج الدین ذاکر کی حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ ہر بارہ روز میں صرف ایک مرتبہ وضو کرتے تھے۔

سیدی علی شہادی جو ذویب کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جوان سے ملتا، وہ اس کو بھوکار بننے کی نصیحت کرتے اور فرماتے کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے (جس سے وہ قوائے بیسمیہ کو مغلوب کر کے نفس و شیطان کے مقابلہ میں کامیاب ہوتا

ہے)، اور فرماتے تھے کہ بھوکا آدمی اگر خدا کی اطاعت نہ کرے گا تو اس کی نافرمانی بھی نہ کرے گا،۔ کیونکہ اس میں (بوجہ انکسار قوت بیہمیہ کے) مخالفت کا داعیہ ہی نہ ہوگا۔

جن حضرات کا معمول صوم دہرتا۔ ان میں سے ایک شیخ عمر^{لہ عنہ} سر برہنہ اور دوسرے آپ کے پچاڑا بھائی شیخ عبدال قادر سر برہنہ تھے، اور یہ دونوں حضرات صوم دہر کی برکت سے نہایت نورانی الباطن اور غایت درجہ عالی ہمت تھے۔

بس تمہیں اس بارہ میں اپنے سلف کا اتباع کرنا چاہئے، اور اسی وقت کھانا کھانا چاہئے جبکہ تمہیں سخت بھوک لگی ہو اور تمہاری آنسیں بھوک سے مشتعل ہو جاویں، اور ان میں بوجہ اس مادہ کے موجود نہ ہونے کے جس کے نفع میں وہ مشغول ہوں، کھر چن سی لگ جائے۔ بس اسے خوب سمجھ لینا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔
والحمد لله رب العالمين.

اہتمام اصلاح

۳۲- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کو قرآن سے اپنے متعلقین کا عدم اخلاص معلوم ہو جاتا ہے، تو وہ ان کی تعلیم سے دست بردار نہیں ہوتے، کیونکہ تعلیم مقصود شارع ہے، (اور اصلاح نیت فرض متعلم، پس وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اور فرض متعلم کو اس کے اور خدا کے حوالہ کرتے ہیں)۔ اور شارع نے جو اپنا مقصود تعلیم رکھا ہے، اس کی وجہ نیہ ہے کہ علم کے دو فائدے ہیں۔ ایک اس پر عمل اور دوسرا احیاء شریعت۔ (اب اگر کسی کی نیت میں خلوص نہ ہوگا، تو احیاء شریعت تو اس سے بھی ہوگا۔ لہذا صاحب علم اس سے بہر حال ماجور ہوگا خواہ (عمل و احیاء کے سبب) اسے پورا اجر ملے یا (صرف احیاء کے سبب) اجر ناقص ملے۔

سیدی علیؒ خواص فرماتے تھے کہ ہر صاحب علم اپنے علم پر عمل کرتا ہے خواہ وہ گناہ ہی کرے اور اس کا عمل اپنے ہی حق میں ہو اور لوگوں کے نزدیک نہ ہو کیونکہ جب وہ گناہ بھی کرے گا تو دوسرے وقت اس سے توبہ کرے گا، اور اس پر نادم ہوگا۔ اب اگر

اسے علم نہ ہوتا تو اسے یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اور نہ وہ اس سے تو بہ کرتا۔

پس اس حیثیت سے وہ اس پر اب بھی عامل ہے اگرچہ لوگوں کی اصطلاح میں وہ اس پر عامل نہ ہو۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ خلاصہ یہ کہ علم ہر حال میں نافع ہے اور یہ تو ہر زمانہ میں رہا ہے کہ لوگوں کا علم ان کے عمل سے زیادہ ہو۔ (پس نقصان عمل کی بناء پر علم کو بے سود نہ سمجھنا چاہئے۔ والحمد لله رب العلمين).

علم پر عمل

۳۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس علم کے علم پر بھی عمل کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں جو خود اپنے علم پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور اس کے علم پر عمل کر کے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا دیتے ہیں (یعنی وہ اس کا ثواب اسے بخش دیتے ہیں اور اپنے اجر کے خدا کے فضل و احسان سے خواہاں ہوتے ہیں جیسا کہ ان کا معمول ہے کہ جب وہ کوئی علم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اس کے مؤلف کو بخشنے ہیں اور اس میں اس کی مزاحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہر قول کا ثواب اس کے قائل کو ہوتا ہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ مگر یہ بات انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو بحکم ولاشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ شفیق ہوں۔ چنانچہ ہم نے اپنی کتاب مینین الکبریٰ میں اس بحث پر مبسوط کلام کیا ہے۔ والحمد لله رب العلمين.

مخالفوں کے ساتھ حسن سلوک

۳۴۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں سے جو بظاہر دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بباطن ان سے کاوش کرتے ہیں، میل جوں رکھتے ہیں، اور اپنے طرز عمل سے ان پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو ان کے دعویٰ محبت میں کچھ شبہ نہیں ہے، اور ان کے علم کو ان کے عدم خلوص واقعی تک رسائی نہیں ہے اور وہ صراحةً ایسے لوگوں کے دعویٰ اخلاص کی تکذیب نہیں کرتے، اور نہ وہ ان کو جبکہ وہ تقرب کے خواہاں

ہوں، مقرب بنانے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی عداوت اور ان کا فتنہ اور بڑھے گا، مگر ایسے لوگوں کو جو اس طرح اپنے دشمن کے ساتھ میل جوں رکھنے پر مجبور ہوں، اس کی ضرور احتیاط رکھنی چاہئے کہ اپنے اعضاء سے خلاف شریعت یا خلاف مصلحت افعال نہ صادر ہونے دیں، کیونکہ دشمن کا مقصود اخلاق اس سے باوقات اس کی کچی حالت پر مطلع ہونا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے ظہور مخالفت کے زمانہ میں مجالس عامہ میں علی الاعلان بیان کر کے اس کی ہجوم کر سکے، چنانچہ ایسا بہت ہوتا ہے۔ الغرض جو شخص اپنے دشمن سے میل جوں رکھے اس کے لئے نہایت احتیاط لازم ہے۔ اور سلامتی کی بات یہ ہی ہے کہ حتی الامکان صرف انہی لوگوں سے اخلاق ارکھے جو خلوص و محبت سے اس کے معتقد ہیں، اور دشمن سے اخلاق بھی نہ کرے، کیونکہ اس شخص کے لئے جو سیاست سے پورے طور پر واقف نہ ہو اور عمل میں بھی کمزور یا رکھتا ہو۔ دشمن سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لیا جاوے۔ والحمد لله رب العلماء.

حسن ظن باہل اسلام

۳۵۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ صرف لوگوں کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی برائیوں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں حتی کہ وہ حضرات کسی مسلمان بھائی میں کوئی برائی ہی نہیں دیکھتے، جس سے وہ اس کی ہجوم کریں، اور اس بناء پر تمام مسلمان ان کے نزدیک نیک ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات نفیانیت سے کسی سے دشمنی نہیں کرتے بلکہ خود لوگ ہی ان حضرات سے بطور حسد و تعدی کے دشمنی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو لوگ اس مرتبہ کے ہیں ان کا نفع ان کے مریدوں و معتقدوں کو ضرور کم ہو گا، کیونکہ وہ نہ کسی کو نصیحت کریں گے، اور نہ کسی کو بری باتوں سے بچاویں گے۔ لہذا وہ ہمیشہ مرتكب معاصی رہیں گے اور ان سے بچنے کی راہ نہ پائیں گے، کیونکہ جب ان حضرات نے ان کی برائیوں کو عمدہ محامل پر محمول کر لیا ہے اور اس لئے ان کے اندر برائی دیکھتے ہی نہیں تو نصیحت کس بناء پر کریں گے، تو

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بطور خود کسی کی نسبت برآگمان نہیں کرتے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ان کو بذریعہ الہام صحیح کسی کی برائی معلوم ہو جاوے اور اس بناء پر وہ اسے بوجہ اپنے تعلق کے روک دیں۔ پس حسن ظن کے ساتھ تحذیر مجتمع ہو گئی اور شبہ دفع ہو گیا۔ دوسرے حسن ظن کے ساتھ بدون الہام کے بھی تحذیر ممکن ہے۔ وہ یوں کہ وہ اس کی حالت کو اپنے اوپر قیاس کریں اور سمجھیں کہ جس طرح میرے اندر عیوب ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسے عیوب اس میں بھی ہوں، کیونکہ جو بات میرے حق میں ممکن ہے وہ دوسرے کے حق میں بھی ممکن ہے، اس بناء پر وہ اس کو نصیحت کریں اور ایسا ہوتا بھی ہے، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی برائیاں بطور تحذیر کے بیان کرتے ہیں نہ کہ بطور اطمینان و اعتقاد کے (یعنی وہ لوگ جب نصیحت کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بری ہے۔ اگر تم میں ہو تو چھوڑو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ضرور تم میں یہ برائی ہے)، کیونکہ یہ حضرات اس سے بری ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صوفیہ کرام شیخ کو آنکھوں والا کہتے ہیں، یعنی ہر بات دیکھنے کے لئے ایک جدا گانہ آنکھ ہوتی ہے۔ پس ایک آنکھ سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کے اندر نقائص مثل ریا و نفاق وغیرہ نہیں ہیں۔ اور دوسری آنکھ سے وہ اس کے لئے اس احتیاط کو دیکھتا ہے، جو ایسے شخص کے ساتھ کی جاتی ہے، جس کو وہ بالفعل یا بالفرض نقائص کے ساتھ ملوث خیال کرتا ہے۔ تیری آنکھ سے وہ تحذیر کو دیکھتا ہے۔ پس اس بناء پر وہ اس کو نقائص سے بری سمجھ کر بنا بر احتیاط اس کو تحذیر کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

شکر و استغفار در بارہ حسد

۳۶۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کے حاسد اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں تو وہ خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس کے بعد خدا سے استغفار کرتے ہیں۔ شکر کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ان پر احسان کیا، جس سے وہ محسود ہوئے۔ اور استغفار کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ فی الجملہ سبب معصیت بنے، کیونکہ اگر وہ نہ

ہوتے تو ان پر انعام و احسان ہی نہ ہوتا۔ اور جب انعام و احسان نہ ہوتا تو لوگ ان پر حسد کر کے مرتكب حرام نہ ہوتے۔ پس اس ارتکاب جرم کا سبب وہ بنے اس لئے وہ استغفار کرتے ہیں، اور ان کا یہ استغفار کسی حقیقی معصیت کی بنا پر نہیں ہوتا، کیونکہ نہ ان کا وجود ان کے قبضہ میں تھا اور نہ انعام اور نہ حسد میں ان کے اختیار کو دخل تھا بلکہ یہ استغفار لازم نعمت یعنی بلا اختیار سبب حسد بننے سے احتیاط کی بنا پر ہوتا ہے اور اس کو بڑے لوگوں کا استغفار کہتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنے لئے استغفار کرتے ہیں یوں ہی وہ ان حسد میں کے لئے بھی استغفار کرتے ہیں جنہوں نے حسد کر کے ناقص اپنا دین برپا کر لیا، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے حسدوں کے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بیچارے معدود رہیں اور آپ کے احسانات جو ہم پر ہیں ان کو اپنی تنگ حوصلگی کی بنا پر دیکھنہیں سکتے، اور اگر یہ لوگ فراخ حوصلہ ہوتے تو ہمارے حسد میں بدلنا ہوتے۔ اور یہ ایک ایسا خلق ہے جس سے بہت کم لوگ متعلق ہوتے ہیں ورنہ اکثر کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اپنے حسد کے لئے ہر ممکن برائی کے آرزومند ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

منصفانہ برتاو

۳۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرات ان لوگوں کے ساتھ منصفانہ برتاو کرتے ہیں جو ان کے لئے بلا ان کی خواہش و اطلاع کے خیر خواہی و نیک نیتی سے برے لوگوں اور حامکوں کے یہاں تحصیل رزق یا جا گیریا ہدیہ وغیرہ کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے نصف یا چوتھائی۔ غرض جس مقدار کی نسبت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے خوش ہو جاوے گا اس کو دیدیتے ہیں، بالخصوص اگر وہ شیخ کے زہد و صلاح و درع بھی تعریف کرتا ہے تب تو وہ اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ حضرات جس قدر اس لانے والے نے لا کر ان کو دیا تھا، سب کا سب اسی کو دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی خود مشقت کرے اور لوگوں کو دھوکا دے کر کچھ وصول کرے (گوواقع میں دھوکا تلبیس نہیں ہے۔) پس ایسی حالت

میں شیخ کونہ چاہئے کہ جس قدر وہ کوشش کرنے والا مانگے اس کے دینے میں اس سے دریغ کرے، کیونکہ یہ حقیقت میں اسی مشقت کرنے والے کی کمالی شمار ہوتی ہے بلکہ اولی اس کے لئے یہ ہی ہے کہ اس میں سے خود کچھ بھی نہ لے۔ ہاں حد شرعی کے اندر لے لینے کا مضمون نہیں اور اس قسم کی محنت اس زمانہ میں بہت رائج ہے، یہاں تک کہ بعض مشائخ اپنے کارندے مقرر کر دیتے ہیں جو امراء یا مشائخ عرب کے یہاں جا کر ان کے لئے تحصیل زر کی محنت برداشت کریں۔ پھر جب وہ اینٹھ کر کچھ لا تے ہیں تو سارا خود ہضم کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے اس کے حاصل کرنے کی زحمت و مشقت گوارا کی تھی، ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ اور میں نے بعض کارندوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے شیخ کی تعدی سے مجبور ہو کر شیخ کی نالش کر کے ان کو حاضر عدالت کرایا، اور ان کے تقدس کے خوب خوب بخنزے ادھیرے، حتیٰ کہ حاکم نے شیخ سے کہا کہ تو نہایت طامع شخص ہے۔ پس اے بھائی تو ایسے مشائخ کی حالت دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ پہلے زمانہ کے مشائخ بھی ایسے ہی تھے کہ ان کے متعلق سوطن میں بتلا ہو جاوے، کیونکہ وہ لوگ نہایت زاہد و پرہیز گار تھے اور ان کی حالت ہرگز مشائخ زمانہ کی سی نہ تھی پس اے خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العلمين.

نوٹ از مترجم۔ واضح ہو کہ اس خلق میں دو قسم کے لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے ایک دیندار مشائخ دوسرے دنیادار مشائخ، دیندار کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نہ کسی کو تحصیل زر کے لئے مقرر کرتے ہیں اور نہ کسی سے اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے لئے اس قسم کی کوشش کرے۔ ہاں اگر کسی مخلاص نے از خود شیخ کی حاجت کو معلوم کر کے ان کی سفارش کر دی اور کچھ لے آیا تو اور بات ہے، مگر اس پر بھی وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں، اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے بلکہ اسی لانے والے کو واپس کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام، اور بعض لوگ اس کو مال مباح سمجھ کر لے لیتے ہیں مگر سب خود نہیں رکھتے بلکہ اس لانے والے کو بھی اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جاوے، کیونکہ محنت تو اسی نے کی ہے۔ رہے دنیادار سو یہ لوگ تحصیل زر کے لئے جال

پھیلاتے ہیں اور دھوکا دینے کے لئے لوگ مقرر کرتے ہیں، سو ایسا روپیہ حرام ہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ شیخ کی عبارت اس مضمون کے ادا کرنے میں قاصر ہے، اور اس کے بعض فقرات سے دیندار مشائخ پر بھی تحصیل دنیا کے لئے جال پھیلانے یا خود غرض اور دنیا دار حضرات کے دھوکا دے کر لائے ہوئے مال سے منتفع ہونے کا شبہ ہوتا ہے، اس لئے اس سے دھوکانہ کھانا چاہئے۔ واللہ اعلم۔ مترجم

اتباع شریعت

۳۸۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی عورت کو شادی کا پیغام بھیجتے ہیں تو سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کا چہرہ اور ہاتھ دیکھتے ہیں۔ اس دیکھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ روایت بلاشبہت کے ہونی چاہئے، کیونکہ ابھی وہ عورت محل تمتع نہیں ہے۔ اور جمہور اس کے خلاف ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شارع نے نظر کی اجازت دی ہے (اور ایسی حالت میں شبہت کا ہو جانا ایک طبعی امر ہے۔ پس یہ تمتع معفو ہے) پس اس سنت پر عمل کرنا چاہئے۔ اور شرم کا بہانہ نہ کرنا چاہئے، کیونکہ بلا دیکھے شادی کرنے میں بڑی خرابیاں ہیں جبکہ عورت مرد کو پسند نہ آئے۔ پھر جب آدمی اپنی ملکیت کو دیکھے تو قدر ضرورت پر اکتفاء کرے، اور خواہ مخواہ شبہت پرستی نہ شروع کر دے۔ اور اگر کسی کو دیکھنے کی صورت میں اپنے نفس کے بے قابو ہو جانے کا اندر یشہ ہو، تو یا تو جس قدر شریعت سے اجازت ہے اس سے بھی کم دیکھے، مثلاً ایک سرسری نظر ڈال لے جس سے اجمالاً اس کی حالت معلوم ہو جاوے اور معاملہ خدا کے سپرد کر دے، یا بالکل نہ دیکھے اور کسی عورت کو جس پر اطمینان ہو کہہ دے کہ وہ نیابتہ دیکھے۔ پس اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص ملکیت کو نہیں دیکھتا اور شرم کا بہانہ کرتا ہے، وہ سنت سے ناقص اور اکھڑا آدمی ہے، اور اس کی حیاء طبعی حیاء ہے نہ کہ شرعی۔ والحمد لله رب العالمین۔

ادب استاذ

۳۹۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص ان کو بچپن میں قرآن کی ایک سورۃ یا آیت پڑھا دیتا ہے، اس کا وہ نہایت ادب کرتے ہیں۔ پس جو شخص ان کو ایک سورۃ یا ایک آیت یا کسی علم کا ایک باب پڑھا دیتا ہے، اس کی وہ اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ اس کے پاس سوار ہو کر نہیں نکل سکتے، اور نہ اس کی مطلقہ بیوی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ شیخ الاسلام یا شیخ طریقت ہو جاویں، اور جن آداب کو وہ اس کے ساتھ بر تے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ حسب مقدور ان کو ہدایاتے رہتے ہیں۔ اور ان کے اور ان کے گھر کے لوگوں اور ان کے متعلقین کے لئے کپڑے بناتے رہتے ہیں اور یہ سب ان کی خاطر کے لئے کرتے ہیں۔

علی ہذا ان کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ جو معلم ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اس سے بخل نہیں کرتے۔ اور جو کچھ اس کو دیتے ہیں اس کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ ابو زید قیروانی صاحب رسالہ کی حکایت ہے کہ جب ان کے بچے کے معلم نے اس کو ایک منزل قرآن پڑھا دیا تو اسے سود بینا رد یئے۔ اس نے لینے سے عذر کیا اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر میں اتنی بڑی رقم کا مستحق ہوں، تو انہوں نے اپنے بچے کو اس کے پاس سے اٹھا کر دوسرے معلم کے پر دکر دیا اور فرمایا کہ یہ شخص قرآن کو حقیر سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے بھی اپنے معلم شیخ حسن "صلبی" کے ساتھ اسی خلق کے مطابق بر تاؤ کیا ہے۔ چنانچہ میں ان کے انتقال تک ان کے لئے اور ان کے بال بچوں کے لئے کپڑے بنانے کر دیتا رہا۔ اور با اس ہمہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا حق واجب ادا نہیں کیا۔

۹۱۸ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک روز شیخ نشی الدین و سیاطی کے ساتھ جارہا تھا۔ اس اثناء میں انہوں نے ایک نا بینا شخص کو دیکھا جس کو اس کی لڑکی لئے جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر وہ گھوڑے سے اتر پڑے۔ اور اس کے ہاتھ چو مے اور دور تک اس کے

ساتھ ساتھ پیدل گئے، جب وہ لوٹے تو میں نے ان نے اسی شخص کی نسبت کا سوال کیا کہ یہ کون صاحب تھے تو انہوں نے فرمایا: کہ یہ وہ شخص ہیں جن سے میں نے بچپن میں کچھ قرآن پڑھا تھا اور مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں سوار ہو کر ان کے پاس کو نکلوں (یہ حالت تھی ان کے ادب کی)، حالانکہ شیخ شمس الدین مذکور کو جو جاہ و عقیدت و علم و صلاح سلاطین اور ان سے کم درجہ کے لوگوں کے یہاں حاصل تھا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جاہ و عقیدت وغیرہ ان کے ہم عصروں میں سے کسی کو بھی حاصل ہوتی کہ میں نے ایک روز دوفقیروں کے درمیان ان کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگ ہاتھ چومنے کے لئے ان پر ہجوم کئے ہوئے ہیں، اور جوان تک نہیں پہنچ سکتے وہ اپنی چادر کھول کر ان پر پھینکتے ہیں، تاکہ وہ شیخ کے کپڑوں سے چھو جائے اور اس کو چومنے ہیں جس طرح لوگ قاہرہ سے گذرتے وقت غلاف کعبہ کے ساتھ کرتے ہیں۔

پس تم اس کو خوب سمجھ لو، اور اہل ادب کی اقتداء کرو۔ خدا اہل ادب سے راضی ہو۔ والحمد لله رب العلمين.

اپنے اعمال کی تحریر

۳۰۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے متعلق اس کا خیال نہیں کرتے کہ نفل عبادات کا ثواب مستقل طور پر ان کو ملے گا، اگرچہ نوافل کے لئے انہوں نے اس قدر کوشش کی ہو کہ ان کے پاؤں ورم کر گئے ہوں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادتیں صرف اس کمی کو پورا کرنے کے لئے ہوں گی جو ان کے فرضوں میں واقع ہوتی ہے، کیونکہ (ان کے عدم عصمت کے سبب ان کے فرائض میں نقصان کا وقوع ضروری ہے، پھر اس نقصان کی تلافی نوافل سے لازمی ہے۔ پس) نوافل حقیقت میں ان کے ہوتے ہیں جن کے فرائض مکمل ہوں اور ان میں نقصان نہ ہو، (اور وہ صرف جناب رسول اللہ ﷺ ہیں)۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ﴿وَمِنَ الْلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكُ﴾ میں اس طرف اشارہ فرمادیا ہے، اور بتایا دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا تہجد ان

کے لئے فرضوں سے زائد ہوگا (یعنی ثواب میں مستقل ہوگا اور اس سے تکمیل فرائض نہ کی جاوے گی) کیونکہ ان کے فرائض کامل ہیں، اور ان کو جرئت نقصان کی حاجت نہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معموم ہیں اس سے کہ آپ کی عبادات میں کوئی نقص ہو۔

چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطی[ؒ] نے اس مضمون کو اپنی کتاب خصائص اور اس کے سوا دوسری کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیا جاوے کہ کسی ولی کی عبادات بھی نقص سے خالی ہو سکتی ہیں تو وہ بحکم و راثت نبوی ہوگا (لہذا اختصاص کمال عبادات بر رسول اللہ ﷺ میں خال نہ آیا، اور با وجود اس کے یہ شاذ ہوگا۔ اور عام حالت یہ ہی ہو گی کہ لوگوں کے فرائض ناقص اور محتاج جرئت نقصان ہوں گے۔ پس حضرات صوفیہ کا وہ خیال کہ ان کی عبادات کا ثواب مستقل طور پر نہ ملے گا، ٹھیک رہا)۔

میں نے ^(۱) بعض اہل علم کے کلام میں دیکھا ہے کہ فرشتے حق تعالیٰ کے سامنے کسی کے فرائض اس وقت تک نہیں پیش کرتے جب تک کہ نوافل سے ان کی تکمیل نہ ہو جاوے، کیونکہ وہ ناقص چیز کا حق تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا خلاف ادب سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیاوی بادشاہوں کا عملہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، اور جس کے بدن میں کوئی مرض ہو، اس کو حضور سلطانی میں نہیں پیش کرتا تاکہ ناقص پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اور اگر کسی مقرب سلطانی مثل وزیر یا دفتردار وغیرہ میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اسے معزول کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اس کی جگہ مقرر کرتے ہیں، اور جس امر کو لوگ ادب شاہی سمجھتے ہیں وہ ادب حق سبحانہ ہے، کیونکہ شریعت نے بہت سے موقع پر عرف کا اعتبار کیا ہے۔

چنانچہ یہ بات اہل علم کو معلوم ہے۔ پس تم کو چاہئے کہ اس خلق کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ والحمد لله رب العلمين -

ترک انتظار ہدایا

۳۱۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حجاز یا شام وغیرہ

^(۱) نقل قبل اعتماد نہیں اور دلیل ناکافی ہے۔ فافهم۔

سے آنے والے کسی ہدیہ کے مفترض نہیں ہوتے، اور اپنے دل میں یہ خیال نہیں پکاتے کہ فلاں شخص ہم کو فلاں چیز بھیجے گا، بلکہ وہ ایسے خیالات سے خالی الذہن رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر خود وہ لوگ کسی سفر سے آنے والے کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ہمیں بدلتے گا بلکہ وہ اس سے بھی بالکل خالی الذہن ہوتے ہیں اور یہ از قبل سوء ظن نہیں ہے (کہ فلاں شخص احسان فراموش ہے) بلکہ اس کا مشترک طمع ہے، اور اگرچہ^(۱) ان کے اس خیال سے کہ وہ اس کا بدلتے گا سوء ظن لازم آجائے مگر ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ اور آدمی سے مواخذہ اسی بات پر کیا جا سکتا ہے جس کا وہ قصد گھرے (اور جو اس کے بلا قصد لازم آجائے اس پر مواخذہ نہیں)۔

میرے سردار علی خواص جب کسی کو سنتے کہ وہ اشعب طماع کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے یہاں دھواں دیکھتا رہتا تھا (اور جس کے یہاں دھواں نکلتا دیکھتا اس کے یہاں کھانے کو جا پہنچتا،) تو فرماتے کہ خدا اس پر حرم فرمائے، اس کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن ظن تھا (اور وہ سمجھتا تھا کہ میرا کوئی پڑوسی بخیل نہیں ہے، اور مجھے کھانا دینے میں دریغ نہ کرے گا) پس اسے جزاً نہ خیر دے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے ظن نیک میں قابل تعریف ہے اگرچہ اس سے طمع لازم آگئی (اور مدح و وذم کا مدار امر مقصود ہے نہ کہ لازم)۔ اور تم کو سمجھ لینا چاہئے کہ جب تم کسی کے پاس ہدیہ بھیجو، اور تمہیں اس کی عادت سے کہ وہ احسان کیا کرتا ہے، یہ معلوم ہو کہ وہ اس کا بدلتے ضرور دے گا، تو ہدیہ کے ساتھ اپنے قاصد کے ہاتھ اس سے یہ کہلا بھیجننا چاہئے کہ یہ شے اس قابل نہیں ہے۔ کہ اس کے بدلتے کی فکر کی جاوے۔ اور میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ بدلتے کے خیال ہرگز نہ کریں ورنہ میری دل شکنی ہوگی، اور یہ اس لئے ہونا چاہئے تاکہ وہ بدلتے کے خیال کی زحمت سے بچ جاوے اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے لئے سہی۔ ایک

(۱) یہ خیال کرنا کہ فلاں شخص بدلتے گا اور چیز ہے اور بدلتے گیا نہ دینے سے خالی الذہن ہونا اور شے سوئے ظن اول کے لئے لازم ہے۔ نہ کہ ثانی کے لئے اور ان کا خلق صورت ثانیہ ہے نہ کہ اول پس نہ اعتراض پڑتا ہے اور نہ جواب کی ضرورت ہے۔ فاہم۔ ۱۲۔ امترجم۔

مرتبہ میں نے اپنے دینی بھائی شیخ نمس الدین برہم توٹی کے پاس کچھ ہدیہ بھیجا تو انہوں نے اس کے کئی گونہ زیادہ سے اس کا بدله کیا۔ اس سے مجھے اس کی عالی ہمتی معلوم ہوئی لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ ابتداء ہدیہ بھیجننا شرعاً مطلوب ہے (اس لئے آدمی کو ہدیہ کی ابتداء کرنی چاہئے۔ رہا معاوضہ سو وہ تو لوگ خواہ مخواہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ذمہ احسان کون رکھے)، بالخصوص جن دو شخصوں کے دلوں میں باہم عداوت ہو، ان کو تو ہدیہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے، (تاکہ عداوت مبدل ہے مجبت ہو جاوے)۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ باہم ہدیہ کا لین دین رکھو، تم میں مجبت پیدا ہوگی۔ اور عمدہ ہدیہ کا (جو خلوص پر مبنی ہو) اثر یہ ہے کہ اس سے سینہ کا کھوٹ دور ہو جاتا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں بطریق شرعی (یعنی خلوص و محبت) ہدیہ کی ابتداء کرنی چاہئے اور کسی سفر سے آنے والے سے اس کا منتظر ہے ہونا چاہئے کہ وہ ہمارے لئے کچھ لایا ہوگا، اور نہ جس کو تم ہدیہ دو اس سے تم کو بدله کا موقع رہنا چاہئے، اور جب تم اس کے خلاف کرو گے۔ تم اپنے سلف کے طریق سے نکل جاؤ گے۔ اس کو خوب سمجھو۔
والحمد لله رب العالمين۔

مہمان نوازی

۳۲۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مہمان پر سخت تاکید کرتے ہیں کہ وہ کھانا کہیں اور نہ کھائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ ان کے یہاں کھائے گا اپنے مقدار کا کھائے گا (اور اس میں ان کا کچھ نقصان نہیں)۔

شیخ عبدالحیم بن مصلح اپنے مہمان کو قسم دیتے تھے کہ جب تک تم اس شہر میں رہو۔ کسی اور کے یہاں کھانا نہ کھانا اور ان کے اس اصرار کی وجہ سے لوگ ان کے یہاں مہمان بھی کم ہوتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے اس بارہ میں گفتگو کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں اس تاکید سے ہمیں سرخودی ہو جاتی ہے۔ اور مہمان کھانا اپنی قسم کا کھاتا ہے (تو ہم مفت کی بھلائی کیوں نہ لے لیں) اور اگر میں یہ رو یہ اختیار نہ کرتا، اور

لوگوں کو اس قدر تاکید نہ کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر اس کے مقدر میں میرے یہاں کا کھانا لکھا ہوتا تو وہ میری ناخوشی کی حالت میں بھی کھاتا، اور میں اس سے بھی برابر تھا، خدا سے بھی برابر تھا مخلوق سے بھی برابر تھا۔ اہ-

میں نے یہ ہی برداشت شیخ محمد شناوی اور شیخ عبدالرزاق بخاری کی اولاد کے ساتھ کیا تھا، جبکہ وہ میرے یہاں تین مہینہ تک مہمان رہے تھے۔ چنانچہ جب اتفاق سے وہ کہیں اور کھانا کھایتے تو میں ان پر غصہ ہوتا تھا۔ اور اس سے ان کو خوشی ہوتی تھی اور ان کا یہ خیال دور ہو جاتا تھا کہ مجھ پر ان لوگوں کا بارہے، یا انہوں نے مجھ پر بارہال رکھا ہے۔ پس اسے خوب سمجھ لینا چاہئے (اور مہمان سے بھی دل تنگ نہ ہونا چاہئے) والحمد لله رب العلماء۔

اہتمام اکل حلال

۳۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کھانے پینے کے بارے میں نہایت احتیاط کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض حضرات تو اس میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ یہ نہیں جان لیتے کہ یہ کھانا وغیرہ سات یا کم از کم تین آدمیوں کے قبضہ میں حلال طور پر آیا ہے، اس وقت تک وہ اس کو نہیں کھاتے، اور اگر بھی ان کو ایسا کھانا نہیں ملتا تو جب تک ان کے مذا کے موافق کھانا نہ ملے، اس وقت تک بھوکے رہتے ہیں۔

شیخ افضل الدین ان محتاط لوگوں میں آخری شخص ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ جب تک کسی کھانے پر پے در پے سات قبضہ حلال طور پر نہ ہوئے ہوں، وہ اس کو نہ کھاتے تھے (جو شخص ان کو کھلاتا ہے اس کے پاس حلال طور پر آیا ہو، اور جس سے اس نے حاصل کیا، اس کے پاس بھی حلال طور پر آیا ہو۔ غرض سات مرتبہ یوں ہی ہوا ہو)، اور اگر ان کو ایسا کھانا نہ ملتا تو وہ پے در پے کئی کئی روز تک بھوکے رہتے حتیٰ کہ آنسیں شدت جو ع سے ایک دوسرے کھانے لگتیں اور ان کی عقل

اور دین کے برباد ہونے کا اندر یشہ ہو جاتا۔ اس وقت وہ اپنے کو مضطرب قرار دے کر جو مل جاتا تو ہی کھالیتے اور یہ حضرات انتقالات ملک کو کشف کے ذریعہ سے معلوم کر لیتے تھے۔ اور حق تعالیٰ نے مجھ پر بھی ان کے اتباع کا احسان فرمایا ہے مگر سات تو نہیں، ہاں تین انتقالات ملک کی اباحت میں بھی دیکھتا ہوں۔ اور اگر کسی کھانے کی حلت میں مجھ شک ہوتا ہے تو فوراً قہ ہو جاتی ہے اور کبھی حق تعالیٰ خود مطلع فرمادیتے ہیں۔ (کہ یہ کھانا تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے تم اسے نہ کھانا) والحمد لله رب العالمین۔

حافظت مراقبہ نفس

۳۲۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، تاکہ اس میں سے صفات منافقین نکال دیں۔ (اور اس ذریعہ سے) صفات مومنین اس میں پیدا کریں، کیونکہ صفات مومنین خلاف ہیں صفات منافقین کے، (اور اس لئے وہ صفات منافقین کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں)۔ اب صفات مومنین کو سمجھنا چاہئے کہ وہ کیا ہیں؟ سو بعض صفات تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ﴿الْتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْخ﴾ میں اور اپنے قول قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتِہم خاشعونَ الْخ میں۔ اور ان کے مثل دوسری آیات میں بیان فرمایا ہے، اور بعض صفات وہ ہیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، تا وقت تک وہ اپنے بھائی مسلمان کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا تا وقت تک اس کا پڑاؤسی اس کی بلااؤں سے محفوظ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت بلااؤں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا خیانت اور ظلم۔ (اسی طرح دوسری احادیث میں اور صفات مومنین مذکور ہیں)۔

عمر بن الخطاب فرماتے تھے کہ جب تم مجھے دیکھو کہ میں ٹیڑھا چلتا ہوں تو مجھ سیدھا کر دو، اور مجھے نصیحت کرو کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت

کرے۔

یحییٰ بن معاذؓ نے مومن کی کچھ صفات اپنے رسالہ میں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ نہایت شرمیلا ہو۔ اس سے دوسروں کو تکلیف کم پہنچتی ہو، اس میں بہتری زیادہ ہو اور خرابی کم ہو، زبان کا سچا ہو، بات کم کرتا ہو، اعمال صالحہ زیادہ کرتا ہو، لغزش بہت کم کھاتا ہو، لغویات میں کم بتتا ہو، نفع رسان بہت ہو، صدر حمدی زیادہ کرتا ہو، باوقار، اور شکر گزار ہو۔ جب اس پر رزق کی تنگی ہو تو اس وقت بھی خدا سے بہت خوش ہو، بردبار ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم ہو، نہایت شفیق ہو، لعنت کرنے والا اور برا کہنے والا ہو، نہ نام دھرنے والا ہو، نہ غیبت کرنے والا ہو، نہ چغل خور ہو، نہ جلد باز ہو، نہ حاصل ہو، نہ کینہ ور ہو، نہ متکبر ہو، نہ خود پسند ہو، نہ دنیا سے رغبت رکھنے والا ہو، نہ بُمی چوڑی امید یں رکھتا ہو، نہ زیادہ سونے والا اور زیادہ غافل ہو، نہ ریا کار ہو، نہ منافق ہو، نہ بخیل ہو، ہشاش بشاش ہو، نہ دلی الطبع ہو، نہ عیب جو ہو، اور خدا کے لئے محبت کرے اور خدا کے لئے عداوت رکھے، خدا ہی کے لئے خوش ہو، اور خدا ہی کے لئے ناخوش ہو، اس کا تو شہ پر ہیز گاری ہو، اور اس کا مقصود آخرت ہو، اس کا ہمنشین اس کی یاد خدا ہو، اس کا محبوب اس کا مولیٰ ہو، اس کی سعی اس کی آخرت کے لئے ہو۔ اسی طرح انہوں نے تقریباً تین سو اوصاف بیان کئے ہیں۔

مالک بن دینارؓ فرماتے ہیں کہ (اس وقت عدم علامت کی وجہ سے مومنوں اور منافقوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اور سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں لیکن) اگر منافقوں کی دُ میں نکل آئیں (اور مومنین و منافقین میں امتیاز ہو جائے) تو کثرت منافقین کے سبب مومنوں کو چلنے کے لئے زمین نہ ملے (کیونکہ اس وقت عدم تجانس ظاہر ہو جائے گا، اور وہ سبب ہو گا آپس کی مخالفت و مزاحمت کا، اور اس مخالفت و مزاحمت کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مومنین کو چلنے پھرنے کے لئے زمین نہ ملے گی، کیونکہ جہاں وہ جائیں گے وہاں منافقین موجود ہوں گے جو کہ ان کو اپنا غیر جنس سمجھ کر مزاحمت و مخالفت کریں گے، اور یہ لوگ اپنی قلت کی وجہ سے اس مخالفت کی مدافعت پر قادر نہ ہوں گے،

اس لئے چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاویں گے۔ (والله اعلم)۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں صرف ایک بات کہتا تھا تو وہ اپنی نظر میں اس کے ذریعہ سے منافق ہو جاتا تھا۔ اب میں اس بات کو تم سے ایک مجلس میں دس مرتبہ سنتا ہو مگر تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی (کہ یہ اچھی بات ہے یا بُری بات۔ اللہ اللہ کس قدر تقاؤت ہو گیا ہے)۔

حدیث شریف میں ہے منافق کا مطعم نظر صرف کھانا پینا ہوتا ہے۔ اور مومن کا مقصود روزہ، نماز۔

عمر بن عبد العزیز فرماتے تھے کہ مومن کے تو دل میں قوت ہوتی ہے، اور منافق کے ہاتھ میں (کیونکہ مومن اصلاح باطن کے لئے مجاہدات کرتا ہے جس سے اس کے دل میں قوت اور جسم میں ضعف بڑھتا ہے۔ اور منافق اصلاح باطن کو چھوڑ کر تقویت جسم کی فکر میں رہتا ہے، اس لئے اس کے دل میں ضعف اور جسم میں قوت ہوتی ہے۔

حاتم اصم فرماتے تھے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اطاعت خداوندی کرتا ہے اور باوجود اس کے روتا ہے۔ بدیں خیال کہ شاید اس میں کوتا ہی ہو گئی ہو، اور وہ مقبول نہ ہو) اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ عمل کو بالکل بھولا ہوتا ہے، اور باوجود اس کے نہ ہتا ہے (پس یہ اس کا ہنسنا بتلاتا ہے کہ بد اعمال کے برے نتائج و گووہ زبان سے مانتا ہے مگر دل سے ان کو نہیں مانتا، کیونکہ اگر وہ دل سے ان کو مانتا تو وہ اگر بننا بھی چاہتا تو نہ نہ سکتا)۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ مومن چھوارے کا درخت لگاتا ہے مگر اس کو ذرہوتا ہے کہ کہیں بجائے چھواروں کے اس میں کانٹے نہ پیدا ہوں۔ اور منافق کا نئے بوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں چھوارے لگیں۔ انتہی۔

پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے اور مرنے سے پہلے اپنے قلب کی جانچ پڑتاں کر لینی چاہئے، اور اگر اس میں اخلاق منافقین ہوں تو ان پر رونا چاہئے اور بکثرت استغفار کرتے رہنا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

وقت ضرورت جمع مال

۲۵۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ابتدائے سلوک میں درہم و دینار نہیں رکھتے مگر انہا میں خرچ کے لئے ان کو جمع کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ مبتدی ہوتے ہیں تو ان کی حالت شیرخوار بچہ کی سی ہوتی ہے۔ اور بچہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کا دودھ چھڑانے کے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ چھاتیوں پر ایلوں اور غیرہ لگا کر اس کو دودھ سے تنفس کیا جاوے، مگر جب ایلوے کی وجہ سے اس کو دودھ پینے سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ نفرت اس مرتبہ تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے خود دودھ ہی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور ایلوے وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس اسی طرح صوفی کے لئے ابتداء میں دنیا سے نفرت پیدا کرنے کے لئے اس مدیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو روپیہ پیسہ نہ رکھنے دیا جائے، مگر انہائی حالت میں یہ نفرت راخ ہو جاتی ہے۔ اور درہم و دینار اس کے لئے مضر نہیں ہوتے اور اس وقت اس کے لئے یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس روپیہ پیسہ رکھتے تاکہ لوگوں سے مانگنے سے بچا رہے، اور خدا کی راہ میں خرچ بھی کر سکے۔ اسی تفصیل پر محمول کیا جاوے گا ان لوگوں کا قول جنہوں نے دنیا سے ممانعت فرمائی ہے، اور ان کا قول جنہوں نے اس کے رکھنے کا حکم دیا (اور کہا جاوے گا کہ مانعین کا مقصود مبتدیوں کو منع کرنا ہے اور حکم دینے والوں کا مقصود منتہیوں کو حکم دینا ہے۔ لہذا ان میں تعارض نہیں)۔

مسلم نجات فرماتے تھے کہ جب درہم و دینار مسکوک ہوئے تو ابلیس نے ان کو ماتھے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ اور کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ صحیح طور پر میرا بندہ ہے۔ آہ۔ میں (۱) کہتا ہوں یہاں ان لوگوں کا استثناء ضروری ہے جو دنیا کو راہ خدا میں خرچ

(۱) میں کہتا ہوں کہ اس استثناء کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جس صورت کو مستثنی کیا گیا ہے وہاں درہم و دینار محبوب ہی نہیں بلکہ وہاں اتنا ف و اتنا ق درہم و دینار محبوب ہے۔ اور مقولہ ابلیس میں خود درہم و دینار محبوب ہیں۔ فتدبر والله اعلم.

کرنے کے لئے دوست رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اطلاق ہے مقام تفصیل میں (یعنی جب دنیا میں تفصیل ہے، بعض صورتوں میں مذموم ہے اور بعض صورتوں میں محمود مگر اس جگہ اس کو مطلقانہ موم قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی صحیح کے لئے تقليد کی ضرورت ہے۔

بہمن بن حسن درہم و دینار ہاتھ میں نہ رکھتے تھے (بلکہ ان کی یہ حالت تھی کہ ادھر آیا اور ادھر خرچ کیا) اور فرماتے تھے کہ واللہ میں گنیوں کا تھیلا مجھے سونے کی تھیلی سے زیادہ محبوب ہے۔

ابراہیم بن ادہم فرماتے تھے کہ مقام صوفی اس وقت کامل ہوتا ہے جبکہ وہ دینار پر لات مار دے، اور دنیا کے بارے میں اپنے بھائیوں کو اپنے نفس پر مقدم رکھے، بجز اس صورت کے اس کو ان سے زیادہ اس کی ضرورت ہو۔ اور ایک شخص نے ابراہیم بن ادہم سے اس کی درخواست کی کہ مجھے آپ اپنے مریدوں میں داخل کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال کے مجھ سے زیادہ حق دار نہ ہوں گے، اس نے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہ ہو سکے گا اور یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اور تو رات میں ہے کہ محبت دنیا کے قلب پر حرام ہے کہ وہ حق کہے (یعنی حب دنیا اور حق کہنا جمع نہیں ہو سکتے)۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے کہ خوب جان لو کہ درہم بچھو ہے، اور جس کو اس کا منتر نہیں آتا، اس کا زہر اسے مارڈا تا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کا منتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا منتر یہ ہے کہ جائز طور پر حاصل کیا جاوے اور صحیح موقعہ پر صرف کیا جاوے۔

سمیط بن عجلان فرماتے تھے کہ دراہم منافقین کی باگیں ہیں، جن کے ذریعہ سے شیطان ان کو مہا لک کی طرف کھینچتا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ آدمی اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نظر میں سونا اور مٹی برابر نہ ہو جاوے۔

شقین بلجی فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا ملنے سے خوش ہو وہ منافق ہے۔ ان کی مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا سے بے رنجتی ظاہر کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کھلم کھلا دنیا دار

ہیں ان پر حکم نفاق نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اختلاف ہو، اور وہ ان لوگوں میں موجود نہیں)۔

علی بن ابی طالبؑ درہم کو ہاتھ میں لے کر فرماتے تھے ہے تجھ درہم پر کہ جب تک تو صرف نہ ہو تجھ سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جب درہم حرام دروازہ سے داخل ہوتا ہے تو حق روشنداں سے نکل جاتا ہے۔ کسی نے مذاق میں کہا کہ حضرات اگر روشنداں بند کر دیا جائے تو پھر کیسے نکلے گا؟ آپؐ نے فرمایا کہ جہاں کوموت آئے گی اس راستے سے نکل جائے گا۔ علاء بن زیاد فرماتے تھے کہ عالم اسی وقت کامل ہو سکتا ہے جبکہ وہ دنیا اور عورتوں سے پرہیز کرے (مگر طریق حلال مستثنہ ہے)۔
سفیان ثوریؓ اکثر یہ اشعار پڑھتے تھے۔

انی وجدت فلا تظنوا غيره
ان التورع عند هذا الدرهم
فاذ وقدرت عليه ثم تركته
فاعلم بان تقى تقوى المسلم

یعنی مجھے تحقیقی طور پر معلوم ہو چکا ہے۔ لہذا تم اس کے خلاف نہ مجھنا کہ ورع روپیہ کے موقع پر قابل اعتبار ہے۔ پس جب تم اس پر قادر ہو جاؤ اور باوجود اس کے اس پرلات ماردو، اس وقت صحبو کہ ہمارا تقویٰ پچ مسلمانوں کا تقویٰ ہے (اور جب تک یہ بات نہ ہو، اس وقت تک تقویٰ نہیں ہے بلکہ صرف تقویٰ کا دعویٰ ہے) پس تم کو چاہئے کہ ضرورت سے زائد دنیا سے بچو۔ اس سے بے رغبتی میں اپنے سلف کا اتباع کرو۔ اس سے تم اس کی آفتوں سے محفوظ رہو گے۔ والحمد لله رب العالمین۔

خیر خواہی مرید

۳۶۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مرید کے لئے اللہ

تعلیٰ کی اطاعت کو اپنی خدمت پر مقدم رکھنے کو پسند کرتے ہیں، اور اس بناء پر جب وہ

اپنے کسی مرید کو بلا میں اور وہ تلاوت قرآن یا ذکر اللہ میں مشغول ہونے کے سبب نہ آوے تو (ان کو ناگواری نہیں ہوتی، کیونکہ) طاعت خداوندی ان کے نزدیک ان کی ضرورتوں سے خواہ وہ بہت ہی ضروری ہوں، جیسے آٹا پیمنا یا روتی پکانا وغیرہ مقدم ہوتی ہے، اور یہ وہی خلق ہے جس پر وہی لوگ عمل کرتے ہیں جن میں رعونت نہیں ہے۔ اور جن کو حق تعالیٰ کی خوشی اس قدر محبوب ہے کہ وہ اس کو اپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں (رہے وہ لوگ جن کی یہ حالت نہیں ہے سو وہ مرید کے اس فعل کو گستاخی اور نافرمانی سمجھ کر اس سے ناخوش ہوتے ہیں)۔

(اب میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو اس مقام کے مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ) میرا درود شریف کے بارے میں ایک خاص معمول تھا۔ اتفاقاً ایک شب ذکر میں مجھے بڑا مزہ آیا اور میں اسی میں لگا رہا۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ درود شریف کا معمول چھوٹ گیا۔ مجھے اس سے بہت شرمندگی ہوتی، کیونکہ مجھے جناب رسول اللہ ﷺ سے شرم آئی (کہ آپ فرمائیں گے کہ ہمیں بالکل بھول گیا)۔ خیر جب صحیح ہوتی تو میں نے اس واقعہ کو اپنے شیخ علی خواص کے سامنے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ندامت اور شرمندگی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ امر یقینی طور پر معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو خدا سے اپنے نفس سے زیادہ محبت ہے۔ اور جب واقعہ یہ ہے تو اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس واقعہ سے تکدر ہوا ہو گا بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ آپ کو ذکر اللہ سے بہ نسبت درود کے زیادہ خوشی ہوتی ہوگی۔ علاوه ازیں درود میں بھی تو ذکر اللہ ہوتا ہے (پھر اگر ذکر اللہ کی جگہ تم نے دوسرا ذکر اللہ کر لیا تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی جس سے آپ کی ناخوشی کا شبہ ہو۔ اس واقعہ کی مناسبت اس مقام سے ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت سے زیادہ ذکر اللہ سے ناخوش ہوتے ہیں) اور اسی طرح اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ شیخ کو چاہئے کہ مریدوں کو درود شریف میں مشغول دیکھ کر اس سے زیادہ خوش ہو جتنا کہ اس کو یہ کہتے سن کر خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے شیخ پر حرم فرم اور اس کو بخش دے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ

جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس ہر شیخ کو اپنی ذات اور اپنے گھر کے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

ترجیح دین بر دنیا

۲۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر مقدم رکھتے ہیں، اور اس بناء پر صبح کی نماز کے بعد اپنے معمول کو دوسری ضروریات پر مقدم رکھتے ہیں جس طرح کہ وہ سردی کی رات میں تہجد کو لحاف میں سونے پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور سلف صالح کا یہی معمول رہا ہے۔

لہذا جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اس کا اصلی مقصد دنیا ہو، وہ ان کے طریق سے خارج ہے۔

ایک مرتبہ میں نے ایک شیخ کو دیکھا کہ وہ سیر کے لئے باعث کو جانا چاہتا ہے۔ اور اس لئے اس نے روز کے معمول اور صبح کی جماعت کو چھوڑ دیا ہے اور صوفیہ کی وضع پر صوف کا عمامہ باندھے ہوئے ہے۔ اور شملہ بھی چھوڑ رکھا ہے۔ تب میں نے اس سے کہا کہ برادر اگر تم دہاریوں دار عمامہ باندھتے، اور دہاریوں دار کپڑا پہنتے۔ جیسا کہ رند لوگ کرتے ہیں۔ اور بائیں ہمہ تم نماز صبح با جماعت ادا کرتے۔ اور اپنا معمول پورا کرتے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا۔ یہ سن کر وہ خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔

یونس بن عبید الرحمن اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کے نزدیک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ دنیا و ما فیہا سے بہتر نہ ہو وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا سے رشتہ کرے گا وہ اس سے مہر میں اس کا پورا دین مانگے گی، اور بدون اس کے اس سے خوش نہ ہوگی۔

شیخ ابو الحسن شاذلیؒ فرماتے تھے کہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے۔ پس جو شخص اس سے رشتہ کرے گا۔ اس کے باپ شیطان کی آمد و رفت اس کے بیہاں زیادہ ہو گی اب

اگر وہ شخص اس سے ہم بستر بھی ہو گا تو اس کے یہاں وہ بالکل رہ پڑے گا۔ آہ۔ میں کہتا ہوں کہ رشتہ سے مراد اس جگہ دنیا کی آرزو ہے۔ اور ہمستری سے مراد اس کا بلا غرض شرعی اور بلا ضرورت گھر میں رکھنا ہے۔ واللہ اعلم۔

پس اس سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ باوجود اس کی بیٹی سے شادی کر لینے کے شیطان اس کے پاس نہ رہے۔ وہ طالب محال ہے (اور یہ امر بالکل ناممکن ہے پس جو شیطان سے بچنا چاہے اس کا طریق یہی ہے کہ دنیا سے دور رہے) اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دل سے دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کو نماز میں وضو میں غرض تمام اعمال صالح میں بہت سے شیطانی وساوس آتے ہیں۔ والحمد لله رب العلمین۔

سخاوت و انفاق مال

۳۸- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ اپنے بعد ان کو اپنے بچوں وغیرہ کی بر بادی کا اندر یہ نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے ان کا قاعدہ تھا کہ جس قدر دنیا ان کے ہاتھ میں آتی۔ وہ اس کو فوراً خرچ کر دالتے۔ اور ان درختے کو چھوڑ رکھتے۔ اور اگر ان کو اپنے بال بچوں کی بر بادی کا خوف ہوتا۔ تو ان پر حرص۔ بخل اور خست مسلط ہو جاتے۔ اور وہ صوفیہ کی صفات کے دائرہ سے نکل جاتے (اس سے معلوم ہوا کہ اگر حرص و بخل وغیرہ سے محفوظ رہ کر اپنے بال بچوں کا خیال رکھے تو نہ موم نہیں)۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اولاد بخیل اور بزدل بنادینے والی ہے (کیونکہ ان کے خیال سے نہ آدمی مال بے دریغ صرف کر سکتا ہے۔ اور نہ خدا کے لئے جان بے دریغ دے سکتا ہے)۔

نیز حدیث شریف میں ہے کہ تیرا مال وہی ہے جو تو آگے بھیج دے یعنی خدا کے لئے صرف کر دے۔ اور جو تو پیچھے چھوڑ دے وہ تیرا نہیں بلکہ تیرے وارثوں کا ہے۔ حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ اولاد آدم خوب خرچ کرو۔ اور ان پھاڑنے والے درندوں یعنی اولاد بیویوں اور دوسرے رشتہ داروں اور خادموں سے دھوکا نہ

کھاؤ۔ کیونکہ تمہاری اولاد بمنزلہ شیر کے ہے۔ جو تمہاری مملوکات میں تم سے جھگڑتی ہے۔ تاکہ ان کو خود لے بیٹھے اور تمہیں ایک حبہ نہ دے۔ کیونکہ نہ وہ مرنے کے بعد اس کو تمہاری طرف سے خود صدقہ کرے گی۔ اور نہ تمہاری زندگی میں اس کو تمہارے قبضہ میں رہنے دے گی۔ تاکہ تم خود خدا کی خوشنودی کے لئے اس کو خرچ کر جاؤ۔ رہیں تمہاری بیویاں سوان کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کتنا جو تمہارے سامنے دم ہلاتی اور کوں کرتی ہے (یعنی اولاد ذور سے وصول کرتی ہے اور بیوی خوشامد و ناز و انداز سے لبھاتی ہے) رہے اور رشتہ دار سوان کی یہ حالت ہے کہ ایک درہم جو تمہارے مرنے کے بعد انہیں ملے گا۔ وہ ان کو تمہاری زندگی سے زیادہ عزیز ہوگا۔ رہا تمہارا خادم سو وہ چال بازی اور چوری میں لومڑی کی مثل ہے۔ پس جب سب کی حالت معلوم ہو گئی تو ان سے محبت کی توقع نہ رکھو اور نہ ان کے لئے مال جمع کرو اور نہ اپنی کمر پر عاقبت کا بو جھر کھو۔ کیونکہ یہ سب لوگ تم سے دھوکا کر رہے ہیں۔ (جو اس وقت دوستی ظاہر کر رہے ہیں) اور حقیقت یہ ہے کہ جب تمہیں قبر میں رکھ دیں گے تو اپنے گھر واپس آ کر کپڑوں کو خوبصورتی میں بسائیں گے۔ اور بیویوں سے ہم آغوش ہوں گے اور خوب کھائیں پیسیں گے۔ اور تمہارے مال پر خوب اکڑیں گے (اور تمہیں بھول کر بھی یاد نہ کریں گے اور سب پر طرہ یہ ہوگا کہ مزہ وہ اڑائیں گے) اور باز پرس اس کی تم سے ہوگی۔

ابو حازم فرماتے تھے کہ خوب خرچ کرو۔ اور اپنی اولاد کی بربادی کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ اگر وہ مومن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب روزی دے گا اور اگر فاسق ہوں گے تو تم ان کے فسق پر ملنے مال سے ان کی اعانت نہ کرو۔

سالم بن ابی الجعد کا قاعدہ تھا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا جاتا۔ وہ برابر اس کو خرچ کرتے رہتے۔ ایک روز ان کی بیوی نے ان کو ملامت کی (اور کہا کہ تم میں یہ کیا بری عادت ہے کہ جو آتا ہے سب خرچ کر ڈالتے ہو) تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں دنیا سے اچھی حالت میں چلا جاؤں (اور تم کو بری حالت میں چھوڑ جاؤں) تو یہ اس سے اچھا ہے کہ میں بری حالت میں جاؤں اور تم کو اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ۔

محمد بن یوسف فرماتے تھے کہ اپنے نیک بھائی پر خرچ کرو۔ اور اپنے ورثاء کے لئے مال چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ وہ نیک بھائی تمہارے لئے تمہارے وارثوں سے زیادہ نافع ہے: کیونکہ جب تم قبر میں مدفن ہو گے اس وقت وہ تمہارے احسانات کو یاد کر کے تمہارے لئے دعا کرتا رہے گا۔ اور اس کا نتیجہ ممکن ہے کہ یہ ہو کہ جب تم قیامت کے روز قبر سے نکلو تو اس کی دعا کی بدولت تم پر ایک بھی گناہ نہ ہو) رہے تمہارے وارث سوان کی یہ حالت ہے، کہ مال بانٹ لیں گے۔ اور تمہیں بھول جائیں گے اور تمہارا کچھ احسان بھی نہ مانیں گے اور کہیں گے کہ یہ مال ہم کو خدا نے دیا ہے۔ اس کا کیا احسان ہے۔

مالک بن دینار کچھ بھی گھر میں نہ رکھتے تھے۔ بجز ایک نماز کے بورے اور ایک قرآن اور وضو وغیرہ کے لوٹے کے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کو ایک نیا مشکل زہ دے دیا تو جب صحیح ہوئی تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو دے دیا۔ اور فرمایا کہ بھائی تم اسے لے جاؤ۔ کیونکہ اس خیال سے کہیں کوئی اسے چرانہ لے میرا دل اس میں پڑا رہا۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دوست سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ بھوک سے اس کی آنکھیں گڑ گئیں تھیں۔ تب میں نے دو درہم نکالے اور کہا کہ یہ لو۔ ان کا کچھ خرید کر کھالیں۔ تاکہ تمہیں عبادت کے لئے قوت حاصل ہو۔ اس پر اس نے ان کے لینے سے انکار کیا۔ اور کہا کہ خدا تعالیٰ عبادت کی قوت بغیر کھائے پینے بھی دے سکتا ہے، اور اگر میں ان کو لیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کسی رات کو میرے پاس نہ رہ جاویں اور میں بلا کچھ خریدے ہوئے ہی مر جاؤں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو لوگوں کو آپ کے گھر میں نہ کوئی دینار ملا تھا۔ اور نہ درہم۔

محمد بن کعب قرظی کا جس وقت انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنا سب مال خرچ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لئے اس میں سے کچھ کیوں نہ رکھ لیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میرا اپنے لئے جمع کرنا بال بچوں کے

لئے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ رہے بال بچے سو میں نے ان کے لئے فضل خداوندی رکھ چھوڑا ہے۔ سید بن معاذ فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا کی رسوانی اور اس کی محتاجی سے ڈرتے ہیں۔ مگر ہمیں آخرت کی رسوانی اور محتاجی کا خیال نہیں ہوتا۔ حالانکہ آدمی قیامت میں اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہونے کے سبب لوگوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہو گا پس نہایت برآ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ خرچ اور کھانے پینے کی فکر نے عاقلوں کے قلوب کو ہر بھلائی سے روک دیا ہے۔ ورنہ بخدا ایک درہم جو آدمی خیرات کرتا ہے۔ ان ہزار درہم سے بہتر ہے جو مرنے کے بعد چھوڑ جائے۔

مدائی فرماتے تھے کہ اولاد کو ادب کا وارث بنانا۔ ان کو مال کے وارث بنانے سے بہتر ہے۔ کیونکہ ادب سے ان کو مال و جاہ۔ اور لوگوں کی محبت حاصل ہو جاوے گی۔ اور وہ ان کے لئے دنیا و آخرت کی بہبودی اکھٹا کر دے گا۔ رہا مال سو وہ بہت جلد فنا ہو جاوے گا اور اس کے جاتے رہنے کے بعد وہ دنیا و آخرت دونوں سے محروم ہو جاوے گے۔ اور ہم نے اس مال کا جو لوگوں کو میراث میں ملتا ہے اکثر تجربہ کیا ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس میں کچھ خیر و برکت نہیں۔ کیونکہ وہ وارث کا کمایا ہوا نہیں ہوتا (جس کا درد ہو۔ اس لئے وہ مال مفت دل بے رحم کا مصدق ہوتا ہے) نیز با اوقات مورث اس مال کو اپنے اعزہ وغیرہ پر صرف کرنے میں بخیل ہوتا ہے (اور اس لئے وہ تیار رہتے ہیں کہ یہ مرے تم ہم اسے اڑائیں۔ پس جب وہ مرتا ہے تو وارثوں کی بہت دونوں کی تمنا پوری ہوتی ہے۔ اور خوب دل کھول کر اپنے ارمان نکالتے ہیں۔ اس لئے وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے) پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے (مال جمع کرنے کا اہتمام نہ کرنا چاہئے)۔ والحمد لله رب العالمین۔

زیارت قبور

۲۹۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔

میں ایک مرتبہ بھی وہ وقت آجائے کہ آدمی صرف خدا کے لئے روئے تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ آہ۔ میں کہتا ہوں کہ آدمی کے رونے کا مقام اسی وقت کامل ہوتا ہے۔ جبکہ اس کارونا آنکھ اور دل دونوں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ صرف ایک سے رونے والا ناقص ہے۔ بالخصوص جبکہ وہ شیخ ہو۔ اور اس کے قبیعین بھی ہوں۔ اس کو تو زیادہ ضرورت ہے دونوں سے رونے کی۔ کیونکہ دل کے رونے کو اس کے قبیعین نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے اس کو ضرورت ہوتی ہے آنکھ سے رونے کی (تاکہ ان پر اثر ہو) اگرچہ اس کا مقام اس سے ترقی کر گیا ہو۔ واللہ اعلم۔

ایک شخص صلت بن اشیم کی مجلس میں ریا کے لئے رویا۔ اور اتنا رویا کہ لوگوں کو اس پر ترس آیا اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ جاؤ اپنا معاوضہ انہی سے لو۔ جن کی نسبت تم پسند کرتے تھے کہ وہ تمہیں روتے دیکھیں۔

سعیط بن عجلان فرماتے تھے کہ سفیان ثوری جس وقت روتے تھے تو آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پھراتے رہتے ان کو نکلنے نہ دیتے اور فرماتے کہ اس سے سوز و رنج قلب میں باقی رہتا ہے (اور جی کھول کر رونے سے بھڑاس نکل جاتی ہے اور سوز و غم کا دل میں باقی رہنا اس کے نکلنے سے زیادہ مفید ہے۔)۔

عمر بن عبد العزیز جس وقت رونا شروع کرتے تو ان کی بیوی ان کے بچے ان کے خدمت گار سب رونے لگتے۔ اور ان کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ کیوں رور ہے ہیں۔ صالح مری فرماتے کہ گناہ دلوں کو چوپٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کا علاج صرف رونا ہے۔

شعیب بن حرب ایک مرتبہ طاؤس کی مجلس میں روئے حتیٰ کے اور وہ کو بھی رُلا دیا اور یہ سمجھے کہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ اس پر طاؤس نے فرمایا کہ بھائی جان یہ سمجھ لوا کہ اگر صرف ایک گناہ پر تم اور تمہارے ساتھ آسانوں اور زمین کی تمام مخلوقات روئی تو یہ بھی کم تھا۔ پھر تم کیسے خیال کرتے ہو کہ تمہارے اکیلے رونے سے تمہارے سارے گناہ مٹ جاویں گے۔

کرتا ہوں۔

عمر بن عبدالعزیزؓ اپنے آباؤ اجداد بنی امیہ کی قبروں کی زیارت کرتے اور فرماتے کہ اے میرے باب دادا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کبھی دنیا والوں کے ساتھ لذت اور تنعم میں شریک ہی نہ تھے۔ اور فرماتے تھے کہ ان قبروں کی ظاہری حالت کیسی اچھی ہے۔ مگر ان کے اندر مصیبتیں بھری پڑی ہیں (کیونکہ اکثر بنی امیہ دین میں کمزور تھے)۔ حسن بصریؓ نے ایک مرتبہ کسی کو قبرستان میں ہنستے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ میت کا سات روز تک قبر میں امتحان ہوتا ہے اسی بناء پر لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے کہ وہ ان ایام میں اس کی طرف سے صدقہ دیں۔ تاکہ اس کو مدد پہنچے۔ اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب تلقین کر دیا جائے (اس سے رسومات مروجہ پر استدلال نہ کیا جاوے کیونکہ اول تو سفیان تک اس روایت کا ثبوت نہیں معلوم، دوسرے یہ نہیں معلوم کہ سفیان کو یہ روایت کس طریق سے پہنچی ثالثاً جو طریق لوگوں نے اعانت کا اختراع کیا۔ اس کی شریعت میں کچھ اصل نہیں۔ رابعاً جس طریق سے اس زمانے میں ایصال ثواب کیا جاتا تھا آجکل اس طریق سے نہیں کیا جاتا۔ بلکہ محض رسمی طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں دیگر مفاسد اعتقادیہ و عملیہ بھی شامل ہو گئے۔ فافہم ۱۲ مترجم)۔

عبداللہ بن عمرؓ فرماتے تھے کہ ایک قبرستان پر میرا گذر ہوا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر میں سے ایک شخص نکلا جس کے جسم پر سر سے پاؤں تک آگ لگی ہوئی تھی۔ اور اس نے مجھ سے کہا۔ کہ عبد اللہ مجھے پانی پلا دے۔ میں نہ کہہ سکتا کہ اسے میرا نام معلوم تھا۔ یا اس نے اس طرح کہا جیسے کوئی ناواقف شخص دوسرے کو اللہ کا بندہ کہہ کر پکارتا ہے۔ غرض میں نے اسے پانی پلانے کا ارادہ کیا۔ تو اس شخص نے جو عذاب کے لئے اس پر مسلط تھا۔ مجھ سے کہا کہ اسے پانی نہ پلانا۔ اور وہ برابر اسے کوڑے سے مارتا

رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی قبر میں واپس چلا گیا اور قبر بند ہو گئی (یہ روایت سراسر گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس پر اعتقاد نہ چاہئے ۱۲ متر جم)۔

عطاءؓ سلمی اکثر عشاء کے بعد قبرستان جاتے۔ اور صبح تک باتیں کرتے۔ اور صبح کے وقت لوٹ آتے۔ ان کی گفتگو یہ ہوتی۔ اے قبرستان والو تم مر گئے۔ ہائے رے موت (تو مجھے بھی نہ چھوڑے گی) اور تم نے اپنے اعمال کا مشاہدہ کر لیا ہائے رے برے اعمال (تم کیسے برے ہو غرض اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں)۔

ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرؓ کا ایک مقبرہ پر گذر ہوا تو آپؓ نے اپنی چادر بچھائی دو رکعتیں پڑھیں۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا۔ آپؓ نے فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ اہل قبور عبادت سے روک دئے گئے ہیں۔ لہذا میں نے چاہا کہ ان کے درمیان دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں (تاکہ ان کی برکت ان تک پہنچے)۔

ابوالدرداءؓ فرماتے تھے کہ جب تمہارے اعمال تمہارے مردوں تک پہنچتے ہیں، تو کبھی تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور کبھی رنج (خوشی تو اچھے اعمال سے ہوتی ہے اور رنج برے اعمال سے) اور فرماتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ایسے اعمال سے پناہ مانگتا ہوں۔ جن سے مردوں میں میرے مردے رسوا ہوں۔

حسن بصریؓ جب کسی کی میت کے دفن میں شریک ہوتے تو بیہوش ہو جاتے اور بیہوش آنے کے بعد فرماتے کہ جس شے کا آخر یہ ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کے اول سے دل نہ لگایا جاوے۔ اور اس کے آخر سے ڈرتا رہے (مطلوب یہ کہ حیات اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دل بستگی پیدا کی جاوے۔ اور موت سے ڈرتے رہنا چاہئے) نیز جاننا چاہئے کہ حضرات اہل اللہ کے اخلاق میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی حیات میں اپنی قبر تیار کریں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ادب کرتے ہیں۔ وما تدری نفس بای ارض تمومت۔ یعنی کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا۔ اور کہاں دفن ہوگا (اور چونکہ مقصود ان کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ضرور یہیں مرسیں گے اور اسی جگہ دفن ہوں گے ورنہ کفر ہوتا۔ بلکہ یہ قبرِ خود نامحض بناءً علی الظاہر ہوتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہیں

مرجاویں تو ہمیں اسی قبر میں دفن کیا جاوے۔ اس لئے ترک ادب کہا گیا۔ کیونکہ بظاہر اس میں معاوضہ کی صورت ہے) مگر ہم تک یہ خبر پہنچی ہے (واللہ اعلم صحیح ہے یا غلط) کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے آدمیوں کی محبت میں دبر سمعان میں اپنی قبر خود کھو دی تھی۔ اور عمر بن عبد العزیز قبر کھو دتے تھے۔ اور ان کے آدمی مٹی اٹھاتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو گئے اور ساتویں روز اسی میں مدفن ہوئے (سو اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو یہ ایک شاذ واقعہ ہے۔ جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بزرگوں کی عادت یہ تھی۔ تاکہ اس سے احتجاج کیا جاسکے)۔

اسی طرح ہمیں بنی خolan کے دو شخصوں کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قبر اپنی حیات میں قرافہ خطر کے دروازہ پر کھو دی تھی اور سنگ مزمر کی سل پر اپنا نام کندہ کیا تھا اور یہ لکھا تھا کہ وہ وحدانیت خدا اور رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں۔ اور میں نے اس کتبہ کو اپنی سیاحت کے زمانہ میں پڑھا ہے۔ اور نہ کوئی اپنی قبر پر قبہ بناتا تھا اور نہ کوئی اپنے لئے کوئی خاص جگہ تیار کرتا تھا اور نہ کوئی اپنے لئے دیوار مزین کرتا تھا۔ اور نہ کوئی اپنے لئے قبر کے درجوں میں قمری پالتا تھا جیسا کہ آج کل کے صوفیوں میں یہ بلا پیدا ہو گئی ہے۔ اور بسا اوقات یہ تمام چیزیں ظالموں کے مال سے بنائی جاتی ہیں (اور اس لئے علاوہ بدعت کے ان میں ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے) پس اے نیک بھائی تجھے ان باتوں سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میت یعنی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے۔ حالانکہ قبر والے دوزخ میں جلتے ہوئے ہیں (پس تمہیں کیا خبر کہ مرنے کے بعد تمہاری کیا حالت ہو گی۔ جو قبر وغیرہ بنائے کرو گوں کو اپنی بزرگی کا یقین دلاو۔ اور انہیں دھوکا دو)۔

میں نے مشائخ عجم میں سے ایک شیخ کو دیکھا جس نے اپنی کتابیں اپنے کپڑے اپنے گھر کا سامان بیچ کر اپنے لئے ایک قبر۔ ایک تابوت پر وہ اور شیخ^(۱) وغیرہ مضاف ایسے کے تعداد سے اتنا تو معلوم ہوا کہ ذی صوت میں تعدد ممکن ہے مقید سے مطلق مراد اے کہ صوت طبوں مراد یا جاوے جو اُشراولیا کے مزارات پر معتاد ہیں یعنی دروازہ پر نقارے نکھوادے۔ واللہ اعلم۔ مترجم۔

(۱) مترجم نے اس کو بلا ترجمہ چھوڑ دیا فارس میں شیخ کے معنی صوت صلاح و صوت فرطاء کے لکھے ہیں مضاف ایسے کے تعداد سے اتنا تو معلوم ہوا کہ ذی صوت میں تعدد ممکن ہے مقید سے مطلق مراد اے کہ صوت طبوں مراد یا جاوے جو اُشراولیا کے مزارات پر معتاد ہیں یعنی دروازہ پر نقارے نکھوادے۔ واللہ اعلم۔ مترجم۔

بنائے۔ اور ان چیزوں پر رقم کثیر صرف کر دی۔ اس کے بعد قبر کے دروازہ پر یہ اشعار لکھے:

وقف على الباب خاضعا
وحسن الظن وارتج
 فهو باب مجرب
لقضاء الحوانج

یعنی دروازہ پر جھک کر کھڑے ہو اور نیک گمان رکھو اور حصول مدعای کے امیدوار ہو یہ دروازہ حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے بارہا کا آزمایا ہوا ہے (خلاصہ یہ ہے کہ ان اشعار میں لوگوں کو ترغیب دلائی ہے تاکہ وہ آئیں۔ اور آ کر منتیں مانیں۔ اور شیخ صاحب سے اپنے حصول مدعای کی درخواست کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کو ادب بھی سکھلایا ہے جو یہ ہے کہ دروازہ پر آ کر آداب سے کھڑے ہو۔ اور دل میں خیال رکھو کہ پیر صاحب ہماری حاجت پوری کر دیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کوئی اس قبر اور اس تحریر کو دیکھتا۔ وہی ان پیر صاحب پر ہنستا۔ اور کہتا کہ یچارے کو یہ اندیشہ ہوا کہ مرنے کے بعد کوئی نہ پوچھے گا۔ اس لئے اس نے زندگی ہی میں یہ تدبیر کر دی کہ (ناواقف دھوکا کھا کر پھنس جائیں اور ایک دو کی اتفاقی طور حاجتوں کے پورا ہو جانے سے) وہ پیر مشہور ہو جائیں (اور سجادہ نشینوں اور مجاہروں کے گھرے ہو جائیں) اور یہ سب دھوکہ دی اور بزرگوں کے ساتھ تمثیر کا درازہ کھولنا ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العلمين۔

کثرت ذکر الہی

۵۰- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ذکر اللہ اور درود شریف سے غافل نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں۔ کہ جو لوگ کوئی ایسی نشست کریں گے جس میں نہ وہ خدا کا

ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں۔ وہ نشست ان کے لئے قیامت میں ضرور موجب مواخذہ و انتقام ہوگی۔ نیز وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں۔ کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی۔ بجز اس ساعت کے جوان پر یوں گذری ہے کہ جس میں انہوں نے ذکر اللہ نہیں کیا۔ آہ۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے فاذ کرو نی اذکر کم (یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) فرمایا کہ اس میں کسی خاص جگہ کی قید نہ لگا کے ہمارے لئے آسانی کر دی ہے (جو کہ اس کا نہایت احسان ہے لیکن اگر وہ ذکر کے لئے کوئی جگہ مقرر فرمادیتے۔ جیسا کہ انہوں نے حج کے لئے کعبہ مقرر فرمادیا ہے۔ تب بھی ہم پر اس کی طرف جانا اور وہاں جا کر ذکر اللہ کرنا واجب ہوتا۔

اگرچہ وہ مقام سو برس کی مسافت پر ہوتا۔ پس اس کا شکر ہے اور احسان ہے (اور جب واقعہ یہ ہے تو جو لوگ اس آسانی کی حالت میں خدا کا ذکر نہیں کرتے، وہ کیونکر معدود ہوں گے)۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ جب تم اپنی مجلسوں میں مخلوق کا ذکر کیا کرو تو خدا کا ذکر بھی کر لیا کرو۔ کیونکہ ذکر خدا ذکر مخلوق کی یہماری کی دوا ہے۔

جو شخص ابرہیم بن ادہم کی مریدی کا قصد کرتا آپ اس سے شرط کر لیتے کہ بھائی ہماری مجلس میں ذکر اللہ سے غافل نہ ہونا۔

عطاء سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گنہگار کو چاہئے کہ خدا کا ذکر توبہ و استغفار کے بعد کرے۔ کیونکہ گنہگار جب گناہ پر مصر ہوتا ہے اور اس حالت میں خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر اس پر لعنت کرتا ہے۔ آہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ گفتگو حضرات صوفیہ کے مشرب پر ہے۔ اور ان کا مشرب یہ ہے۔ کہ جب وہ ذکر اللہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے پہلے بوجہ احتیاط کے اور بدیں خیال کہ شاید انہوں نے اپنے نفس پر کسی قسم کا ظلم کیا ہو۔ خواہ ارتکاب مکروہ سے خواہ غفلت سے خواہ مذموم و سو سہ سے۔ الی غیر ذالک توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

داود طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے وہ پیاسا ہوتا ہے بجز ذاکرین کے (کہ وہ پیاسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ذکر اللہ سے سیراب ہوتے ہیں)۔

وہب بن الور فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ خدا کا مقرب وہ ہے جو مجلس کو ذکر اللہ سے شروع کرے (کیونکہ سب سے اول اس کا ذکر اللہ شروع کرنا دلالت کرتا ہے اس پر کہ وہ خدا کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور یہ دلیل ہے اس کے سب سے زیادہ تقرب کی) اور ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں جان لیتا ہوں جب خدا مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا یہ کیسے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا پس جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ مجھے یاد فرماتے ہیں۔

ابو علیح کا قاعدہ تھا کہ جب وہ ذکر اللہ کرتے تو وجود میں آ جاتے اور فرماتے کہ مجھے اس پر وجود آتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا نیزان کا قاعدہ تھا کہ جب وہ راستہ میں چلتے ہوتے اور کسی وجہ سے خدا کی یاد سے غفلت ہو جاتی تو پھر لوٹتے اگرچہ ایک منزل طے کر چکے ہوتے اور دوبارہ یادِ الہی کے ساتھ چلتے اور فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس جس زمین پر میں چلوں قیامت میں تمام میرے ذکرِ اللہ کی شہادت دیں۔

داود علیہ السلام فرماتے۔ کہ اے اللہ مجھے اپنے یاد کرنے والوں میں رکھنا۔ اور جب کہ تو مجھے دیکھئے کہ میں ذاکرین کی مجلس سے انھ کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوں تو تو میرا پاؤں توڑ دینا یہ تیرا مجھ پر انعام و احسان ہو گا۔

یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صاحبو دلوں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں نئے سرے سے خدا کی یاد دلاتے رہو، کیونکہ وہ بہت جلد غافل ہو جاتے ہیں۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ لوگ بھی عجیب ہیں۔ اس پر روتے ہیں جس کا جسم مر گیا ہو۔ اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو گیا ہو حالانکہ دل کا مردہ ہونا جسم

کے مردہ ہونے سے زیادہ سخت حادثہ ہے۔

تسبر بن منصور لوگوں کے ساتھ نشت برخاست بہت کم رکھتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ اکھٹا ہونا غفلتوں کے نزول کا مقام ہے (یعنی جب دو یا زیادہ آدمی اکھٹے ہوتے ہیں تو ان پر مختلف وجوہ سے غفلتیں طاری ہوتی ہے) اور فرماتے کہ بخدا جب کوئی میرے پاس بیٹھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا نہ بیٹھنا بہتر تھا کیونکہ اس میں اس کے لئے بھی بھلانی تھی اور میرے لئے بھی آہ (یہ گفتگو فضول صحبتوں کے متعلق ہے۔ اور ضروری صحبتیں اس سے مستثنی ہیں۔ مترجم) پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العلمين۔

کم سونا

۵۱۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ وہ زمین پر کمر نہیں لگاتے۔ ہاں جس حالت میں وہ بیٹھنے سے معدود ہو جاویں اور سمجھ لیں کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ ایسی حالت میں مجبوری ہے۔

آخری شخص جن کو میں نے اس روشن پر پایا ہے سیدی شیخ تاج الدین ذاکر تھے۔ کیونکہ جس رات کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس رات کو انہوں نے اپنے مخلصین سے (بغرض ترغیب نہ بطور اظہار کمال) فرمایا تھا کہ میں نے ستائیں برس سے زمین کو کمر نہیں لگائی۔

یہی حالت سیدی شیخ ابوالسعود جارجی کی تھی۔ اور سلف میں اس روشن پر عمر بن عبد العزیز۔ بشر حافی۔ محمد بن اسماعیل بخاری۔ امام احمد بن حنبل امام ابوحنیفۃ رابعہ عدویہ، او زائی اور ایک دوسری جماعت تھی جس کا ہم نے طبقات میں ذکر کیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کا قاعدہ تھا کہ جب ان کو نیند آتی تو مکان میں دوڑتے اور یہ شعر پڑھتے۔

وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنَ وَهِيَ قَدِيرٌ
وَلَمْ تَدْرِ فِي إِلَى الْمَحْلِينَ تَنْزِلٌ
يُعْنِي آنکہ سکھ چین سے کیسے سوتی ہے جبکہ
اے یہ معلوم نہیں کہ وہ دوزخ میں جاوے
گی یا جنت میں۔

غرضیکہ اس طرح نیند کو اڑا دیتے۔ اور یہی حالت رابعہ عدو یہ اور شعوانہ اور
فاطمہ رہلیہ کی تھی۔ وہ فرماتی تھیں کہ ہم اس لئے نہیں سوتیں کہ مبادا ہم کو اچانک گرفتار
کر لیا جاوے (اور ہم معدرت توبہ واستغفار وغیرہ بھی نہ کر سکیں) پس اس بیان سے
معلوم ہوا کہ جو شخص مدعی زہد و صلاح ہوا اور تہجد کے اوقات میں بلا عذر پڑا استوار ہے۔ وہ
جھوٹا ہے اس کو خوب سمجھو۔ والحمد لله رب العلمین۔

رقت قلب گریہ و بکا

۵۲- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ رفق القلب
ہوتے ہیں اور اپنی ان کوتایہوں پر جو حقوق اللہ کے متعلق ان سے صادر ہوئی ہیں بہت
روتے ہیں۔ بدیں خیال کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمادے۔

یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابوالدرداء
رضی اللہ عنہم کو حاصل تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ آنسوؤں کے بینے
سے ان کے چہرہ پر دو سیاہ لکیریں ہو گئی تھیں۔ اور یہی حالت عبد اللہ بن عباس۔ عمر بن
عبد العزیز یزید رقاشی۔ فضیل بن عیاض۔ بشر حافی۔ معروف کرنی رحمہم اللہ کی تھی۔ یزید
رقاشی کا قاعدہ تھا کہ جب مکان میں جاتے اس وقت روتے۔ جب کھانا سامنے آتا
اس وقت روتے۔ جب ان کے احباب ان کے پاس بیٹھتے اس وقت روتے۔ اور ان کو
بھی ساتھ میں رلاتے۔ اور فرماتے تھے کہ کیا آگ مجھ جیسے نالائق کے سوا اور کسی کے
لئے پیدا ہوئی ہے (ہرگز نہیں بلکہ دوزخ ایسوں ہی کے لئے بنی ہے جیسا میں ہوں)۔

عمر بن عبد العزیز کا قاعدہ تھا کہ وہ رات بھر روتے رہتے، اور گھر میں دوڑتے رہتے اور صبح تک آہ و زاری کرتے رہتے۔ اور بسا اوقات بیہوش ہو کر گر پڑتے۔ اور ان کا قاعدہ تھا کہ بالاخانہ کی چھٹ پر نماز پڑھتے اور سجدہ میں اس قدر روتے کہ آنسو بہ کر پر نالے میں سونے والوں پر لپکتے، جس سے سونے والوں کو خیال ہوتا تھا کہ کوئی بد لی گذر رہی ہے۔ اور بوندیں گر رہی ہیں۔

رابعہ عدویہ کا قاعدہ تھا کہ وہ روتی جاتی تھیں اور آنسو پوچھ کر اپنے آس پاس چھڑکتی جاتی تھیں اور اس سے زمین کی یہ حالت ہو جاتی تھی۔ کہ آنے والا سمجھتا تھا کہ انہوں نے یہاں وضو کیا ہے۔

ابن السماءک کا قاعدہ تھا کہ جب ان کی مجلس گرم ہوتی، اور لوگ رونے لگتے تو وہ (ان کے عجب کے علاج کے لئے) حضرت داؤد علیہ السلام۔ سفیان ثوری۔ داؤد طائی۔ فضیل بن عیاض اور عمر بن عبد العزیز۔ اور ان کے مثل اور لوگوں کے رونے کی حالت بیان کرتے جس سے لوگ اپنے رونے کو معمولی سمجھ لیتے۔ (اور اس سے عجب کا احتمال دفع ہو جاتا)۔

کعب احبار بیان فرماتے تھے کہ میرا خدا کے خوف سے ایک آنسو بہانا مجھے اس سے پیارا ہے کہ میں سخت دل ہو کر سونے کا پہاڑ خرچ کر دوں۔

حضرت علیؑ فرماتے تھے۔ کہ نیکوں کی علامتیں یہ ہیں۔ کہ بیداری اور رونے اور بھوک کی کثرت سے ان کی رنگت زرد ہو۔ آنکھیں ان کی چندھی ہو گئی ہوں۔ ان کے ہونٹ سوکھ گئے ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ رونا یہ نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلنے لگیں بلکہ اصلی رونا دل کا رونا ہے۔ کیونکہ آدمی کبھی آنکھوں سے روتا ہے مگر اس کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ منافق کا رونا سر سے ہوتا ہے نہ کہ دل سے۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رونے کے دس حصہ ہیں۔ جن میں سے نو حصہ تو ریا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایک حصہ خدا کے خوف سے پس جب سال بھر

میں ایک مرتبہ بھی وہ وقت آجائے کہ آدمی صرف خدا کے لئے روئے تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ آہ۔ میں کہتا ہوں کہ آدمی کے رونے کا مقام اسی وقت کامل ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا رونا آنکھ اور دل دونوں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ صرف ایک سے رونے والا ناقص ہے۔ بالخصوص جبکہ وہ شیخ ہو۔ اور اس کے تبعین بھی ہوں۔ اس کو تو زیادہ ضرورت ہے دونوں سے رونے کی۔ کیونکہ دل کے رونے کو اس کے تبعین نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے اس کو ضرورت ہوتی ہے آنکھ سے رونے کی (تاکہ ان پر اثر ہو) اگرچہ اس کا مقام اس سے ترقی کر گیا ہو۔ واللہ اعلم۔

ایک شخص صلت بن اشیم کی مجلس میں ریا کے لئے رویا۔ اور اتنا رویا کہ لوگوں کو اس پر ترس آیا اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ جاؤ اپنا معاوضہ انہی سے لو۔ جن کی نسبت تم پسند کرتے تھے کہ وہ تمہیں روتے دیکھیں۔

سعط بن عجلان فرماتے تھے کہ سفیان ثوری جس وقت روتے تھے تو آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پھراتے رہتے ان کو نکلنے نہ دیتے اور فرماتے کہ اس سے سوز و رنج قلب میں باقی رہتا ہے (اور جی کھول کر رونے سے بھڑاس نکل جاتی ہے اور سوز و غم کا دل میں باقی رہنا اس کے نکلنے سے زیادہ مفید ہے۔)۔

عمر بن عبدالعزیز جس وقت رونا شروع کرتے تو ان کی بیوی ان کے بچے ان کے خدمت گار سب رونے لگتے۔ اور ان کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ کیوں رورہے ہیں۔ صالح مری فرماتے کہ گناہ دلوں کو چوپٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کا علاج صرف رونا ہے۔

شعیب بن حرب ایک مرتبہ طاؤس کی مجلس میں روئے حتیٰ کے اور وہ کو بھی زلا دیا اور یہ سمجھے کہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ اس پر طاؤس نے فرمایا کہ بھائی جان یہ سمجھ لو کہ اگر صرف ایک گناہ پر تم اور تمہارے ساتھ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات روتی تو یہ بھی کم تھا۔ پھر تم کیسے خیال کرتے ہو کہ تمہارے اکیلے رونے سے تمہارے سارے گناہ مت جاویں گے۔

مالک بن دینار سے کسی نے کہا کہ اجازت ہو تو میں آپ کے لئے ایک قاری بلا دوں۔ جو آپ کو قرآن سنایا کرے۔ فرمایا کہ میاں جس عورت کا بچہ مر جاوے اسے نوحہ گر کی ضرورت نہیں ہوتی (پس جب میں خود مصیبت زدہ ہوں تو میرے رونے کے لئے میری مصیبت خود کافی ہے۔ اور مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ مجھے دوسرا کوئی رلائے)۔

ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ہر شام کو اتنا روتنے کہ بیہوش ہو جاتے اور فرماتے مجھے معلوم نہیں کہ جو میرے برے اعمال آج آسمان پر گئے ہیں۔ آیا وہ بخش دئے گئے۔ یا وہ میرے نامہ اعمال میں ہنوز باقی ہیں۔ اور کل وہ میرے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ اور میں ان پر مطلع ہوں گا۔

مکحول و مشقی ”فرماتے تھے کہ جب کسی کو روتا دیکھو۔ تو تم بھی روڑ اور یہ نہ خیال کرو کہ وہ ریا سے ایسا کرتا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ میں نے ایسا ہی خیال کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سزا میں ایک سال تک مجھے رونے سے محروم کر دیا گیا۔ آہ۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نیکی اور پارسائی کا مدعا ہو اور وہ قرآن سن کر دل سے نہ روئے تو وہ چھوٹا ہے۔ کیونکہ سختی قلب اخلاق صالحین کے خلاف ہے۔ پس اسے خوب سمجھو۔ والحمد لله رب العلمین۔

محاسبہ نفس

۵۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ معاصی میں ہنسنا تو درکنار۔ وہ اپنی نسبت طاعات میں کوتا ہی کرنے کے سبب ہلاکت کا خیال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ خدا سے اس کی امید کرنا کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تحصیل حاصل ہے (کیونکہ یہ توقع تو اعتقاد اپہلے سے حاصل ہے)۔ اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ حق تعالیٰ اس سے چھوٹی بات پر موافق کرے گا۔ تاکہ اسے قیامت میں حساب کے لئے کھڑے ہونے کا خوف ہو (اور وہ

اپنے نفس کا محاسبہ خود کیا کرے) کیونکہ جو شخص خود اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اس کو قیامت میں محاسبہ کے لئے دیر تک بھہرنا پڑے گا (بوجہ گناہوں کی زیادتی کے۔ اور جو شخص خود محاسبہ کرنے کا عادی ہو۔ اس کو زیادہ دیر نہ لگے گی۔ کیونکہ وہ دنیا میں اپنے اعمال کی اصلاح بہت کچھ کر چکا ہو گا)۔

عبد الرحمن بن هرم الاعرج فرماتے تھے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کی تفتیش کرتے رہنا چاہئے کیونکہ قیامت میں ہر شخص اپنے ہم جنس کے ساتھ مشور ہو گا۔ پس جو تمام معاصی میں گرفتار ہو گا۔ اس کا حشر ہر جماعت کے ساتھ ہو گا۔ نیز وہ اکثر اپنے نفس پر عتاب فرماتے اور اس کو ڈانٹتے رہتے۔ اور فرماتے تھے کہ قیامت میں منادی آواز دے گا اے فلاں گناہ کرنے والو (اٹھو تمہارا مقدمہ پیش ہے) پس اے اعرج تو ان میں بھی اٹھے گا (کیونکہ تو بھی وہ گناہ کرتا ہے) اس کے بعد وہ پھر دوسرے گروہ کو بلائے گا اور کہے گا کہ فلاں گناہ کرنے والو (اٹھو تمہارا مقدمہ پیش ہے) پس یہ اے اعرج تو ان میں بھی اٹھے گا (کیونکہ تو وہ گناہ بھی کرتا ہے) وہ پھر آواز دے گا کہ اے فلاں گناہ کرنے والو (کیونکہ تو وہ گناہ بھی کرتا ہے) وہ پھر آواز دے گا کہ اے فلاں گناہ کرنے والو (اٹھو تمہارا مقدمہ پیش ہے) سو اے اعرج تو ان میں بھی اٹھے گا (کیونکہ تو وہ گناہ بھی کرتا ہے) غرض میں تو سمجھتا ہوں کہ تجھے ہر فرقہ کے ساتھ اٹھنا ہو گا (کیونکہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو تو نہ کرتا ہو)۔

سیدی علیؒ خواص فرماتے تھے کہ فقیر اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی یہ حالت نہ ہو۔ کہ احوال قیامت رات دن اس کے پیش نظر ہیں۔ تاکہ وہ دنیا ہی سے اس کے لئے تیار ہو کر جاوے۔ نیز وہ اکثر فرماتے تھے کہ جو شخص قبر میں سکون قلب چاہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ کوئی ایسی خصلت نہ رکھے جس سے قیامت میں رسوا ہو۔ اور جب تک اس کے اندر کوئی بری خصلت ہو گی اس وقت تک اس کے لئے خوف لازم ہے۔ یہاں تک کہ وہ قبر سے بھی خوف زدہ ہی اٹھے گا (کیونکہ اس کو یہ خطرہ رہے

گا) کہ شاید میری اس خصلت پر موافق ہو اور سزا ہو جاوے)۔

اسی وجہ سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے تھے کہ بیٹا۔ جس طرح تم سوتے ہو۔ اسی طرح مرد گے۔ اور جس طرح تم جائے گے۔ اسی طرح تم قبر سے اٹھو گے۔ اور جب واقعہ یہ ہے تو اب تمہیں نیک کام کرنے چاہئے تاکہ تمہارا سونا اور جا گنا دہن کا سا ہوا اور کوئی برا کام نہ کرو، ورنہ تمہارا سونا اور جا گنا مجرم کا سا ہو گا، جس کو بادشاہ قتل کے لئے طلب کرتا ہے۔ یعنی تم سو گے تو خوف زدہ، اور جا گو گے تو خوف زدہ۔

اویس قریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جس قدر تم ڈر سکو ڈرلو، کیونکہ اس وقت کا ذر تمہیں عذاب سے نجات دینے والا ہے۔

سیدی علی خواص فرماتے تھے کہ اپنے لئے خود عمل کرو۔ اور نہ کسی دوست پر اعتماد کرو۔ اور نہ کسی پیر پر، کیونکہ وہاں ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہو گا اور تمہاری خبر کوئی نہ لے گا۔ اور اپنے اعمال کو خرابیوں سے پاک و صاف کرلو، کیونکہ قیامت کے روزان میں اسی قدر نور ہو گا جس قدر ان میں اخلاص ہو گا۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ منافق دین کے نور سے روشنی حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح اندھا آنکھوں والے کے نور سے روشنی نہیں حاصل کر سکتا۔

کعب احبار فرماتے تھے کہ جو شخص دروازہ بند کر کے خدا کی نافرمانی کرے گا اور مخلوق سے شر مائے گا اور خدا سے نہ شر مائے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے سخت حساب لیں گے اور بری طرح اس کو دھمکا دیں گے۔ پھر اس کی طرف نظر قہر سے دیکھیں گے، اور اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے پکڑو۔ اس پر ہزار ہا فرشتے اسے دوڑ کر پکڑ لیں گے اور اس کو منہ کے بل کھینچیں گے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں نکڑے نکڑے ہو جاوے گا۔ اب اے بھائی تو سوچ کر تو تو اس بلا میں بتلانہیں ہے (اگر ہے اور ضرور ہے تو توبہ کر) اور خدا کے نبیوں اور اس کے رسولوں کے وسیلہ حق تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر۔ ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کے طفیل سے جن

سے تو نے توسل کیا ہے، تیرے گناہ معاف فرمادیں۔
ربیع بن خثیم اپنے نفس سے فرماتے کہ ربیع جب زمین اور پھاڑوں کو اٹھا کر
دفعۃ ریزہ کر دیا جائے گا، اس وقت تیرا کیا حال ہو گا؟

ابو عمران جو نبی رحمة اللہ علیہ فرماتے کہ جب حیوانات اس برتاو کو دیکھیں گے
جو قیامت میں گنہگار آدمیوں کے ساتھ کیا جاوے گا تو کہیں گے: خدا کا شکر ہے ہمیں
آدمی نہ بنایا۔

یحییٰ بن معاذؓ فرماتے تھے کہ تم کوشش کرو کہ ان لوگوں سے نہ ہو جن کو میزان
عدل اور محاسبہ قیامت میں رسوا کریں گے، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تمام مجمع حق تعالیٰ
سے شرما کر انگشت بدنداں ہو گا، اور ہر ایک کاغذ اس قدر ہو گا جس قدر کہ اس نے خدا
کے معاملہ میں کوتا ہی کی ہو گی۔

میں نے سیدی علیؑ خواص سے سنا ہے: وہ فرماتے تھے کہ آدمی کو نزع کے وقت
اتنی ہی آسانی ہوتی ہے جس قدر کہ وہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے مشقتیں اور تکلیفیں
برداشت کر چکا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہم السلام کو توبہ سے زیادہ
تکلیف ہوتی ہے اور باوجود اس کے ان پر مرض موت اور نزع وغیرہ میں نہایت سختی کی
جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی سختی دوسری نوعیت کی ہوتی ہے،
کیونکہ وہ سختی متعلقات دنیویہ کی بناء پر نہیں ہوتی (جوز یہ بحث ہے)، اور نہ ان کی سختی کو
اس پر محمول کرنا چاہئے بلکہ ان کی سختی اجر بڑھانے کے لئے ہوتی ہے۔ اور بعض کی سختی
نزع کا سبب ان کے شاگرد وزیر تربیت اشخاص ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی روح باوجود
محبت لقاء اللہ کے اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی جب تک وہ ان کی تکمیل نہ
کر دے، اور ان کی مقام کمال معرفت تک رہنمائی نہ کر دے۔ پس جب دونوں ہشتوں
میں کھینچا تانی ہوتی ہے (اور خدا سے ملنے کا شوق اس کو خروج پر آمادہ کرتا ہے، اور
شاگردوں پر شفقت عدم خروج پر آمادہ کرتی ہے) تو اس سے روح کے نکلنے میں
دوسری ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو اپنے شاگردوں پر کمال شفقت نہ ہوتی تو وہ خدا سے

ملنے کے شوق میں نہایت آسانی سے نکل جاتی۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ بن اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ سامِ بن نوح علیہ السلام کو ان کی خاطر زندہ کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا مجھے اس کی قبر دکھادو۔ اس پر وہ ان کو اس کی قبر پر لے گئے اور انہوں نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے سامِ حق تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ سن کر وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اس کی ڈاڑھی اور سر سب سفید ہیں۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو مرا تھا تو اس وقت تیرے بال سیاہ تھے (اب یہ سفید کیوں ہیں؟) اس نے جواب میں کہا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں مگر جب میں نے آپ کی آواز سنی تو میں سمجھا کہ قیامت آگئی۔ اس کی وجہ سے میرا سر اور ڈاڑھی دونوں سفید ہو گئے ہیں (اس سے قیامت کی دہشت کا اندازہ کر لیجئے)۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا پانچ ہزار برس ہوئے، اور باوجود اس کے ہنوز موت کی گرمی دور نہیں ہوئی (اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مرا ہوں)۔ نیز جب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو یوں چیختے جیسے وہ عورت چیختی ہے جس کا بچہ مر گیا ہو۔ اور فرماتے کہ مریم کے بیٹے کے لئے زیبان نہیں کہ وہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔

وہبؓ کی فرماتے تھے کہ کسی کو کب زیبا ہے کہ وہ دنیا میں بنے جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت میں وہ نالہ و فریاد اور وہ حرکات و سکنات ہیں جن کو دیکھ کر شدتِ رعب و خوف سے آدمی کے جوڑ جدا ہونے کو ہو جاویں گے۔

عبداللہ بن مسعودؓ حق تعالیٰ کے قول ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةً﴾ کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ یہ مقدار ہفتے کے روزِ طلوع شمس سے دو پھر تک ہوگی۔ اور دو پھر ہونے نہ پائے گا کہ مخلوق حساب سے فارغ ہو جاوے گی اور اہل جنت جنت میں جا ٹھہریں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں، (مگر یہ روایت عبد اللہ بن مسعودؓ سے ثابت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ قیامت جمعہ کے روز ہوگی نہ کہ ہفتہ کو۔ ہاں تفسیر نیشا

پوری میں حسن بصریؓ سے یہی مضمون بلا سند منقول ہے مگر اس میں ہفتہ کے دن کا ذکر نہیں۔ واللہ عالم مترجم)۔

سیدی علی خواص فرماتے تھے کہ جو شخص باغوں میں سیر کرتے اور خوبصورت عورتوں کے نرم بستر و پرسونے اور خوشبو دار لباس پہننے کی خواہش اپنے اندر پائے، وہ قیامت کے ہولناک واقعات سے غافل ہے۔ ہاں اگر اولیاء کا ملین سے ہو جن کو دونوں جہان کی کوئی نعمت خدا سے غافل نہیں کرتی تو وہ اس سے مستثنی ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

طول امل سے احتراز

۵۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مکانات وغیرہ بنانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ پھر اگر کوئی شخص ان میں سے مکان بناتا بھی ہے تو اسی قدر پر اکتفا کرتا ہے جس سے ضرورت رفع ہو جاوے، اور زیبائش و آرائش کا اہتمام نہیں کرتا، جس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنا حلال مال ملنا مشکل ہے کہ وہ اس سے مکانات بنائیں اور انہیں خوب سجا نہیں۔ دوسرے انہیں اتنی لمبی چوڑی امیدیں نہیں ہوتیں کہ وہ ان کے بنانے اور سجائے کی زحمت گوارا کر کے ان سے ایک معتقد بہ مدت تک منفع ہوں گے (بلکہ ان کو تو اپنی حیات کی ذرا بھی توقع نہیں ہوتی) اور یہ ان کی امید کی کوتاہی ان کو ایسا نہیں کرنے دیتی۔

سیدی احمد زاہدؒ نے اپنی خانقاہ اور اپنا مکان اینٹ گارے سے بنایا تھا اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔

پس ان باتوں سے معلوم ہوا کہ جو شخص صلاح و تقویٰ کا مدعا ہو اور دنیا سے خوش ہو کر مضبوط عمارتیں بنائے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے بالخصوص جبکہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہو کہ میں خدا ہی کا ہورہا ہوں، کیونکہ یہ بات کسی حال میں اس کے شایان شان نہیں، بجز اس صورت کے کہ وہ اس کو مصرف خیر اور صدقہ وغیرہ کے طور پر تیار

کر لے۔ اور مضبوطی عمارت سے مقصد اس کا یہ ہو کہ لوگ اس سے زمانہ دراز تک فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو برابر ملتا رہے، جیسا کہ سیدی مدین و سیدی ابوالعباس وغیرہما کے لئے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایسی صورت میں مضبوطی عمارت کا مضمون نہیں۔

سیدی عبدالقدار جیلانی کا ایک ایسے شخص پر گذر ہوا جو اپنے لئے ایک مضبوط عمارت بنارہاتھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر یہ شعر پڑھے ۔

ابنی بناء الحالدین و انما
مقامک فيها لو عقلت قليل
لقد كان في ظل الاراك كفاية
لمن كان يوماً يقتفيه رحيل

یعنی کیا تو ایسے لوگوں کا سا گھر بناتا ہے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں (تجھے ایسا نہ چاہئے)، کیونکہ اگر تجھے سمجھ ہو تو تجھے کہ تیرا اس میں رہنا بہت کم ہے۔ ارے بھائی جس کی یہ حالت ہو کہ اس کے پیچھے ایک روز کوچ لگا ہوا ہے (جیسا تو) اس کے لئے پیلو کا سایہ کافی ہے (اور اس میں وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر سکتا ہے)۔ اور جن حضرات کو میں نے اس روشن پر پایا ہے، ان میں سے ایک ہمارے شیخ علی خواص ہیں۔ وہ جب کسی فقیر کو گھر بناتے دیکھتے تو اس کے لئے اس کو برا سمجھتے اور اس سے فرماتے: جتنا مال تو اس عمارت پر صرف کر رہا ہے تو کبھی ایسی نوبت تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس مال کے عوض میں تو سکونت کر سکے۔ (یعنی اگر کراچی کے مکان میں بھی رہے تو عمر بھر میں بھی اتنا مال کرایہ میں صرف نہیں ہو سکتا)۔

جب بھائی ابوالعباس نے جامع بشیر اپنے لئے مکان بنایا تو اس پر سات سو (۷۰۰) دینار صرف کردے۔ اس پر شیخ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اگر تو کراچی کے مکان میں رہتا تو تیرے لئے اس کا دسوال حصہ کافی ہوتا جو تو نے اس عمارت پر صرف کیا ہے اور باقی کو تو صدقہ کر سکتا تھا۔ اور اس واقعہ کے تقریباً سات برس بعد ابوالعباس

مرحوم کا انتقال ہو گیا (اور اس طرح شیخ کے بیان کی تائید ہو گئی)۔

شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس وقت فقیر کو اپنے بھائی مسلمانوں کے مال سے مکان بنانا پڑے، اور وہ اس سے اس کی درخواست بھی کریں تب بھی اس کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ ان کو نصیحت کرے کہ وہ اپنا مال اس فضول کام میں صرف نہ کریں۔ اور ان کو وہ بات بتلائے جس سے ان کی میزان اعمال میں قیامت کے روز بوجھ بڑھے۔ پھر یہ کیسے مناسب ہو گا کہ لوگ اس کی صراحت یا اشارۃ درخواست پر ایسا کریں اور تمام سلف صالح کا یہی طریق رہا ہے کہ وہ حرص اور طول اہل سے بچتے تھے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو جس وقت یہ واقعہ معلوم ہوا کہ اُسامہ نے ایک مہینہ کے اقرار پر خریداری کی ہے تو آپ نے فرمایا: وَاللَّهُ أَسَمَّهُ بِذِ اطْوَيلِ الْأَمْلِ ہے (جو اس کی امید رکھتا ہے کہ میں ایک مہینہ تک زندہ رہوں گا اور کماؤں گا اور دام ادا کردوں گا)۔ پھر فرمایا کہ بخدا میں ایک قدم اٹھا کر یہ خیال نہیں کرتا کہ دوسرا رکھ سکوں گا۔ اور آنکھ کھول کر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آنکھ بند کر سکوں گا، اور منہ میں لقمہ رکھ کر یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کو نگل جاؤں گا۔

یحییٰ بن معاذؓ فرماتے تھے کہ جو شخص بھوکار ہے اور امید کوتاہ رکھے، شیطان اس کے دل میں جگہ نہیں پاسکتا۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ آدمی تو گویا چند دنوں کا مجموعہ ہے اور اس لئے جب کوئی دن گذرتا ہے تو گویا اس کا ایک جزو ختم ہو جاتا ہے۔

ایک مرتبہ لوگوں نے معروف کرنی کے رو برو نماز کی تیاری کی۔ ایک صوفی کو نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھانا چاہا اس پر اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں نماز ہی میں نہ مرجاوں اور لوگوں کی نماز پر آگنڈہ کروں۔ اس پر لوگوں نے اصرار کیا۔ اس اصرار پر اس نے کہا کہ خیر اس وقت تو پڑھادوں گا مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ نماز پڑھانے کے لئے مجھ سے نہ کہنا۔ یہ سن کر معروف کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب آپ ہٹ جائیے، آپ امامت کے اہل نہیں، کیونکہ تم گڑ بڑ آدمی ہو۔

ایک طرف تو تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نماز ہی میں مر جاؤں گا اور دوسری طرف تم اپنے دل میں یہ بھی کہتے ہو کہ میں آئندہ نماز تک زندہ رہوں گا (اور یہ سراسر گڑ بڑ ہے۔ اگر تم کو اس نماز کے پورا کرنے کی بھی توقع نہیں ہے تو اس کہنے کے کیا معنی کہ آئندہ مجھے امام نہ بنانا۔ اور اگر نماز تک زندہ رہنے کی توقع ہے تو اس کے کیا معنی کہ مجھے اس نماز کے پورا کرنے کی توقع نہیں ہے۔ الحال صتم ٹھیک آدمی نہیں) اس کے بعد دوسرے آدمی کو آگے بڑھایا اور اس نے نماز پڑھائی۔

داود طائی فرماتے تھے کہ طویل الامل شخص کے لئے لازم ہے کہ وہ اکثر عمل کو بھول جاوے اور توبہ میں تاخیر کرے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ کوتاہ امید شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے پیٹ سے اس کے مرنے کے بعد نہلانے والے کے ہاتھ سے نکلے گی۔ اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے جمع کیا ہے اس سے وہ خود مشفع نہ ہوگا، بلکہ دوسرے لوگ مشفع ہوں گے۔ اور جب کوئی اس کے خلاف خیال کرے وہ کوتاہ امید نہیں ہے بلکہ دراز امید ہے۔

ابوعثمان نہدی فرماتے تھے کہ اس وقت میری عمر ایک سو میں برس کی ہے۔ اور اس عرصہ میں میری تمام باتوں میں تغیر آگیا، بجز ایک امید کے کہ میں اسی طرح پاتا ہوں اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔

یحیی بن معاذ فرماتے تھے کہ دنیا زاہدوں کی طلاق دی ہوئی ہے۔ مگر اس کی عدت ہی نہیں گذرتی، کیونکہ جب ان میں سے کوئی اسے طلاق دیتا ہے، دوبارہ پھر فوراً اس سے شادی کر لیتا ہے۔ (حاصل یہ ہے کہ زاہد دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر اسے چھوڑ نہیں سکتے۔)

سیدی علی خواص فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص طول امل سے خالی نہیں مگر اس کے مراتب مختلف ہیں۔ پس طول امل والوں میں وہ شخص سب سے فاقہ ہے جس کو صرف ایک سانس کی امید ہو۔ اور طول امل بعض وجہ سے خدا کی رحمت ہے۔

کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو آدمی کو جینا دو بھر ہو جاتا۔

عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ دریا میں مجھلی کی پشت پر اور چھوارے کے اندر گھٹلی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کا رزق ہے۔ اور اس کے سوا اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، مگر باوجود اس کے حریص آدمی کوشش میں مرا جاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہوا سے کوئی اور لے لے۔ پس اسے خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد رب العلمین۔

مخلوق پر شفقت

۵۵- اللہ والوں کا اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں پر خواہ نیک ہوں یا بد اور تمام جانوروں پر شفقت کرتے ہیں۔ اور اس طرز پر کام کرتے ہیں کہ ان کے سبب سے کسی کے دین میں کوئی خرابی نہ واقع ہو۔ اور یہ ان کا ایک نہایت اعلیٰ خلق ہے۔ اور اس سے وہی مخلوق ہوتا ہے جس کی بصیرت کو خدا نے نور بخشنا ہے، اور وہ بحکم و راثت نبوی لوگوں پر ان کے نفوں سے زیادہ شفیق ہے اور ان کے اسی خلق کے سبب لوگ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور اس مکان کے خریدنے میں جو کہ ان کے پڑوس میں ہو اس سے زیادہ دام خرچ کرتے ہیں جتنے کہ وہ اس مکان کے خریدنے میں صرف کرتے جو کہ ان کے عزیزوں کے پڑوس میں ہو۔ اور عبد اللہ بن عمر فرماتے تھے کہ اس مکان کے خریدنے میں جائیں جس کا پڑوسی کشادہ رو اور شیریں زبان ہو۔

ابو مسلم خولانی ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں پر رحم کرنے کے خلق کے ساتھ مخلوق ہونے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ اور وہ اس میں اس قدر مبالغہ کرتے تھے کہ کسی کو سلام نہ کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا یہ لوگ مجھے حقیر سمجھ کر میرے سلام کا جواب نہ دیں۔ اور میرے سبب سے گناہ میں بتلا ہوں۔

عبداللہ انطا کی فرماتے تھے کہ جب تم کو یہ علم ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری آبرو پر حملہ کریں گے تو تم بجز اوقات نماز کے دیگر اوقات میں ان سے مت ملو۔ اور ان پر رحم کروتا کہ وہ تمہارے سبب گناہ میں بتلانے ہوں۔

ابو عبد اللہ مغاربی فرماتے تھے کہ جو شخص گنہگاروں کو رحم کی نظر سے نہ دیکھے، وہ طریق صوفیہ سے نکل گیا۔

معروف کرنی جب کسی گنہگار کو دیکھتے تو اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے اور اس کے لئے رحمت کے متوقع رہتے۔ اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ﷺ کو لوگوں کی نجات اور ان پر رحمت کے لئے معموت فرمایا تھا، اور شیطان کو ان کے ہلاک کرنے اور ان کے ضرر سے خوش ہونے کیلئے بھیجا ہے (پس ہم کو خلق محمدی اختیار کرنا چاہئے نہ کہ خلق شیطانی)۔

نیز معروف کرنی کا ایک ایسی جماعت پر گذر ہوا جود جلد کے اندر ایک ڈوغلی پر سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں شراب وغیرہ تھی۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ان نافرمانوں کے لئے بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ جس طرح آپ نے ان کو دنیا میں خوش کیا ہے، اسی طرح ان کو آخرت میں بھی خوش کیجئے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے بد دعا کی درخواست کی تھی۔ آپ تو الٹی دعا کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی مسلمان کے لئے بد دعا کروں۔ اور میں نے جو دعا کی ہے وہ بظاہر موحش ہے مگر حقیقت اس کی یہ ہے کہ اے اللہ ان کو توبہ نصیب کر اور ان کے گناہ بخشن دے، کیونکہ آخرت میں وہ صرف اسی صورت سے خوش ہو سکتے ہیں کہ (دنیا میں) ان کو توبہ نصیب ہو اور ان کے گناہ معاف کر دئے جائیں۔ (سواس دعا میں کوئی حرج نہیں) اور یہ ان کی حسن سیاست تھی۔ خدا ان پر رحمت نادل فرمائے۔

ابراہیم تیمی کا قاعدہ تھا کہ جو کوئی انہیں ستاتا اس کے لئے کبھی بد دعا نہ فرماتے، اور فرماتے کہ اس کے لئے اس کے ظلم ہی کا بوجھ کافی ہے۔ (میں بد دعا کر کے مرتے کو کیوں ماروں)۔

عمر بن عبد العزیز کا قاعدہ تھا کہ جب کچھ ہم سفر لوگ ان کے مکان کے پاس فروکش ہوتے تو رات بھر جائے، اور صبح تک ان کے اسباب کی حفاظت کرتے، اور ان

کواس کی خبر نہ ہونے دیتے۔

روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کو اپنی مخلوق میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ہمیں وہ شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جس کی یہ حالت ہو کہ جب کسی مسلمان کے کائنات لگ جاوے تو اسے اس کا اتنا ہی رنج ہو جتنا اس وقت ہوتا جبکہ خود اس کے لگتا۔

سالم بن ابی الجعد فرماتے تھے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ سایہ میں تشریف فرماتے تھے اور صحابہ دھوپ میں۔ اس پر جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ اے محمد! آپ سایہ میں بیٹھیں اور صحابہ دھوپ میں (کیا یہ مناسب ہے؟) خلاصہ یہ کہ آپ پر اس فعل کی وجہ سے عتاب فرمایا گیا۔ اور مقصود اس سے آپ کی امت کے لئے یہ قانون بنانا تھا کہ دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف کے برابر سمجھنا چاہئے۔

ابو عبد اللہ بن عون فرماتے تھے کہ اس امت میں سے سب سے پہلے رحمت و شفقت اٹھائی جائے گی۔

سفیان ثوریٰ کی یہ حالت تھی کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف دہ امر پیش آتا تو ان کو نہایت ملاں ہوتا۔ اور بسا اوقات ان کو دل تنگی کی وجہ سے خون کا پیشہ آتا۔

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ابدال کی علامت یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں پر نہایت شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔

معروف کرخیٰ فرماتے تھے کہ جو شخص ہر روز یہ دعا کیا کرے کہ اے اللہ امت محمد یہ پر رحم فرم۔ اے اللہ امت محمد یہ کی اصلاح فرم۔ اے اللہ امت محمد یہ کی تکالیف دور فرم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدالوں میں لکھیں گے۔ آہ۔ پس اس کو خوب سمجھ لو۔ اور رحمت و شفقت میں اپنے سلف کی پیروی کرو۔ والحمد لله رب العالمین۔

ترک جدال

۵۶۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی عالم ظاہری طریق کے کسی حال کا انکار کرے یا ان کو کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کی موافقت کرتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں دلائل نہیں بیان کرتے، بجز اس صورت کے کہ ان کو یہ توقع ہو کہ یہ ہماری بات مان لے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل ظاہر ایک خاص دائرہ کے اندر ہیں، اور اس کے باہر کی چیزیں ان کو معلوم نہیں (اس لئے وہ یچارے معدود رہیں)۔ پس جب کوئی یہ کہے کہ قطب ابدال، اوتا روغیرہ کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ محض نام ہیں جن کا کوئی مسمی نہیں۔ تو تمہیں اس سے کہنا چاہئے کہ بجا ہے، اور تمہارا مقصود اس سے یہ ہونا چاہئے کہ واقعی آپ کے نزدیک ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ محض اس بلا مسمی ہیں۔ اور جب وہ یہ کہے کہ اولیاء اللہ گذر گئے اور اب کوئی ولی نہیں۔ تو تمہیں کہنا چاہئے کہ بجا ارشاد ہے۔ یعنی آپ کا اعتقاد بیشک ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہے کہ خضر کا وجود نہیں تو اس وقت بھی یہی کہنا چاہئے کہ بجا ہے۔ بالخصوص اگر وہ اپنے دعویٰ کی تائید میں کسی دوسرے منکر کا قول بھی پیش کرے۔ جیسے (شیخ الاسلام) ابن تیمیہ (تب تو بالا ولی اس سے مراجحت نہ چاہئے)۔ ایک جماعت نے اس خلق کی مخالفت کر کے علماء سے الجھنا شروع کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے، اور ایک نے دوسرے کی آبروریزی کی، اور جماعت صوفیہ کو برا بھلا کہا۔ سو یہ روشن اگلے مشايخ کی نہ تھی۔

شیخ افضل الدین کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی عالم ان سے بحث کرنے بیٹھتا تو (اس کے مقابلہ میں جنید و شبیل کے اقوال پیش نہ کرتے بلکہ) کہتے کہ امام غزالی نے یوں فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں علماء ظاہر کے مقابلہ میں امام غزالی کے اقوال اس لئے پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ ان کو مانتے ہیں، کیونکہ تصوف سے پیشتر وہ بھی انہی کے زمرہ میں تھے۔ اور اگر میں کسی

ایسے کا قول نقل کر دوں جو ان کے زمرہ میں نہیں ہے تو وہ میری نہ مانیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھمہ ان دلائل کے جو وجود ابدال پر دلالت کرتے ہیں، اولہہ ذیل ہیں^(۱) جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے ابدال جنت میں کثرت نمازو روزہ کے سبب نہ داخل ہوں گے، بلکہ وہ اپنی سخاوت نفس اور خیر خواہی امت نے سبب داخل ہوں گے۔

امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالبؑ فرماتے تھے کہ ابدال شام میں ہیں، اور نقباء عراق میں، اور نجاء مصر میں۔

امام ابو عبد اللہ بن ماجد جرمیؑ سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں بھی ابدال ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔

حسن بصریؑ فرماتے تھے کہ اگر ابدال نہ ہوتے تو زمین اپنے اوپر رہنے والی مخلوق کو لے کر ہنس جاتی۔ اور اگر سچے لوگ نہ ہوتے تو دنیا خراب ہو جاتی۔ اور اگر علماء نہ ہوتے تو آدمی چوپاؤں کے مانند ہوتے۔ اور اگر بادشاہ نہ ہوتا تو ایک ایک کو مار ڈالتا۔ اور اگر بیوقوف نہ ہوتے تو دنیا ویران ہو جاتی، (کیونکہ مقتضائے عقل دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اور جب سب لوگ دنیا سے بے رغبت ہوتے تو اس کی طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہوتا۔ اور اس صورت میں اس کی ویرانی لازمی ہے) اور اگر ہوانہ ہوتی تو آسمان وزمین کے درمیان کی فضای بوسے بھر جاتی۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ ہر نبی کی امت میں اس نبی کا ایک مماثل ہوا کرتا ہے (چنانچہ اس امت میں اشبہ بر سول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) جب تک ان روایات کے لئے سند قابل احتجاج نہ ہواں وقت تک یہ قابل احتجاج نہیں۔ اور سند کوئی بیان نہیں کی گئی تو یہ دلائل ناقابل التفاس ہیں۔ ومعبدہ احمد بیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ کے اثر کے سوا اور جتنے اقوال نقل کئے ہیں وہ بر تقدیر ثبوت بھی جھٹ نہیں۔ اہل تحقیق اس مقام پر صرف اس قدر کہتے ہیں کہ ابدال وغیرہ کے باب میں حضرات صوفیہ اپنا ذاتی علم بیان کرتے ہیں۔ اور شریعت ان کی تکذیب نہیں کرتی تو ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ فافہم (مترجم)۔

تھے)۔ والحمد لله رب العالمين۔

اپنے نفس پر سوء ظنی

۷۵۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ اپنے نفوس کو خوب سدھاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو بات ابتداء فکر کے لحاظ سے ان کے خلاف ہوتی ہے وہ اس پر نظر کرتے ہیں، اور جوان کے موافق ہوتی ہے اسے نہیں دیکھتے۔ پس جب وہ حق تعالیٰ کا یہ قول سنتے ہیں: ﴿هَلْ يَسْتُوِي الظِّلُّ إِلَيْهِ الظِّلُّ لَا يَعْلَمُونَ وَالظِّلُّ لَا يَعْلَمُونَ﴾ یعنی اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں۔ تو وہ اپنے کو عالم سمجھ کر دوسروں سے اپنے کو بڑھ کر نہیں سمجھتے بلکہ ابتداء ہی سے اپنے کو جاہل اور اپنے تمام ہم عصروں کو عالم خیال کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہم عصروں میں حال اور مقام میں سب سے کمتر ہیں اور کسی کے بھی برابر نہیں، برخلاف اس کے جس کی طرف عام طور پر ابتداء میں ذہن دوڑتا ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کا جنہوں نے مجاہدہ نہیں کیا (کیونکہ ان لوگوں کا ذہن ابتداء اسی طرف جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہیں)، اور کوئی ان کے برابر نہیں، خواہ بعد میں وہ اس خیال کو دور کر دیں۔ پس تم اسے خوب سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اس میں تم بڑی راحت پاؤ گے۔ والحمد لله رب العالمين۔

سمی برائے رفع حجاب

۵۸۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ رفع حجاب کے لئے بہت کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ حجاب اٹھ جاتا ہے اور وہ ہر موجود کو زندہ خیال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو زندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس بناء پر ان کو کہیں خلوت نہیں ملتی، جہاں وہ خدا کی نافرمانی کریں کیونکہ وہ ہر شے کی نسبت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ رہی ہے اور اس بناء پر وہ اس سے شرماتے اور اس کا پورا لحاظ کرتے ہیں اور یہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جس جگہ وہ گناہ کرتے ہیں وہ مقام قیامت میں انکے خلاف شہادت دے گا۔ اور جو شخص

یہ جانتا ہے کہ کسی جگہ گناہ کی جرأت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ باوجود اس کے بھی گناہ کرے گا تو گویا وہ اس مقام کو جہاں وہ گناہ کرتا ہے، اپنے خلاف شہادت دینے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ مقتضائے عقل کے خلاف ہے۔ (الہذا وہ کہیں گناہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے) اور ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اتفاقاً ان میں سے کسی کے منہ سے کوئی بری بات نکل جاتی ہے تو مارے شرم کے گھلا جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ زمین اسے نکل جاتی۔ اور وہ یہ بات منہ سے نہ نکالتا، اور یہ خلق آجکل نادر ہے۔ والحمد لله رب العالمین۔

عدم طلب قبول دعا

۵۹- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہ خدا سے اس کے خواہاں ہوتے ہیں کہ خود ان کے حق میں ان کی دعا قبول کی جاوے..... اور نہ اس کے کہ دوسروں کے حق میں ان کی دعا مقبول ہو، بجز اس صورت کہ خدا کے ساتھ ان کا معاملہ ان کے امکان بھر درست ہو۔ اور ان میں کوئی ایسی خصلت نہ پائی جاوے جس سے وہ دنیا و آخرت دونوں میں یا کسی ایک میں رسوایوں تک اجابت باقاعدہ ہو، (کیونکہ ضابطہ کے طور پر اجابت دعا کے لئے عدم معصیت شرط ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی عاصی یا کافر کی دعا بھی قبول کر لیں۔

سیدی علی خواص فرماتے تھے کہ جو شخص چاہے کہ (اس کی ناالمیت^(۱) کے سبب) اس کی کوئی دعا رد نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ ملائکہ کے قدم پر چلے جو کہ اصلاح خدا کی نافرمانی نہ کرے۔

ابو نجیح فرماتے تھے کہ اگر مومن خدا کی نافرمانی نہ کرتا تو اس کی حالت

(۱) اس قید میں اس شبہ کا دفعہ ہے کہ بعض دعائیں انبیاء کی بھی مقبول نہیں ہوتیں۔ اور حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں گفتگو اس روڈ میں ہے جو دعا کرنے والے کی ناالمیت کے سبب ہو، اور انبیاء کی دعا کا رد اس بناء پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مثشاء اس کا خلاف حکمت ہونا ہوتا ہے۔ فاؤنڈم (مترجم)

یہ ہوتی کہ اگر وہ خدا کی نسبت قسم کھا بیٹھتا کہ وہ اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہشادے گا تو وہ اسے بھی قبول کرتا۔

خالد ربعی فرماتے تھے کہ ایک روز ابراہیم بن ادہم خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابوالحق اس شخص کی کیا پہچان ہے جس کا معاملہ خدا کے ساتھ درست ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ اس پہاڑ ابو قبیس سے کہے کہ تو اپنی جگہ سے ہٹ جا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ سے ہشادے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو قبیس کو جبنش ہونے لگی۔ تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میرا یہ مقصود نہیں تھا۔

جنیدؒ کی یہ روایت ہم کو پہنچی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ کسی شخص نے ولید کے خلاف گواہی دی۔ اس پر ولید نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو اسی وقت مار دے۔ اس دعا کے کرتے ہی وہ منہ کے بل گرا اور کچھ دیر تر پتارتا، یہاں تک کہ اسی وقت مر گیا۔

اعمشؓ فرماتے تھے کہ ہمارا خدا بھی کیسا اچھا ہے کہ اگر ہم اس کے ہر حکم کی اطاعت کر پس تو وہ ہماری ہر درخواست منظور کر لے۔

ابراہیمؓ بن ادہم ایک روز شہر مرداروڑ کے ایک پل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً ایک آدمی پل سے نیچے گرا۔ آپ نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ اسے ہوا میں روک لے جب تک کہ اس کو ہلاکت سے بچانے والا کوئی آ جاوے۔ اس پر وہ ہوا میں ٹھہر گیا یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر اسے نیچے اتارا۔

کسی سپاہی نے مالک بن دینا کو کوڑے سے مارا۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ اگلے روز کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اور وہ سپاہی ان کے سامنے کو اس حالت میں گزر اک اس کا ہاتھ لٹکتا تھا۔ کسی شخص نے مطرف بن عبد اللہ کے ذمہ کوئی جھوٹ لگایا تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے ابھی مار دے۔ اس پر وہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے فوراً بیجان ہو کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کو لپٹ

گئے اور پکڑ کر حاکم بصرہ کے پاس لے گئے، اور اس سے واقعہ بیان کیا۔ اس نے سن کر جواب دیا کہ نیک آدمی کی بد دعا تھی، لگ گئی اور وہ مر گیا (اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں) والحمد لله رب العلمین۔

امتحان محبت نفس

۶۰- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تاوفتیکہ وہ محبت کا یوں امتحان نہیں کر لیتے کہ وہ اپنے نفس کو دیکھیں کہ وہ اپنا آدھا مال اس شخص کو دینے پر راضی ہے یا نہیں جس کی محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہو تو اس کے برابر سے اسے تکلیف ہو گی یا نہیں، اس وقت تک وہ کسی کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ (پس ہر ایک شخص کو چاہئے کہ وہ یوں ہی امتحان کرے)۔ اب اگر اس کا نفس اس پر راضی ہو تو اس وقت یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اس سے محبت ہے، ورنہ جھوٹ بولنے سے باز رہے، کیونکہ یہ نفاق ہے۔ اور اس خلق سے آج کل بہت کم لوگ متخلق ہیں، اور میں اپنے بعض اصحاب کے متعلق اس سے متخلق ہوں اور بعض کے متعلق نہیں۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

گناہ گاروں پر رحم

۶۱- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو عاصیوں پر رحم آتا ہے، اور وہ ان کو حیر نہیں سمجھتے اور ان پر اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض حضرات (غایت شفقت کے سبب) یہ چاہتے ہیں کہ چاہے ان کی کھال قینچیوں سے کاٹ ڈالی جائے مگر یہ نافرمان لوگ کسی طرح خدا کی نافرمانی نہ کریں۔ نیز یہ حضرات گنہگار پر شفقت کو اس کے لئے بددعا سے بہتر سمجھتے ہیں۔

مطرف بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ جس کو گنہگاروں پر رحم نہ آتا ہو، اس کو یہ چاہئے کہ وہ ان کے لئے توفیق توبہ اور مغفرت کی دعا کیا کرے، کیونکہ فرشتوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ اہل زمین کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

زہیر بن نعیم فرماتے تھے کہ بخدا میں اس پر راضی ہوں کہ میری کھال قینچیوں سے کاٹ ڈالی جاوے مگر کوئی شخص خدا کی نافرمانی نہ کرے، (کیونکہ میں اپنی تکلیف تو جھیل لوں گا مگر ان کی تکلیف مجھے ہے نہ دیکھی جائے گی)۔

جبیب عجمی جب کوئی اس مضمون کی آیت پڑھتے کہ خدا فلاں قوم سے ناراض ہے۔ تو اس کو پڑھ کر روتے اور فرماتے کہ اے اللہ آپ نے میرے دل میں رحم پیدا فرمایا ہے، پس (میں اس رحم کے موافق آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دو باتوں میں سے ایک بات منظور فرمائیجیے) خواہ آپ ان کو معاف فرماؤں اور خواہ ان کے بد لے مجھے سزادے لیں۔ آھ۔^(۱) میں کہتا ہوں کہ شاید ان کی مراد رحم سے جوان کے دل میں ڈالا گیا ہے، یہ ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی درخواست کا دروازہ کھول دیا۔ ورنہ حق تعالیٰ کو ان پر غصہ کرنے سے روکنا مقصود نہیں۔ کیونکہ کامل کی شان یہ ہے کہ خدا کے غصہ کے سبب غصہ ہو، اور اس کی خوشی کے سبب خوش ہو۔ علاوہ ازیں جبیب مذکور کوتا بعین مغلوب الحال صوفیہ میں شمار کرتے تھے، اور اہل طریق کے نزدیک مغلوب الحال لوگوں کی تقلید جائز نہیں۔ (ابنذا اس باب میں ان کی تقلید نے چاہئے بلکہ خدا کے فعل پر راضی رہنا چاہئے) کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جبیب عجمی سے زیادہ حريم ہیں۔ واللہ اعلم۔

(۱) مؤلف رحمہ اللہ کا کلام اس موقع پر نہایت کمزور ہے، اور جو توجیہ انہوں نے کی ہے وہ جبیب عجمی کے کلام پر منطبق نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جبیب عجمی مغلوب الحال تھے جیسا کہ ان کی اس درخواست سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے بد لے مجھے سزادے لیجیئے، مگر ان کی درخواست مغفرت و عدم عقاب غضب لغضب اللہ و رضا لرضاء اللہ کے منانی نہیں، کیونکہ اگر اس کے یہ معنی ہوں کہ جس پر خدا ناراض ہو، آدمی بھی ضرور ناراض ہو تو باب دعا مغفرت ہیں مسدود ہو جاوے حالانکہ وہ مفتوح ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز موجب غضب خدا ہو یا جس سے ناخوش ہونے کا خداۓ تعالیٰ حکم دیں اسے مبغوض و مغضوب قرار دے۔ سو جبیب عجمی نے اس کے خلاف نہیں کیا۔ باں انہوں نے ایسی قوم کی سفارش کی ہے جس کی سفارش کے متعلق ان کو کوئی ممانعت نہ ہوئی تھی۔ اور باوجود اس کے انہوں نے اپنا اعذر بھی بیان فرمادیا ہے، وہ یہ کہ اس درخواست کا نشان ایک امر غیر اختیاری ہے اور وہ مجھے اس درخواست پر مجبور کرتا ہے، ورنہ میں آپ کے فعل کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ آپ کی مشیت میں مراحت کرتا ہوں۔ فتحہ لہ واللہ اعلم۔ ۱۴۔ مترجم

منصور بن محمد کسی کو کوئی حکم نہ کرتے تھے جس کا نشاء ان کا رحم تھا، اور فرماتے تھے کہ اگر یہ میرے کہنے کے خلاف کرے گا تو گنہگار ہو گا اور عذاب میں گرفتار ہو گا اور میں اس کا سبب بنوں گا (مثلاً وہ بے نماز سے یہ نہ کہتے تھے کہ تو نماز پڑھ کیونکہ ان کو اس کا اندر یہ شہ ہوتا تھا کہ شاید یہ انکار کر دے۔ اور ترک صلوٰۃ کے ساتھ انکار کا وبال بھی اس پر عائد ہو مگر یہ ان کا حال تھا، اس کا اتباع جائز نہیں، ورنہ امر بالمعروف کا سلسلہ ہی منقطع ہو جاوے۔ مترجم)۔

سفیان بن عینہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ اندر یہ شہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں گناہ میں مبتلا ہوں گے، تو میں یہ کہہ دیتا کہ جو کوئی میری غیبت کرے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بہ نسبت اس کے جو میری تعریف کرے، کیونکہ تعریف کرنے والا کبھی غلط تعریف بھی کرتا ہے (مگر چونکہ غیبت گناہ ہے۔ اس لئے مجھے غیبت سے منع کرنا پڑتا ہے)۔

شفیق بخش فرماتے تھے کہ جس کو برے آدمی پر رحم نہ آوے وہ اس سے زیادہ برا ہے، اور جس کے سامنے کسی نیک آدمی کا تذکرہ ہوا اور اس کو اس کے ذکر میں مزہ نہ آوے وہ برا آدمی ہے۔

میمون بن مهران کی حالت یہ تھی کہ جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں قوم پر ظلم ہو رہا ہے خواہ وہ روئے زمین پر کہیں ہو تو اس کے غم میں یہاں ہو جاتے اور ان کی یوں عیادت کی جاتی جیسے یہاں کی کیجا تی ہے، اور جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور فرمادی تو فوراً تندرست ہو جاتے۔

ثابت بنانی کی یہ جالت تھی کہ جب ان سے کوئی درخواست کرتا کہ میرا فلاں کام کر دو (اور ان کے امکان میں نہ ہوتا) تو ہر نماز کے بعد سجدہ میں پڑ کر اس کے لئے دعا فرماتے، یہاں تک کہ اس کا کام ہو جاتا۔

شریک نے ایک فارس کی چیونٹی کو جو کہ ان کے دستِ خوان پر ملی، بارہ میل سے اس کے مقام پر پہنچوایا (بدیں خیال کہ یہ اپنے گھر سے جدا ہو گئی اور اس کو اس کا خیال

ہوگا)۔ نیزان کے رحم کی یہ حالت تھی کہ وہ چیزوں کے لئے روٹیاں توڑ کر ڈالتے اور ان کے گھروں پر آنٹا ڈالتے کہ ان کو روزی تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔

ابوالدرداء ان چڑیوں کے بچوں کو، جن کو بچے پکڑ لیتے تھے، ان سے خرید کر ان کے گھونسلوں میں چھوڑ آتے تھے۔ علی ہذا ان کی ماوں کو جن کوشکاری پکڑتے تھے، ان سے خرید کر چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ اپنے بچوں کے پاس پہنچ جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ساندھ چھوڑنے کے قبیل سے نہیں جس کی ممانعت ہے بلکہ یہ بچے پر، یا اس کی ماں پر رحم ہے جو مورب ہے۔ واللہ عالم۔

امیر معاویہ کا قاعدہ تھا کہ جب ان سے کوئی اپنی کسی ضرورت میں سوال کرتا اور (وہ اس کے کل سوال کو پورا نہ کر سکتے بلکہ) کچھ حصہ پورا کرتے تو جو حصہ وہ پورا کرتے اسی نسبت سے وہ بوجہ اس غایت تعلق کے جوان کو اپنے بھائیوں سے تھا اپنی فکر میں کمی محسوس کرتے (کیونکہ اس سے مسائل کے فکر میں کمی ہوتی، اس کے فکر کی کمی سے ان کی فکر میں کمی ہوتی)۔ پس تمہیں اپنے دل کو نہ لانا چاہئے اور بدیکھنا چاہئے کہ آیاتم میں اپنے بھائیوں کے متعلق اس رحم و ہمدردی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ اور اگر نہ ہو تو تمہیں اپنی حالت پر رونا چاہئے کہ مقام صالحین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ والحمد لله رب العالمین۔

قناعت

۶۲- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ موجود پر قناعت کرتے ہیں، اور کھانے، پینے، لباس، سواری، نکاح، مکان وغیرہ میں زیادتی کے جویاں نہیں ہوتے۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ عزت اور غنایہ دونوں اس تلاش میں چلیں کہ کسی کے پاس رہیں۔ راستے میں ان کو قانع عمل گیا اور وہ اسی کے پاس رہ پڑیں۔ (حاصل یہ ہے کہ قناعت میں عزت اور غنی دوںوں ہیں)۔

محمد بن واسع نمک اور سرکہ سے روٹی کھاتے، اور فرماتے کہ جو اس قدر دنیا پر قناعت کرے اسے اپنے کولوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جو شخص اس زمانہ میں جو کی روٹی پر قناعت نہ کرے گا وہ لامحالہ ذلت و خواری میں بنتا ہوگا۔ اور ایک شخص نے ان سے مال جمع کرنے کی اجازت چاہی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو شخص مال جمع کرتا ہے، پانچ بڑی خصلتوں میں بنتا ہو جاتا ہے۔ ایک طول امل، دوسرے شدت حرص، تیسرا کثرت بخل، چوتھے نیسان آختر، پانچویں قلت پر ہیز گاری (اب تم اپنا نفع نقصان دیکھاوا)۔

حامد لفافؓ فرماتے تھے کہ جو غنی کو قناعت کے ذریعہ سے طلب کرتا ہے وہ ٹھیک راستہ پر ہے، اور جو اس کو مال کے ذریعہ سے طلب کرتا ہے وہ راستہ چوک گیا۔

آہ۔ اور میں نے اس مقام والوں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔

منجملہ ان کے ہمارے شیخ شیخ الاسلام زکریا انصاری و شیخ امین الدین امام جامع الغری نیز شیخ عبدالعلیم بن مصلح۔ شیخ علی نقیبی۔ شیخ علی بجری۔ شیخ محمد بن عنان۔ شیخ محمد منیر۔ اور شیخ محمد عدل وغیرہم ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ لوگ پانی میں خشک روٹی چور کر کھاتے اور اسی پر اکتفا کرتے تھے۔

شیخ تاج الدین ذاکر فرماتے تھے کہ قناعت یہ نہیں کہ آدمی کو جو کچھ بلاز جمت مل جاوے اسے کھالے، بلکہ قناعت اصلی یہ ہے کہ آدمی کے پاس بہت سامال اور کھانا ہو مگر باوجود اس کے وہ پانچ روز یا کم از کم تین روز میں تھوڑا سا کھالے (اور باقی صدقہ و خیرات کے لئے رکھے)۔

شیخ علی خواصؓ جب کھانا کھاتے تو نولقوں سے زیادہ نہ کھاتے، اور فرماتے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: حسب ابن آدم لقمات یقمن صلبہ۔ یعنی آدمی کے لئے چند لقਮے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور لقمات (بوجہ جمع قلت ہونے کے) تین سے لے کر نو تک ہوتے ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد صحیح ہے۔ لہذا جو شخص آپؐ کے ارشاد پر کامل ایمان رکھتا ہے اس کے لئے نو

لئے ضرور کافی ہوں گے اور اسے زیادہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ نیز میں نے ان کو یہ بھی فرماتے تھا ہے کہ جس کو دن رات میں نو لئے کافی نہ ہوں وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ارشاد پر پورا ایمان نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں (۱) کہ اس حدیث کو ان لوگوں پر محمول کرنا چاہئے جو محنت کے کام نہیں کرتے رہے۔ وہ لوگ جو محنت کے کام کرتے ہیں جیسے کسان، ہبھتی کاٹنے والے، ڈھال بنانے والے، ملاج، محنتی وغیرہ سوان کے لئے اتنی مقدار کافی نہیں ہو سکتی، بجز اس صورت کے کہ ان کی قوت فرشتوں کی سی ہو جاوے اور ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب ہو جاوے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے قوم اوط علیہ السلام کی بستیاں اکھاڑ لی تھیں اور ان کو آسمان کے اس قدر قریب لے گئے تھے کہ آسمان والوں نے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازن لی تھی۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

دنیا سے بے رغبتی

۶۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ لوگ رفع حجاب کی بیحد کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی چشم قلب سے آخرت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اعمال آخرت کے لئے فارغ ہو سکیں۔ ورنہ جو لوگ مشاہدہ آخرت سے محبوب ہیں ان سے دنیا سے بے رغبتی نہایت بعید ہے۔

عبداللہ بن سلام فرماتے تھے کہ جو شخص بدون اس کے آخرت کو اپنے سامنے دیکھے، دنیا سے بے رغبتی کا ارادہ کرے، وہ طالب محال ہے۔

ابو واقد لیثی فرماتے تھے کہ ہم نے آخرت کے اعمال میں بہت مشقتیں اٹھائیں مگر کسی عمل کو اتنا اعلیٰ درجہ کا نہیں پایا جیسے دنیا سے بے رغبتی، (کیونکہ حدیث

(۱) اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف علام نے علی خواص کے استدلال کو تسلیم کر لیا، حالانکہ خود ان کا استدلال ہی صحیح نہیں کیونکہ حدیث میں نو کی تحدید مذکور نہیں بلکہ صرف تقلیل ملحوظ ہے۔ والحمد لله عالم۔

شریف میں ہے ”حب الدنیا راس کل خطیئة“، یعنی دنیا کی محبت ہرگناہ کی جڑ ہے۔ پس دنیا سے بے رغبتی ہرگناہ سے بچانے والی ہوگی۔ لہذا یہ صحیح ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں)۔

مالک بن دینار نے ایک شخص کو کہتے سنائے کہ اگر خدا جنت میں مجھے ایک کوٹھری دیدے تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ کاش دنیا سے اتنا بے رغبت ہوتا جتنا کہ جنت سے ہے۔

میں نے سیدی علی خواص کو فرماتے سنائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایسی حکومت مانگی تھی جوان کے بعد کسی کونہ ملے، تو اس کی وجہ (حرص نہ تھی بلکہ) یہ تھی کہ دنیا سے بے رغبتی ان کی مکمل ہو جاوے اور ان کو مقام زہد علی وجہ الکمال حاصل ہو جاوے، کیونکہ دنیا سے بے رغبتی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نہ دنیا ہو اور نہ اس کی طرف رغبت نہ ہو۔ سو یہ کچھ زیادہ کمال نہیں، اور ایک یہ کہ دنیا ہو اور اس کی طرف رغبت نہ ہو۔ سو یہ اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ پس انہوں نے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لئے اس کی درخواست کی تھی۔

ابوالدرداء فرماتے تھے کہ اگر کوئی قسم کھانے والا یہ قسم کھاوے کہ وہ شخص جس کو دنیا کی طرف رغبت نہ ہو سب سے بہتر شخص ہے۔ تو میں کہوں گا کہ تو سچا ہے، تجھے کفارہ قسم کی ضرورت نہیں۔

امام شافعی فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ میرا مال اس کو دیا جاوے جو سب سے زیادہ عاقل ہو، تو میں کہوں گا کہ اسے دینا چاہئے جو دنیا سے بے رغبت ہو۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ تمام لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جاویں گے، بجز اسکے جو دنیا سے بے رغبت ہو۔

شقيق بخشی فرماتے تھے کہ سچا زاہد تو اپنے زہد کو اپنے فعل سے ٹھیک کرتا ہے، اور بنا ہوا زاہد اس کو بلا فعل کے صرف قول سے ٹھیک کرتا ہے۔

کسی شخص نے سفیان بن عینہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے عالم کو دیکھوں جو دنیا سے بے رغبت ہو۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ گم ہو چکے اور اب نہیں مل سکتے، کیونکہ زائد کھلانے کا وہ مستحق ہے جو حلال محض کی طرف بھی رغبت نہ رکھتا ہو۔ (اور حرام یا مشتبہات سے احتیاط کرنے والا زائد نہیں کھلاتا)۔ اور اب حلال ہے کہاں کہ اس سے آدمی بے رغبتی اختیار کرے۔ میں کہتا ہوں کہ حلال بھی موجود ہے اور زہد وغیرہ مقامات بھی موجود ہیں، مگر ہر انسان کا حلال اور اس کا مقام زہد وغیرہ اس کے حال کے مناسب ہوا کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے شارع نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم حلال کھاویں اور اخلاق و مقامات میں شارع علیہ السلام کا اتباع کریں، ورنہ اگر حلال موجود نہ ہوتا اور ترقی ممکن نہ ہوتی تو احکام شرعیہ کئی صدیوں سے باطل ہو چکے ہوتے۔ پس جتنے لوگ ہیں سب حلال کھانے والے اور خدا سے ڈرنے والے اور زائد اور پرہیز گار ہیں، مگر اپنے اپنے مرتبہ اور حصہ کے موافق۔ پس شاید ان کا قول کہ حلال اب موجود نہیں، بطور مبالغہ کے ہے۔ والله اعلم۔ (میں کہتا ہوں ”فلکر ہر کس بقدر ہمت اوست“ سفیان نے اپنے مرتبہ کے موافق بات کبھی تھی۔ اور شیخ نے اپنے مرتبہ کے موافق۔ والله اعلم مترجم)

عبدالله بن مسعود فرماتے تھے کہ جو شخص سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہو گا، وہی سب سے زیادہ اچھے کام کرے گا۔
ابراہیم بن ادیم فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی کا مدعا ہو اور باسیں ہمہ وہ اس شخص پر خفا ہو جو دنیا کی اہل دنیا کے سامنے تنقیص و تحریر کرے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔

حماد بن زید فرماتے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی سے زیادہ کوئی چیز شیطان کی کمر توڑنے والی نہیں۔

ابن السماک فرماتے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی صرف کتابوں میں مذکور رہ گئی، اور اس کا کرنے والا ہمیں نہیں ملتا۔

یونس بن عبید سے کسی نے پوچھا کہ دنیا سے بے رغبتی کی انتہا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں بالکل چین نہ ملنا (یعنی جس کی یہ حالت ہو کہ دنیا کی کسی بات سے بھی اسے چین نہ ہو اور وہ ہر حالت میں آخرت ہی کا جویاں رہے اس کو پوری دنیا سے بے رغبت کہا جاسکتا ہے)۔ میں کہتا ہوں کہ اس مقام والے حضرات میں سے جن کو میں نے پایا ہے، وہ لوگ ہیں: شیخنا سیدی علی خواص، شیخ عبداللہ قومی (المدفون بتربة الامیر بسبک خارج مصر)، شیخ علی مفتی صالحیہ مصر، شیخ شمس الدین سنودی، شیخ محمد منیر، شیخ ابو الحسن غمری، شیخ عبدالعیم بن مصلح، شیخ محمد بن داؤد، شیخنا شیخ امین الدین امام جامع الغمری۔ سو دنیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی نہ کہ دلوں میں۔ اور یہ حضرات سائل کو محروم نہ پھیرتے تھے اور اگر ان میں سے وہ کسی سے ان کا عمامہ مانگتا تھا تو وہ بھی دے دیتے تھے۔

شیخ محمد منیر ایک ایسے آدمی سے ملے جس کا شتر بان (مال و اسباب لے کر) حج کے رستہ میں بھاگ گیا تھا (اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا) تو آپ نے اس کو پانسو اشرفیاں دیں۔ پس جبکہ وہ مکہ پہنچا تو اس نے معاوضہ دینا چاہا۔ شیخ نے اس کے لینے سے انکار کیا اور کہا میں نے معاوضہ لینے کے قصد سے نہ دی تھی۔ حالانکہ شیخ کی اس کے ساتھ اس سے پیشتر جان پہچان بھی نہ تھی۔ اب تم ان حالات پر غور کرو اور دیکھو کہ تمہارے زمانے کے صوفی بھی سفر حج میں اپنے مبتلاۓ تکلیف ساتھی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اور اس سے معاوضہ نہیں لیتے؟ (ہرگز نہیں کرتے)، حالانکہ (ان کو کرنا چاہئے کیونکہ) وہ زبان سے کہتے ہیں یا کم از کم دل میں سمجھتے ہیں کہ شیخ محمد منیر ان سے مقام میں کمتر ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر رونا چاہئے کہ تم مقامات صالحین سے پیچھے رہ گئے اور ان تک نہ پہنچ سکے۔ والحمد لله رب العالمین۔

تعظیم حکم الہی

۶۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ امام کے پیچھے نیت باندھنے میں بہت جدیدی کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں حکم الہی کی تعظیم ہے اور اس کو

مؤخر کرنے میں اس کی تحقیر ہے۔ اور یہ مبادرت نہ وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ایسا کرنے میں ان کو زیادہ ثواب ہوگا، اور نہ اس وجہ سے کہ نماز میں حق تعالیٰ کے ساتھ مجالست و ہمنشینی ہوتی ہے، اور یہ ہمنشینی نہایت پر اطف ہے، اس لئے جس قدر ممکن ہو اس کو حاصل کیا جاوے، کیونکہ ان دونوں غرضوں میں نفس کی شرکت ہے۔ اور جو شخص ان اغراض سے ایسا کرتا ہے وہ اپنے حظ نفس میں کوشش کرتا ہے بلکہ ان کا مقصد اس سے محض حکم خداوندی کی تعظیم اور ان کی عدم تحقیر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ختنہ کرنے کا حکم ہوا اور ان کو استرہ نہ ملا تو انہوں نے بسولہ سے ختنہ کر لیں اور جبکہ ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ نے استرہ ملنے تک توقف کیوں نہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی خدا تعالیٰ کے حکم کی قیمت میں دیر کرنا بڑی سخت بات ہے۔ پس تم کو چاہئے کہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ والحمد لله رب العالمین۔

ترک و قوت دنیا

۶۵- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا ان کے نزدیک محض بے وقعت ہوتی ہے، اور وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ارشاد پر عمل کرنے کے لئے کہ دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی۔ پس تم آخرت کے بیٹے بنو۔ آہ۔ دنیا کو یک لخت چھوڑ دیتے ہیں۔

طبرانی وغیرہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ میں ایک روز جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کسی غیر محسوس شے کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دے رہے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کسی چیز کو دھکا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے الگ رہ۔

نیز حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ایک قوم کے کوڑا کباز ڈالنے کی جگہ ٹھہرے تو آپ نے ایک مردہ بکری پڑی دیکھی۔ اس پر آپ نے اس کا

کان پکڑا اور فرمایا کہ دیکھتے ہو یہ اپنے گھروالوں کے نزدیک بے وقعت ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت بے وقتی ہی کے سبب تو انہوں نے اسے پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے وقعت ہے، جس قدر بکری اپنے گھروالوں کے نزدیک بے وقعت ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر حق سبحانہ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے۔

محمد بن الحنفیہ رفرماتے تھے کہ قیامت میں دنیا بن سنور کراور ناز کی رفتار پلے گی اور کہے گی کہ اے اللہ مجھے آپ اس شخص کو دید تجھے جو آپ کے بندوں میں سب سے اچھے گھروالے ہوں۔ اس پر حق سبحانہ فرمادیں گے کہ میں تجھے اس کے لئے پسند نہیں کرتا۔ اے بے حقیقت جادو رہو، اور نیست نابود ہو جا۔

ایک روایت میں ہے کہ حق سبحانہ اس سے فرمادیں گے کہ جادو زخم میں۔ اس پر وہ عرض کرے گی کہ جو میرے دوست ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں۔ اس پر حکم ہو گا اچھا جو تیرے دوست ہیں وہ بھی جائیں۔ پس وہ اپنے سب دوستوں کو لے کر دوزخ میں چلی جاوے گی۔

ابو عازم رحمۃ فرماتے تھے کہ جو لوگ دنیا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کو حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس کی وقعت کرتے تھے، جس کو خدا نے بے وقعت سمجھا ہے۔ پس یہ سن کر مارے شرم کے ان کے چہروں کا گوشت گر جاوے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ دنیا سے بھی محبت کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ وہ اسے ناپسند کرے جس کو اس کا محبوب ناپسند کرتا ہے۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ عالم جب اپنی خواہش نفسانی کو میری طاعت پر ترجیح دیتا ہے تو سب سے معمولی برتاب و جو میں اس سے کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ میں اسے اپنی مزیدار ہم کلامی سے محروم کر دیتا ہوں، (مطلوب یہ ہے کہ معصیت کی ادنیٰ شامت

یہ ہے کہ اس سے ذکر اللہ کی توفیق مسلوب ہو جاتی ہے)۔

وہب بن منبه اپنے دوستوں سے فرماتے تھے کہ لا وہم اس گناہ سے توبہ کریں جس سے لوگوں نے توبہ چھوڑ دی ہے۔ اس پر وہ عرض کرتے کہ حضرت وہ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ فرماتے کہ دنیا کی محبت، اور (فرماتے کہ اب تو لوگ دنیا سے صرف محبت ہی کرتے ہیں مگر) عنقریب کچھ لوگ دنیا کی اور اہل دنیا کی پرستش کریں گے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ جو شخص حب دنیا کو گناہ کبیرہ نہ قرار دے وہ غلط راستہ پر ہو گیا۔ اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کفر مبنی ہے، اور وہ بنیاد ہے کفر کی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کا سبب یہ ہے کہ حسد یا تکبر کی وجہ سے ان احکام کی مخالفت کی جاوے جو رسول اللہ ﷺ خدا کی طرف سے لائے ہیں، اور حسد یا تکبر یہ دونوں حب دنیا کے سبب سے ہوتے ہیں (تو حب دنیا کا بنیاد کفر ہونا ثابت ہو گیا) واللہ اعلم۔

عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ اس جادو گرنی سے بچو جو علماء کے دلوں پر جادو کر کے ان کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتی ہے یعنی دنیا۔ یہ ہاروت و ماروت سے زیادہ جادو گر ہے، اور اس کا جادو ان کے جادو سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ تو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کرتے تھے، یہ خدا اور بندہ کے درمیان جدائی پیدا کرتی ہے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ میاں ہم نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی ہے کہ وہ دنیا کو ایک امانت سمجھتے تھے جس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسے اس کے مالک کے حوالہ کر دیں گے (اور اسی لئے وہ اسے اسی موقع پر صرف کرتے تھے جہاں اس کے مالک حقیقی یعنی حق تعالیٰ کی مرضی ہو)، اور اس میں اپنی کسی قسم کی ملک نہ سمجھتے تھے (تاکہ جس جگہ چاہے صرف کریں) اور اسی لئے وہ دنیا سے ہلکے ہلکے رخصت ہو گئے (کیونکہ انہوں نے نہ اس کے حاصل کرنے کی پرواہ کی اور نہ اس کے رکھنے کی)۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے تھے کہ خشک روٹی بھی دنیا سے ڈرتے ڈرتے کھاؤ، اور اپنے کو اس حالت میں بھی دنیا سے بے رغبت ہرگز نہ خیال کرو کیونکہ ذرا سی دنیا سے بہت سی ہو جاتی ہے اور آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ (خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر دنیا سے تھوڑا سا بھی تعلق ہو جو کہ ہر ایک کے لئے لازم ہے تو اس کو دنیا سے غافل نہ ہونا چاہئے، کیونکہ جہاں وہ غافل ہوا اور دنیا نے اس پر تسلط کیا)۔

سفیان بن عینہ فرماتے تھے کہ صوفیہ کرام ذکر اللہ اس لئے کرتے ہیں کہ دنیا ان سے دور ہے، کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ جب تک لوگ خدا کی یاد میں مصروف ہوں اس وقت تک ان سے دور رہے گی۔ اور جب وہ اس کو چھوڑ کر منتشر ہو جائیں گے فوراً ان کی گرد نیں آپکڑے گی۔ آہ۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

استحیاء

۶۵- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ کثرت سے پیشاب پاخانہ جاتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اس لئے وہ زیادہ نہیں جاتے۔ اور صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے اور حد شرعی کے اندر اور محض جناب رسول اللہ ﷺ کی اقداء کے لئے ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ بھوک کے غلبہ کے سبب پیٹ پر پھر باندھتے تھے اور یہ حالت اضطراری نہ تھی بلکہ اختیاری تھی کیونکہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ اگر آپ چاہتے تو کھاسکتے تھے مگر آپ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے تھے (اور بھوکوں کو دے کر خود بھوکے رہتے تھے)۔ میں کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا مقام دوسرا تھا جو اس سے اکمل تھا جس کا بیان اس خلق میں ہوا ہے، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے نفس کو مقدم رکھتے تھے، اور باختیار بھوکے نہ رہتے تھے، کیونکہ کامل کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس کا پورا حق ادا کرے کیونکہ اس سے اس کے متعلق باز پرس ہونے والی ہے۔ پس آپ نے باختیار خود بھوکہ رہنا اور دوسرا وَ

اپنے اوپر ترجیح دینا اس لئے اختیار فرمایا تھا تاکہ دوسرے لوگ ان کا اتباع کریں، (کیونکہ یہ مجاہد ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہ تھی مگر دوسروں کو ضرورت تھی۔ اس لئے دوسروں کی تعلیم کے لئے آپ نے ایسا کیا۔) واللہ اعلم۔

عبدالرحمٰن بن ابی نعم ہر پندرہ روز میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ اس کی اطلاع حاجج بن یوسف کو ہوئی، انہوں نے ان کو بلایا اور ایک مکان میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ پندرہ دن کے بعد کھولا تو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔

عبداللہ بن زبیر ہفتہ بھر بھوکے رہتے تھے، اور صرف ہفتے کے روز کھانا کھاتے تھے۔ امام ابوحنیفہ بہت ہی کم کھانا کھاتے اور اتنا کھاتے تھے جتنا کہ ایک پرندہ کھاتا ہے۔ اور ان کے گھر میں سوائے ایک بوریہ کے کچھ نہ تھا۔

ابوسیمان دارالن فرماتے تھے کہ مجھے عبادت میں اس وقت نہیں ہی لطف آتا ہے جبکہ میرا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہو (اس وقت حکمت کا فیضان ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت دلہن کی طرح غالی مکان چاہتی ہے جس میں وہ اپنے شوہر کے پاس اطمینان کے ساتھ سووے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ دو سالن دسترخوان پر اکھنے نہ کرو، کیونکہ (عادۃ) پھانا من فقین کا ہے۔ (گواتما قایہ طور پر کسی ابل اللہ کو بھی یہ واقعہ پیش آ جاوے)۔

امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی ووڈیکھتے کہ اس کے پیٹ کی حالت بوجہ پیٹ بھر کر کھانے اور پیٹ بڑھ جانے کی لگکی ہوئی ہے تو اس پر درہ لے کر مارنے چڑھ جاتے، اور فرماتے کہ یہ کھال کفار کے پیٹ کی حالت کے مشابہ ہے (کیونکہ وہی اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ پیٹ بڑھ کر لگ جائے، مسلمانوں کے پیٹ کو کمر سے لگا ہوا ہونا چاہئے)۔ نیز وہ جب کسی کو اکثر گوشت خریدتے دیکھتے تو اس کو بھی درہ سے مارتے اور فرماتے کہ تجھے معلوم نہیں کہ اس کی چاٹ شراب کی چاٹ کے مثل ہے (یعنی جب یہ منہ و لگ جاتا ہے تو چھٹا نہیں۔ اس نے اس سے نفس پروری پیدا

ہوتی ہے)۔

امام اور زاعم مہینہ بھر میں ایک مرتبہ پا خانہ جاتے تھے، اس کے بعد دو مرتبہ جانے لگے تو ان کی والدہ ان کے دوستوں سے کہتیں کہ عبد الرحمن کے لئے دعا کرو ان کو دست آنے لگے، اور مالک بن دینار فرماتے تھے کہ میں تین دن میں ایک مرتبہ پا خانہ جاتا ہوں مگر اس سے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ یہی حالت امام مالک رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی تھی۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ ہم کو روایت پہنچی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو گیہوں کا مغز کھاتے اور بھوسی پھینک دیتے ہیں، بخدا ایک مرتبہ میرے آٹے میں راکھل گئی تھی، اس کو میں نے ایک عرصہ تک کھایا مگر میرا جسم کمزور ہو گیا، اس لئے میں نے اسے مجبوراً چھوڑ دیا، لیکن اگر میں اسے برداشت کر سکتا تو عمر بھرا سے نہ چھوڑتا۔

سفیان ثوری و ابراہیم بن ادہم جب حلال کھانا نہ پاتے تو پندرہ پندرہ دن بلکہ اس سے بھی زیادہ دنوں تک صرف ریت پھانکتے۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ میں حاجج بن قرافظہ کے پاس گیارہ روز تک رہا۔ سو میں نے ان کو کچھ کھاتے پیتے دیکھا اور نہ نماز کے سوا کسی اور کام کے لئے اٹھتے دیکھا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس خلق میں جو تم نے تین دن سے زیادہ بھوکا رہنے کے واقعات بیان کئے ہیں، یہ خلاف سنت ہیں کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایسا نہیں کیا اور تم نے بھوکا رہنے میں حد شرعی کے اندر رہنے کی قید لگائی ہے تو ان میں تطیق کس طرح ہو گی؟ اور ان کے تین روز سے زیادہ بھوکا رہنے کی توجیہ کیا ہو گی؟ سواس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ چند روز تک صوم وصال رکھتے تھے، پس ممکن ہے کہ جو لوگ زیادہ دنوں تک بھوکے رہتے تھے وہ اس معاملہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے وارث ہوں اور ان کے اتباع سے ان کو اس کی قوت ہو گئی ہو، اور وصال کی ممانعت ان کو ہو جو اس کا تحمل نہیں کر سکتے اور ان کو اپنے نفس

کوختی میں بتلا کرنے سے اس لئے منع فرمادیا ہو کہ مبادا ان کو عبادت سے نفرت ہو جائے۔

ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو عقال مغربی ہر چھ ماہ میں صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے۔ میں نے شیخ علی مرصفی سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ شیخ عیسیٰ بن نجم جن کا مزار بحر برلس کے ساحل پر ہے، ان کو یہ واقعہ پیش آیا کہ ستراہ برس بلا کچھ کھائے اور بلا کچھ پنے اور بلا سوئے ایک وضو سے رہے۔ (سو جب ان حضرات کی قوت کی یہ حالت ہے، تو نبی صوم وصال کے یہ لوگ مخاطب نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے مخاطب صرف ضعفاء ہوں گے، اور اس صورت میں ان لوگوں پر مخالفت شریعت کا اشکال نہ ہو گا جنہوں نے تین دن سے زیادہ کچھ کھایا پیا نہیں۔ واللہ اعلم۔

بعض محققین نے اس اعتراض کا دوسرا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو زیادہ دنوں تک بھوکے رہتے تھے شام کے وقت ایک کشمش یا ایک قطرہ پانی پی لیتے تھے تاکہ وصال منہی عنہ کی حد سے نکل جائیں، (اور بھوکے رہنے کا جو مقصد ہے وہ بھی فوت نہ ہونے پائے۔ اور خیال تو یہی ہے کہ وہ ضرور ایسا کرتے ہوں گے۔ باقی واقعی بات خدا کو معلوم ہے کہ آیا وہ نصوصی نبی وصال میں تاویل کرتے تھے یا ان پر اس طرح عمل کرتے تھے جس طرح بعض محققین نے بیان کیا۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بھوکار بنا طریق کا ایک بڑا کرن ہے حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو طالب پانچ روز کے بعد کھانا مانگے اس سے کہہ دینا چاہئے کہ جاؤ کھاؤ کماو، کیونکہ اس سے طریق میں کچھ نہ ہو سکے گا۔

ابوعثمان خیری فرماتے تھے کہ ابتداء طریق اور اپنی سیاحت کے زمانہ میں سال سال بھر مجھے کھانے کا خیال بھی نہ آتا تھا، ہاں اگر کہیں میرے سامنے آ جاتا تو اور بات ہے۔ آہ۔ پس تمہیں اپنے بھوکے رہنے پر ناز نہ ہونا چاہئے اور سمجھنا چاہئے کہ تمہاری بھوک انہی لوگوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور باوجود اس کے ان کی بھوک حد شرمنی سے خرچ بھی نہ تھی۔ کیونکہ وہ اس کو برداشت کر سکتے تھے اور اس کی

مانعت مقصود بالذات نہیں، بلکہ وہاں ممانعت ہے جہاں نفس کو ضرر کا احتمال ہو، جیسا کہ اس کی تقریر گذر چکی ہے۔

سہل بن عبد اللہ تستری اپنی عقل اور اپنی قوت اور اپنی معرفت کو سات حصول پر تقسیم کرتے اور جب تک ان میں سے ہر ایک کے چھ حصہ نہ جاتے رہتے اس وقت تک کھانا نہ کھاتے، اور فرماتے کہ اگر مجھے ہلاکت کا خوف نہ ہوتا تو جب تک ساتوں حصہ نہ فنا ہو جاتے اس وقت تک نہ کھاتا۔ پس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے (اور اپنی حیثیت کے مطابق بھوکار بننے کا اہتمام کرنا چاہے)۔ والحمد لله رب العالمین۔

دنیا سے بے تعلق

۶۶۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ حضرات چونکہ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اور اس سے خالی ہاتھ ہوتے ہیں اس لئے اس سے بچاؤ کو اس حصول پر مقدم رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو اس سے خالی ہاتھ رہنے کو اس کے جمع کرنے اور جمع کر کے خدا کی راہ میں صرف کرنے پر بھی مقدم رکھتے ہیں بدیں خیال کہ جمع کرنے کے بعد شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے اس لئے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص جو دنیا اس غرض سے طلب کرتا ہے کہ اس سے دوسروں کو نفع پہنچاوے تو اس خام خیالی سے باز آ۔ تیرا اس کو چھوڑ دینا ہی بہت زیادہ نافع ہے۔

جنید فرماتے تھے کہ آدمی کا دنیا سے بے تعلق رہنا اس کے جمع کرنے اور اس کے بعد اس کے خرچ کرنے سے زیادہ نافع ہے، اور حضرات صوفیہ میں سے جب کسی سے کہا جاتا کہ یہ درہم لیجئے اور فقراء پر تقسیم کر دیجئے تو فرماتے کہ میاں تم خود تقسیم کر دو۔ اور فرماتے کہ جو شخص اسے جمع کرے وہی تقسیم کا زیادہ مستحق ہے، اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال حرام یا مشتبہ ہوتا ہے تو اس سے فقیروں کے لئے خرابی اور بانٹنے والے پر و بال ہوتا ہے پس اپنے اوپر کیوں بوجھ رکھا جائے۔

حسن بصری فرماتے تھے کہ جو شخص سب کاموں کو چھوڑ کر اپنے رب کی

عبدات میں لگ ہاوے، وہ اس سے افضل ہے جو عبادت کو چھوڑ کر بال بچوں کے لئے
کمائی کی فکر میں لگا رہے۔

ابراہیم بن ادہم فرماتے تھے کہ تم میں اور اصل صوفیوں میں بہت فرق ہے،
ان کی حالت تو یہ تھی کہ دنیا ان کی طرف آتی تھی اور وہ اس سے بھاگتے تھے۔ اور تمہاری
حالت یہ ہے کہ دنیا تم سے بھاگتی ہے اور تم اس کا پیچھا کرتے ہو۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ دنیا کی تلخی کا پینا ایلوے کی تلخی پینے سے زیادہ
سخت ہے۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ کوئی شخص صد یقین کے مرتبہ کو اس وقت تک
نہیں پہنچ سکتا تا وقت تک وہ یہوی کو ایسی نہ چھوڑ دے جیسے کہ وہ یہو ہو۔ اور بچوں کو اس
حالت میں نہ چھوڑ دے جیسے کہ وہ یتیم ہوں، (مقصود یہ نہیں ہے کہ ان کی خبرگیری مطلقاً
چھوڑ دے کیونکہ یہ تو حرام ہے بلکہ مقصود مبالغہ یہ ہے کہ ان کی دھن میں نہ لگے بلکہ دھن
تو خدا ہی کی رہے، اور ان کی خبرگیری ضرورت کے مطابق اور وہ بھی شریعت کا حکم سمجھ کر
رکھے)۔

ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گذر ایک ایسے
شخص پر ہوا جو سورہ اتحاد اور وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے
تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میاں انہوں نماز پڑھو۔ اس نے جواب دیا کہ میں
نے خدا کی وہ عبادت کی ہے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا عبادت
ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اس سے فرمایا کہ اچھا سوتارہ کیونکہ تو سب عبادت کرنے والوں سے بڑھ گیا ہے۔

اس خلق کے متعلق حضرات صوفیہ کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد
ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ اہل صفحہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم میں کون
شخص ہے جو بطن جاوے اور جا کر وہاں سے بڑے بڑے کوہانوں والی دو اونٹیاں
لے آؤے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے، تو آپ

نے فرمایا کہ تمہارا اس کو چھوڑ دینا اور مسجد میں جانا اور جا کر قرآن شریف کی دو آیتیں سیکھ لینا یہ دو اونٹیوں اور تین اونٹیوں سے بہتر ہے، بلکہ تین اور چار سے بہتر ہے بلکہ چار اور باقی اعداد سے بہتر ہے۔ اـھ (میں کہتا ہوں) کہ ہر مقام کے لئے آدمی ہوتے ہیں، اور شارع کا کام یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس مقام کے متعلق ترغیب دے جس میں حق تعالیٰ نے اسے قائم کر دیا ہے، تاکہ مراتب معطل نہ ہو جاویں (یہی وجہ ہے کہ کسب حلال اور نکاح و بیان وغیرہ کی بھی ترغیب دیتے ہیں، اور زہد اور دنیا سے بے تعلقی کی بھی۔ غرض جس کی طبیعت کو جس طرح لگا ہوا س کے مناسب اس کی تربیت فرماتے ہیں اور ایک ہی طریق پر سب کو نہیں لاتے ورنہ کارخانہ عالم تباہ ہو جائے، لیکن اتنی بات ہے کہ خواہ زہد فی الدنیا ہو یا دنیا سے تعلق ہر بات حدود شریعت کے اندر ہو، اور سب سے مقصود رضاۓ حق سبحانہ ہو، اس صورت میں جتنا زہد محمود ہے اتنا ہی تعلق محمود ہو گا۔ واللہ اعلم)

والحمد لله رب العالمين -

حسن ظن بالمسلمین

۶۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کر کے پہاڑ وغیرہ میں جا رہا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس بھی آتا جاتا ہے، اور ان کی دعوتوں میں شریک ہوتا ہے، اور ان کے مردوں کے کفن دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو وہ اس کو کسی غرض فاسد پر محمول نہیں کرتے (مثلاً وہ یہ کہیں کہ اپنے آپ کو بے تعلق مشہور تو کر دیا مگر اس کو نباہ نہ سکا، یا یہ کہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس لئے ایسا کرتا ہے کہ لوگ اس کے مولد وغیرہ میں شریک ہوں، ایسا نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہئے) بلکہ حسن ظن اور مسلمانوں کے ساتھ حسن خلق کا مقتضایہ ہے کہ اس کے فعل کو اس پر محمول کرنا چاہئے کہ وہ خالص خدا کے لئے ایسا کرتا ہے، پس خبردار تم کبھی کسی شخص کے ساتھ جو کسی زمین یا کسی پہاڑ پر جا کر رہنے لگا ہے اس کو مخلوق سے ملتا جلتا دیکھ کر کبھی بر اگمان نہ کرنا (اور یہ نہ کہنا کہ یہ تو سب کو چھوڑ کر چل دئے

تھے، اب یہ کیوں ملتے جلتے ہیں) بلکہ تم پر لازم ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔
اس کو خوب سمجھلو۔ والحمد لله رب العالمین۔

تحصیل رزق کے لئے ترک اہتمام

۶۸۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تحصیل رزق کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب کوئی رات ایسی گذرتی ہے کہ ان کے پاس اس میں درہم یا دینار نہیں ہوتا تو (بجائے محروم و مغموم ہونے کے) وہ نہایت خوش ہوتے ہیں (اور شکر کرتے ہیں کہ آج خدا نے ہمیں بڑی بلا سے پچالیا)۔ نیز وہ کل کے لئے کھانا بھی نہیں رکھتے (بلکہ جو کچھ ملتا ہے روز کا روز صرف کرڈا لتے ہیں) اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان میں سے ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک سال کی غذار کھلیتا ہے تو وہ ان لوگوں کے نام سے ہوتا ہے جن کا بار اس کے اوپر ہے (مثلاً بیوی پچے ماں باپ وغیرہ) اور اپنے نام سے نہیں ہوتا، اور (اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کو خدا پر بھروسہ نہیں کہ وہ اس کے بال بچوں وغیرہ کو کھانا نہ دے گا) بلکہ اس سے مقصود خود بال بچوں وغیرہ کی پریشانی کو دفع کرنا ہوتا ہے جو کہ اس وقت پیدا ہو گی جبکہ ان کے پاس کھانے کونہ ہو گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد ظنی پیدا ہو جاوے، (لہذا وہ ان کے دین کو محفوظ رکھنے اور ان کو پریشانی سے بچانے کے لئے ایسا کرتا ہے)، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فقیر کبھی کبھی اس غذا کو بھی رکھ لیتا ہے جس کی نسبت اسے کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی کی قسمت کی روزی ہے اور دوسرا اسے نہیں کھا سکتا (اس لئے کسی کو دینا بے سود ہے)، مگر میں نے سیدی علی خواص سے سنا ہے: وہ فرماتے تھے کہ عارف کا کمال یہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو جاوے کہ فلاں شے اسی کی مقدار روزی ہے (اور دوسرا اس کو نہیں کھا سکتا) تو اسے نہ رو کے بلکہ فوراً دے ڈالے اور) جب تک وہ اس کے پاس وقت مقدر پر لوٹ کر خود نہ آ جاوے اس وقت تک صبر کرے کیونکہ اس میں ترجیح ہے۔ دنیا سے خالی ہاتھ ہونے کو اس کے رو کے رکھنے پر، نیز اس رو کرنے میں کچھ

فائدہ بھی نہیں۔ آہ (غرض کہ یہ ایک اجتہاد جس امر کو راجح قرار دے وہ کرے، اگر انفاق کو بے سود سمجھ کر اسے رہنے والے اس کا مصلحت نہیں، اور اگر روکنے کو بے سود سمجھ کر خرچ کرڈا لے تو بھی اچھا ہے)۔ میں نے شیخ علی بن تیتی بصیر سے سنا ہے: وہ فرماتے تھے کہ جو فقیر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات چاہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اگلے دن کا کھانا نہ رکھے، کیونکہ جو اگلے دن کے لئے کھانا رکھتا ہے اسے وہ نہیں ملتے۔

حضر علیہ السلام کا یہ بھی معمول ہے کہ وہ کاملین سے بیداری میں ملاقات فرماتے ہیں، اور مبتدیوں سے خواب میں ملتے ہیں، کیونکہ مبتدی ان کی بیداری کی ملاقات کا تحمل نہیں کر سکتا، اس بناء پر وہ خواب میں آ کر اس کو طریق کے متعلق وہ با تیں تعلیم کرتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔

ابو عبد اللہ یسریؑ جو دربار رسالت میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک شخص تھے ان کے ساتھ بیداری میں حضرت خضر علیہ السلام ملاقات فرماتے تھے اور دیر تک با تیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے بیداری میں ملنا بند کر دیا اور خواب میں تشریف لانے لگے۔ انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ بیداری میں کیوں نہیں ملتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری عادت ہے کہ ہم اس شخص سے بیداری میں نہیں ملتے جو اگلے دن کا کھانا اٹھا کر رکھتا ہے، اور تم نے فلاں وقت اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یہ درہم الماری میں رکھ دوتا کہ کل کام آؤے، اس پر ابو عبد اللہ نے عرض کیا کہ یہ صحیح ہے، مگر میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، مگر اس کے بعد وہ بیداری میں ان سے نہیں ملے حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ واقعہ انہوں نے اپنے مرض موت میں مجھ سے خود بیان کیا ہے۔ آہ۔

ولیں قریؓ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بنده کا اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے رزق کا اہتمام کرتا ہے کیونکہ اپنے رزق کا اہتمام کرنے والا خدا پر بدگمانی کرتا ہے، اور جو خدا پر بدگمانی کرتا ہے اس کا کوئی عمل نہیں قبول کیا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی آدمی اپنے رزق کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے لئے سعی میں پورا اہتمام کرتا ہے مگر اس کا مقصود حکم خداوندی کی تعمیل کے لئے اہتمام ہوتا ہے کہ اس نے

کب کا حکم دیا ہے، اور خدا پر اس کو بے اطمینانی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی خبر نہ لے گا۔ پس اویسؒ کے ملفوظ کو اس کے خلاف پر محبول کرنا چاہئے (یعنی وہ اس اہتمام کے متعلق ایسا فرماتے ہیں جس کا مشا خدا پر بے اطمینانی ہو)۔

ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامیؒ سے کسی نے کہا کہ آپ کہاں سے کھاتے پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں سے اللہ تکمیلی اور مجھر کو رزق دیتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تکمیلی اور مجھر کو تو کھانا دے گا اور بایزید کو بھول جاوے گا۔

بایزید بسطامیؒ نے ایک عرصہ تک ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، ایک روز امام نے دریافت کیا کہ یہاں میں تمہیں کچھ کھاتے تو دیکھتا نہیں، پھر تم کھاتے کہاں سے ہو؟ اس کے جواب میں بایزید نے کہا کہ پہلے میں ان نمازوں کو قضا کر لوں جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھی ہیں، پھر جواب دوں گا، کیونکہ تم خدا کو نہیں پہچانتے، اور جو خدا کو نہ پہچانے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ مضمون اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں حکم ہے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ حدیث میں مقصود سلاطین کے مقابلہ میں بغاوت بند کرنا ہے، (کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بادشاہ ہو وہی نماز پڑھاوے، یا اپنانا سب مقرر کرے۔ اور سلاطین نیک و بد دونوں ہوتے ہیں، اس لئے اگر بدؤں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی جاتی تو رعایا فاجر بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتی، اور اس سے فساد پیدا ہوتا ہے ادا جازت دے دی گئی کہ برے بادشاہوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو، اور ان سے بغاوت نہ کرو۔ اور بایزیدؒ نے جو فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ امام کو کامل ہونا چاہئے ورنہ اس کے پیچھے نماز ناقص ہو گی، جس کی اعادہ کی ضرورت ہے، اور یہ مقصود نہیں کے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہو گی، تاکہ تغیر حکم شریعت لازم آوے)۔ اب سمجھنا چاہئے کہ آئندہ کے لئے کھانا نہ رکھنے کے متعلق حضرات صوفیہ کی یہ دلیل ہے۔

کہ کسی شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہدیۃٰ تین پرندے

بھیجے۔ آپ نے ایک پرندہ اپنی خادمہ کو دے دیا۔ اگلے دن وہ حضور کی خدمت میں اسے لے کر آئی، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ تم اگلے دن کے لئے کچھ نہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز کارزق ہر روز دیتا ہے، آہ۔ اب تم اپنے نفس کا امتحان کرو کہ وہ کل کے لئے کھانا رکھنا چاہتا ہے یا نہیں، اگر وہ اس کے رکھنے کے لئے بے چین ہو تو اس سے کہو کہ مقام صالحین میں تمہارا کچھ حصہ نہیں۔ والحمد لله رب العالمین۔

مصائب پر صبر کرنا

۶۹۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ سختی اور مصیبت کو خوش عیشی اور فراغی پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعہ سے ان کو خدا کی طرف توجہ رہتی ہے اور جو شخص خدا سے محبت رکھے گا وہ اس کو پسند کرے گا، جو اس سے تقرب پیدا کرتی ہو، اور جس کے سبب وہ اس کو یاد کرتا ہو۔

وہب بن منبهؓ فرماتے تھے کہ جو شخص مصیبت کو نعمت اور فراغی کو مصیبت نہ سمجھے وہ سمجھدار آدمی نہیں۔

مالک بن دینارؓ کے پاس کچھ لوگ گئے تو ان کو دیکھا کہ تاریک مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں روٹی لئے ہیں، اس پر ان سے پوچھا کہ حضرت کیا چراغ نہیں ہے (جو اندھیرے میں بیٹھے ہو)؟ کیا کوئی چیز نہیں ہے جس پر روٹی رکھو؟ (جو ہاتھ میں روٹی لئے ہوئے ہو) انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو اپنی گذشتہ حالت پر ندامت ہے جب سب کچھ تھا (اور اس حالت کو پسند کرتا ہوں جب کہ کچھ نہیں)۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ جس پر دنیا فراخ کر دی جاوے اور اسے یہ اندیشه نہ ہو کہ شاید یہ تدبیر خداوندی ہو (جس سے وہ اس کو اس کی شامت اعمال کے سبب اپنے سے غافل رکھنا چاہتا ہو) وہ خدا کی اس تدبیر سے بے خوف ہے جو اس کے لئے مضر ہے، (اور یہ شانِ مؤمنین کی نہیں بلکہ کفار کی ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَلَا يامن مكرا اللہ الا القوْمُ الخسرون﴾)۔

امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ فرماتے تھے کہ جس کورات کو روٹی کا سوکھا نکلا مل جاوے وہ محتاج نہیں محتاج وہ ہے جسے کچھ نہ ملے۔

ربیع بن انسؓ فرماتے تھے کہ مجھرا سی وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ بھوکار ہے اور جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور جب موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ بس یہی حالت آدمی کی ہے کہ جب وہ دنیا سے پر ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔

شخص بن حمیدؓ بیان فرماتے تھے کہ علماء، فقهاء، حکماء، شعراء سب کا اس پر اتفاق ہے کہ آخرت کی نعمتوں کا کمال احساس اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب کہ دنیاوی نعمتیں اس کو کم ملی ہوں (ورنة احساس تو ضرور ہوگا، مگر کم) اب سمجھو کہ اس خلق پر حضرات صوفیہ کی یہ دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے ہو سکتا ہوں جب کہ حضرت اسرافیل منہ میں صور لئے ہوئے ہیں، اور حق تعالیٰ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، اور پیشانی کو جھکائے ہوئے منتظر ہیں کہ کب حکم ہو کہ وہ صور پھونکیں، آہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کاملین دنیا ہی میں قیامت کے خوفناک واقعات کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس سبب سے ان کو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ پینے میں، نہ سونے میں، اور نہ جماع وغیرہ میں، اور چونکہ مراقبہ احوال قیامت ان کا ایک اختیاری فعل ہے تو ثابت ہوا کہ وہ تکلیف کو راحت پر ترجیح دیتے ہیں۔ (واللہ اعلم) اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے، والحمد لله رب العالمين۔

احترام معاصرین

۷۰۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی شخص اپنی کسی ضرورت میں دعا وغیرہ کی درخواست کرتا ہے اور کسی ایسے محلہ (یا شہر وغیرہ) کا رہنے والا ہے جہاں اس کے ہم عصر مشائخ میں سے کوئی شخص رہتا ہے تو وہ اس صاحب حاجت کو اس کے محلہ (یا شہر وغیرہ) کے شیخ کے پاس لوٹا دیتے ہیں اور اس کے

اعتقاد کو اس شیخ کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کہ وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیں، اور اس شیخ کے پاس نہ لوٹا میں تو انہوں نے اس شیخ کے ساتھ بد تہذیبی کا ارتکاب کیا، اور یہ طریقہ شیخ سیدی علیؒ خواص کا تھا۔ چنانچہ جب کوئی شخص ان کے پاس آتا اور ان سے کوئی درخواست کرتا تو اس سے دریافت فرماتے کہ بھائی تم کس محلہ کے رہنے والے ہو؟ جب وہ بتلا دیتا تو فرماتے اپنے محلہ کے شیخ کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے محلہ کے شیخ کو اسی لئے وہاں رکھا ہے کہ وہ اہل محلہ کی ضروریات کا تحمل کر سکے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

خدا اور رسول کی محبت

۱۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کا رخ پھیر دیتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات خدا اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جو خدا رسول سے محبت کرے گا وہ دنیا کو بالضرور ناپسند کرے گا، کیونکہ وہ کمال عبادت سے مانع ہے۔ پس اس لئے ان کا سب سے اعلیٰ درجہ کا خلق یہ ہے کہ ان کی طرف دنیا کے جھکنے سے ان کے قلوب منقبض ہوتے ہیں، اور بھائی صاحب تمہیں یہ بھی تو سوچنا چاہئے کہ جب صحابہؓ گو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو کس طرح ان کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے اکثر کے پاس نہ صبح کے وقت درہم و دینار ہوتے تھے تو اور نہ شام کے وقت، (اور یہ سوچ کر سمجھنا چاہئے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی محبت کا مقتضایہ ہے کہ دنیا سے خالی ہاتھ رہے)، اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس وجہ سے کہ ان کو اپنے اہل بیت سے محبت تھی اور ان کے اہل بیت کو ان سے، یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری آل کو بس کھانے کے لاکُّ رزق دینا، زیادہ نہ دینا (کیونکہ اس سے دین کی بر بادی کا اندیشہ ہے)، اور قلت رزق کی اس لئے ضرورت ہے تاکہ آدمی خدا کی طرف متوجہ رہے اور کوئی روکنے والی شے اس کو اس توجہ سے نہ روک سکے، بالخصوص اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو بھوک کا تحمل نہ ہو تو اس کو اور بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ

رات دن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا۔ اور اس سے برابر روزی مانگتا رہے گا، اور اس میں سستی نہ کرے گا۔

عبداللہ بن مبارکؓ فرماتے تھے کہ مؤمن کے لئے دنیا جیل خانہ ہے، اور اس میں بڑی مشقت اور اس کے لئے مصیبت پر صبر اور غصہ کا ضبط کرنا ہے، اور اس کے لئے دنیا میں دولت نہیں ہے بلکہ اس کی دولت آخرت میں ہے۔

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے کہ آدمیوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں مؤمن لوٹدی سے زیادہ ذلیل ہوگا، اور وہ یوں زندگی بسر کرے گا جس طرح کیڑا سر کرکے میں رہتا ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ جس آدمی سے اللہ تعالیٰ تین دن دنیا کو روک لے (اور اسے تین دن تک کھانے پینے کو نہ ملے) اور اس پر صبر کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔

عبد بن بکر مزنیؓ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو اس کی محبت کے سبب دنیا کے مصائب کے تلخ گھونٹ پلاتے، اور ان کی تلخی کا مزہ چکھاتے ہیں، جیسا کہ عورت اپنے بچے کو تندرنی کے لئے ایلو اپلاتی ہے۔ (پس مصائب و تکالیف کو رحمت سمحنا چاہئے نہ کہ قہر)، اور اس خلق پر حضرات صوفیہ کی یہ دلیل ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے آپ نے فرمایا کہ تو فقر کے حملہ کے لئے پاکھر تیار کر لے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جس قدر کہ روکا پانی اپنے مقرر کی طرف دوڑتا ہے۔ اھ۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی تھیں کہ جب تک رسول اللہ ﷺ زندہ رہے اس وقت تک دنیا ہم پر سخت اور مکدر رہی، اور جب آپؐ کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا تھا، پھر تو برس پڑی، مطلب یہ تھا کہ ہم آپؐ کی برکت سے دنیا سے محفوظ تھے، مگر جب آپؐ کا انتقال ہو گیا تو وہ حمایت و حفاظت جاتی رہی، اور ہم میں خرابی آگئی۔

میں نے سیدی علی خواص سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ جب آدمی مقامات عرفان میں ترقی کر جاتا ہے تو دنیا اس سے یہاں تک نفرت کرنے لگتی ہے کہ اگر وہ اس کو بلا تا ہے تو توب بھی وہ نہیں آتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے دل میں میری جگہ ہی نہیں، میں رہوں گی کہاں۔ آہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقر کے جھوٹے مدعی کی پہچان یہ ہے کہ جس قدر اس کی عمر بڑھتی جائے اتنا ہی اس کا دنیاوی ساز و سامان بڑھتا رہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمين۔

دنیاوی مزاجتوں پر خوشی

۷۲۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ جس قدر حق سبحانہ کی طرف سے ان کے دنیوی مقاصد میں ان کی مزاجمتیں ہوتی ہیں، اسی قدر وہ خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ہمارے ان مقاصد میں مزاجمتیں نہ کی جاتیں جو ہم کو اس سے روکنے والے ہیں۔

مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے میرے معلم عبد اللہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو خدا کا قرب چاہتا ہے تو اپنے اور اپنی مرغوبات دنیویہ کے درمیان لو ہے کی دیوار کھڑی کر لے، (مطلوب یہ تھا کہ خواہشات نفسانیہ کو بالکل چھوڑ دے۔) حق سبحانہ نے داؤ دعییہ السلام سے بذریعہ وحی کے فرمایا، کہ جو دل خواہشات دنیا سے محبت کرتا ہے اس پر متقین کی امامت (تکوینی طور پر) حرام ہے، اور میں اس کو ان کا امام نہ بناؤں گا۔

عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اپنے دلوں میں اپنی خواہشات کو مارڈا لو اور اپنے آپ کو ان کی طلب میں ہلاک مت کرو، کیونکہ جو شخص اپنی خواہشات کو پاؤں تمل ڈالے گا، شیطان اس کے سایہ سے بھاگے گا، برخلاف اس کے جو شخص ان کو اپنے دل میں جگہ دے گا شیطان اس پر سوار ہو کر جس طرف چاہے گا اس طرف پھیرے گا، کیونکہ خدا اس کے جرم کی سزا میں شیطان کو اس پر قابو دیدے گا۔

عیشیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ پوری جنت کا حاصل صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک راحتیں، دوسرے مرغوبات، پس جنت میں آدمی اسی وقت جا سکتا ہے جبکہ دنیا میں ان کو چھوڑ دے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ان کا مقصد شکم پری ہوگی۔ اور ان کا دین ان کی خواہش نفسانی، اور ان کی تلوار ان کی زبان ہوگی۔

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سرکش گھوڑوں کو لگام کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی تمہارے نفس کو۔

سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے کسی ایسی چیز سے زور آزمائی نہیں کی جو میرے نفس سے زیادہ سخت ہو، کیونکہ اس کی حالت یہ ہے کہ کبھی میں اسے مغلوب کر لیتا ہوں اور وہ میرے تابع ہو جاتا ہے اور کبھی پھر وہ غالب آ کر مجھ پر سوار ہو جاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ اس وقت سے پہلے اپنے نفوس کو خواہشات سے روک لو، جبکہ آپس میں جھگڑو، (مطلوب یہ ہے کہ جھگڑے اور فساد کی بنا خواہشات کا اتباع ہے، اور معلوم ہے کہ لڑائی جھگڑا بڑی چیز ہے، آپس سے بچنے کے لئے ضرورت ہے اس کی کو خواہشات کو چھوڑ دیا جاوے)۔

اس خلق پر حضرات صوفیہ کی دلیل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوزخ خواہشات سے گھری ہوئی ہے، اور جنت ناگوار باتوں سے، (آپس جو شخص خواہشات کا اتباع کرے گا وہ دوزخ میں پہنچے گا اور جو ناگوار باتوں کا تحمل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا)۔

نیز حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک مرتبہ کسی نے میوہ جات کا ستوبھیجا، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ کھانا دنیا کے خوش عیش لوگوں کا ہے، ہمارے لئے مناسب نہیں ہے)۔

ابو ہریرہؓ فرماتے تھے کہ ایک سے زیادہ رنگ کا کھانا فساق کا کھانا ہے۔

اس خلق کی مزید تحقیق انشاء اللہ اس کے موقع پر آئے گی۔ والحمد لله رب العالمین۔

سادہ لباس

۳۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بیش قیمت کپڑے استعمال کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ موٹا جھوٹا جیسا بھی حلال طریق سے مل جاوے اسی کو پہن لیتے ہیں، اور جب وہ صوف کا جبہ یا عمامہ پہنتے ہیں تو زیادہ داموں کا نہیں لیتے، برخلاف اس کے آج کل کے صوفی جب صوف کا جبہ یا عمامہ پہنتے ہیں تو وہ تا جروں کے کپڑوں سے بھی زیادہ بیش قیمت ہوتا ہے، بجز ان لوگوں کے جو اپنی مدیر کو حق سبحانہ کے سامنے فنا کر چکے ہیں (ایسے لوگ اس مذمت سے مستثنی ہیں، اور ان کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہیں پہنیں بشرطیکہ وہ مباح ہو)۔

حاتم اصمؓ اور ان کے مریدین بجز پرانے اور بہت سے پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے دوسرے کپڑے نہ پہنتے تھے۔

اویس قرقنیؓ کا قاعدہ تھا کہ وہ کوڑیوں پر سے پھٹے پرانے کپڑے اٹھاتے اور ان کو دھو کر سی لیتے اور انہیں کو پہنتے۔

ابراہیم ابن ادہم سیاہ جبہ پہنتے (اور ایک مرتبہ پہن کر اسے نہ اتارتے) یہاں تک کہ وہ پھٹ جاتا (اور پہننے کے ناقابل ہو جاتا)۔ ایک مرشد نے دریافت کیا کہ یہ جب آپ کو پہنے ہوئے کس قدر عرصہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ نو برس سے میں نے اسے نہیں اتارا۔

حسن بصری رحمہ اللہ کپڑا پہنے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ خوب میلا ہو جاتا، اور جب کوئی کہتا کہ آپ اسے دھوئیں لیتے، تو فرماتے کہ یہاں فرصت کے ہے۔ (موت سر پر کھڑی ہے، میں اس کے لئے تیاری کروں یا کپڑے دھوؤں)۔

علی بن ابی طالب نے امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ سے فرمایا کہ اگر آپ

جناب رسول اللہ ﷺ وابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے کپڑوں میں پیوند لگائیے، اپنا جوتا خود گا نٹھئے، اپنی امید کو کوتاہ کیجئے، اور اتنا کھانا کھائیے جس سے پیٹ نہ بھرے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ سامان نہ تھا، صرف ایک لوٹا تھا جس سے وہ وضو کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کچھ سامان تو گھر میں ضرور ہونا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی مالک مکان (حق تعالیٰ) ہم کو اس گھر میں نہ رہنے دے گا (پھر سامان کیا کریں گے)۔ ہمارا گھر تو دوسرا ہے، سوا سی کے لئے ہم اعمال صالحہ بھیج رہے ہیں (جو اس کا سامان ہیں)۔

ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کپڑے دھونے کا اہتمام نہ کرو کیونکہ دل صاف ہو اور کپڑے میلے ہوں، یہ حق تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ کپڑے صاف ہوں اور دل میلا ہو۔ عبد اللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کپڑے زیادہ موٹے اور دل زیادہ نرم تھے، اور اب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے کپڑے زم اور دل سخت ہوں گے۔

ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بہت سے آدمی ہیں، جو کپڑوں کو سفید اور دین کو میلا کرتے ہیں۔

ابو سلیمان دارانی سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ڈاڑھی میں گنگھی نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تو گویا کہ میں خالی بیٹھا ہوں، اور اس کے سوا مجھے اور کام ہی نہیں۔

ابراهیم بن ادہم سے کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنی ڈاڑھی کو خضاب کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا خضاب زینت ہے، اور ہم ابھی زینت کے اہل نہیں، بلکہ اس وقت ہوں گے جبکہ مرکرہمیں اپنے خاتمہ کی حالت معلوم ہو جائے گی کہ اچھا ہوا۔

ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بسا اوقات کپڑے دھونے کا ارادہ کرتا ہوں اور پھر کچھ سوچ کر رہ جاتا ہوں، غالباً یہ خیال آ جاتا ہوگا کہ تیرا دل تو صاف

ہے، ہی نہیں تو کپڑے کیا صاف کرتا ہے، پہلے دل صاف کر)، اور جب بھی کپڑے دھوتے تو صرف اشنان سے دھوتے، اور صابن کا استعمال نہ کرتے (تاکہ زیادہ صاف نہ ہوں)۔

مالک بن دینار گرمی جائز رات دن صرف ایک کملی پہنے رہتے تھے۔ ابو الحسن سعی فرماتے تھے: پہلے لوگوں کے طیسان ان کے گھر ہوتے تھے (یعنی وہ لوگ طیسان نہ پہنتے تھے، بلکہ طیسان کا جو مقصد ہے کہ نظر کی حفاظت رہے، وہ اس مقصد کو اس طرح حاصل کرتے تھے کہ بلا ضرورت گھر ہی سے نہ نکلتے تھے)، اور عمامہ کے اوپر طیسان بجز شہر بن حوشب کے اور کوئی نہ پہنتا تھا۔

انس بن مالک فرماتے تھے کہ جو لوگ طیسان پہن کر مساجد میں آتے ہیں، میں ان کو یہود خیبر کے سوا اور کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتا (کیونکہ یہ ان ہی کا فیشن تھا)۔ میں کہتا ہوں کہ سر پر طیسان ڈالنے سے مقصود یہ ہے کہ نظر کو غیر ضروری اشیاء مثل دیواروں وغیرہ سے بچایا جاوے، اور یہ مقصد کوئی اہم مقصد نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ دل کو طیسان اڑھا کر اس کو خواہشات دنیا کی طرف نظر کرنے سے روکا جاوے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿لَا تَمْدُنْ عِينِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ إِذَا جَاءَنَا مِنْهُمْ﴾ مگر ہر مقام کے لئے آدمی ہوتے ہیں، (چنانچہ کچھ ایسے ہیں کہ طیسان کو برائیں خیال کرتے جیسے شہر بن حوشب، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ طیسان کو لغو، اور حفاظت قلب کو مہتمم بالثانی سمجھتے ہیں) (واللہ اعلم)۔

عروفة بن زیر فرماتے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی وہ چادر مبارک دیکھی ہے جس کو اوڑھ کر آپ ﷺ نے والے وفد و ملاقوں سے ملاقات فرماتے تھے، اس کا طول چار ہاتھ کا اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت کا تھا، آپ کے بعد وہ خلفاء کے پاس رہی جس کو اوڑھ کر وہ نماز عیدین کے لئے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پرانی ہو کر تا قابل استعمال ہو گئی۔

مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اے عالم تجھے طیسان سے کیا واسطہ؟

تجھے تو چردا ہے کی طرح ایک کملی اور ایک لانھی چاہئے، اور یہ چاہئے کہ تو اللہ تعالیٰ کے قہر سے اس کی رحمت کی طرف بھاگے اور اپنے بھائیوں کو تقرب حق بجانہ کا شوق دلاوے۔

یوسف بن اس باط رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو مکہ کے راستہ میں دیکھا، میں نے ان کے کپڑوں کا جو توں سمیت تخيینہ کیا، تو میرے انداز میں ایک دراهم اور چار دانگ کی قیمت کے تھے، اور جاننا چاہئے کہ حضرات صوفیہ کی دلیل اس خلق پر یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بذاذۃ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اور بذاذۃ کے معنی ہیں پرانے کپڑے پہنانا، (پس ثابت ہوا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنانا ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ہی مقصود تھا کہ ایسے حالات میں آدمی کو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہئے کہ وہ کیسا کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ والحمد لله رب العالمین۔

ترک اسراف و اقتصاد

۷۳۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حضرات جبکہ ان کو حلال مال مل جاتا ہے تو اس کو بے احتیاطی کے ساتھ صرف نہیں کرتے (بلکہ پوری احتیاط کے ساتھ صرف کرتے ہیں)، کیونکہ حلال بلحاظ تفاوت مراتب اشخاص کے ہر زمانہ میں کمیاب ہوتا ہے۔ بلحاظ تفاوت مراتب ہم نے اس لئے کہا کہ بسا اوقات ایک قوم کے لحاظ سے ایک شے حلال ہوتی ہے اور دوسری قوم کے نزدیک (جوز یادہ محتاط ہیں) حرام۔ (پس ہر طبقہ کے معیار حلت کے اعتبار سے حلال کی کمیابی متفاوت ہوگی، مثلاً جو لوگ بہت زیادہ محتاط ہیں، ان کے لحاظ سے حلال بہت زیادہ کمیاب ہوگا، اور جو اس سے کم محتاط ہیں ان کے لحاظ سے اس سے کم کمیاب ہوگا، وہکذا غرضیکہ ہر طبقہ کے معیار کے لحاظ سے حلال کمیاب ہے، اور اس لئے اس کے خرچ میں اسی نسبت سے احتیاط کی ضرورت ہے)۔ اور سلف کا معمول تھا کہ وہ حلال دراهم کمانے کو تمام ضروریات پر مقدم رکھتے تھے، کیونکہ وہ حضرات یقیناً آخرت کے لوگوں میں سے ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ جو لوگ حرام یا مشتبہ مال کھاتے ہیں، ان سے اعمال صالح نہیں ہوتے،

کیونکہ جو حرام کھائے گا اس سے حرام افعال صادر ہوں گے، اور جو مشتبہ مال کھائے گا اس سے مشتبہ افعال صادر ہوں گے، حتیٰ کہ اگر حرام کھانے والا اس کا قصد بھی کرے کہ وہ خدا کی پوری اطاعت کرے تو شامت اکل حرام کے سبب وہ اس پر قادر نہ ہو گا، اور بعض حرام خوروں سے جو بعض افعال نیک صادر ہوتے ہیں، اس سے تم کوشش نہ ہونا چاہئے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ حلال بھی ضرور کھاتے ہوں گے۔ پس یہ اسی حلال کی برکت ہے۔ واللہ اعلم۔

یوس بن عبید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آج ایک درہم سے کم بھی حلال موجود نہیں اور اگر وہ ہم کو مل جاتا تو اس کی برکت سے اپنے مریضوں کے لئے شفا حاصل کرتے۔ سفیان ثوریٰ فرماتے تھے کہ آدمی کا دین اسی وقت ہے جبکہ اس کی روٹی حلال طریق سے حاصل شدہ ہو، اور آج کل جن لوگوں کے دستِ خوان پر حلال روٹی ملتی ہے، وہ غریب لوگ ہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حلال کماں مسلمان کے لئے ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ کی طرف منتقل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔

وہب بن ورد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی اپنے زمانہ میں اس مال کو جس کو وہ حلال سمجھتا ہے ایسا نہ سمجھے جیسا کہ مضطرب کے لئے مردار حلال ہوتا ہے تو غارت ہو جاوے، (کیونکہ حلال حقیقی کا وجود نہیں، اور جس کو حلال کہا جا سکتا ہے، اس کو بنا بر ضرورت حلال کہا جا سکتا ہے، پس جبکہ وہ اسے حلال حقیقی سمجھے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا، اور یہ اس کے دین کی تباہی کا سبب ہو گا)۔

امام حسن رضی اللہ عنہ نے کسی کو یہ دعا کرتے سنا کہ اللہ مجھے اب حلال رزق دے جو بالکل پاک صاف ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص اپنے لئے اس حلال کی دعا کر جس پر خدا تجھے سزا نہ دے، رہا وہ حلال جو بالکل پاک صاف ہو سو وہ تو انبياء کا رزق ہے (ہمیں تمہیں کہاں نصیب)۔

ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اکثر شام تک محنت کرتے، اور جب ان کو اجرت دی

جاتی تو وہ اسے دیکھتے، اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جس قوت کے صرف کرنے کا کہنے والا مجھ سے خواہاں تھا، شاید میں نے وہ پوری قوت صرف نہ کی ہو اور اس لئے یہ مزدوری میرے لئے حلال نہ ہو۔ یہ کہہ کر اسے چھوڑ کر چلے جاتے، اور اس شب کو بھوکے رہتے۔ نیزوہ کسی پیشہ کی حالت میں یہ بھی شرط کرتے تھے کہ اپنے کام میں مشغول ہو کر خدا سے غافل نہ ہو جاویں، اور اس لئے جو کام وہ غفلت کی حالت میں کرتے تھے، اس کی مزدوری نہ لیتے تھے۔

(۱) مسر بن کدام رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے تو آج کہیں حلال نظر نہیں آتا، بجز اس پانی کے جو آدمی دجلہ و فرات میں سے چلو میں لے کر پی لے۔ ایک شخص حلال روزی کا طالب تھا۔ سواس کو کہیں پاک صاف روزی نہ ملی، بجز اس گھاس کے جونہروں کے کنارہ کھڑی تھی، لہذا وہ اسی کو تمیں برس تک کھاتا رہا، حتیٰ کہ اس کی کھال سبز ہو گئی، اس وقت اس کو کسی نے آواز دے کر کہا، کہ اب تمہیں حلال صافی میسر آیا ہے، اور اب تم نے حرام سے نجات پائی ہے (جبکہ وہ حرام جو تم کھا چکے تھے، سب تحلیل ہو چکا اور صرف حلال ہی رہ گیا)۔

ایک شخص نے ان چیزوں کا کھانا چھوڑ دیا جو آدمیوں کے قبضہ میں ہوں، اور جنگل میں چلا گیا تاکہ کچھ گھاس پات کھالیا کرے۔ اس پر اندر سے اسے ایک آواز آئی کہ آج آپ پر ہیز گار بنتے ہیں، یہ تو بتلاؤ کہ تم اس قوت کو کیا کرو گے جس کو تم نے حاصل کیا ہے، اور جس کے ذریعہ سے تم یہاں تک چل کر آئے ہو۔ ذرا غور تو کرو کہ وہ قوت تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ (غالباً اس شخص کے عجوب کے انسداد کے لئے یہ تنبیہ کی گئی تھی ورنہ طلب حلال سے ممانعت مقصود نہ تھی)۔

مالک بن دینار سے اس نبیذ کے متعلق سوال کیا گیا جو عام طور پر لوگ گھروں میں بناتے ہیں، تو آپ نے سائل سے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، تو پانی میں ڈالنے سے پہلے چھواروں کو دیکھ لے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، نبیذ کا سوال تو بعد کو ہے، کیونکہ اگر

(۱) اصل نسخہ میں اس جگہ غلطی سے سعد بن کدام لکھ دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ۱۲ امتر مترجم۔

چھوارے حلال ہوں تب یہ سوال صحیح ہے کہ جب ان کو پانی میں ڈال کر نبیذ بنالی گئی تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر چھوارے ہی حرام ہوں جیسا کہ آج کل یہ بلا عام ہے تو پھر یہ سوال ہی فضول ہے۔

ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک عابد کو دیکھا کہ وہ نماز کے لئے گرانی کے ساتھ اٹھتا ہے، اس پر میں نے اس کی وجہ پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی غذا صاف نہیں (اس لئے اسے یہ گرانی ہوتی ہے)، اور اگر اس کی غذا صاف ہوتی تو گرانی نہ ہوتی۔

سفیان ثوریؓ جب کسی دعوت میں تشریف لے جاتے تو اپنی روٹی اپنے ساتھ لے جاتے اور وہیں جا کر اپنی روٹی کھاتے، اور جب صاحب خانہ کہتے کہ جناب آپ میری روٹی کیوں نہیں کھاتے تو فرماتے کہ میاں تمہیں اپنی کا علم ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور مجھے اپنی روٹی کا، (اس لئے جس کو جس روٹی کے متعلق تحقیق ہوا س کو وہی کھانا چاہئے۔)

میں کہتا ہوں کہ اس مقام والے حضرات میں سے میں سے سیدی محمد بن عنانؓ کو پایا ہے۔ ان کا بھی یہی قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی دعوت میں مدعو ہوتے تو وہ اپنی روٹی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور جس وقت دسترخوان چنا جاتا تو وہ اسی میں سے کھاتے۔

سفیان ثوریؓ رحمہ اللہ علیہ سے صفائی کی فضیلت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی روٹی کو دیکھو کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور تحقیق کے بعد کھاؤ، پھر جس صفائی کی فضیلت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی روٹی کو دیکھو کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور تحقیق کے بعد کھاؤ، پھر جس صفائی میں جی چاہے شامل ہو جاؤ، کچھ مصالقہ نہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس کے پیش میں حرام شے ہو، حق تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔

سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نجات تین چیزوں میں ہے۔ ایک یہ کہ آدمی راہ راست پر ہو، دوسراے کامل تقویٰ رکھتا ہو، تیسراے کھانا حلال کھاوے (گو حلال کھانا کمال تقویٰ میں داخل ہے اور کمال تقویٰ سبیل ہدایت میں مگر ان کو اہتمام

شان کے لئے مستقل طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔

وہب بن ورد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر تم اس قدر نماز روزہ کرو کہ سوکھ کر اس ستون کی مثل ہو جاؤ، تب بھی تمہاری نماز میں اور روزے مقبول نہ ہوں گے، مگر جب کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے پیٹ میں حلال غذا جاتی ہے یا حرام۔ آہ۔ اور جاننا چاہئے کہ اس خلق پر حضرات صوفیہ کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو)۔ یہ خطاب گورسلوں کے لئے ہے مگر حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے جن باتوں کا رسولوں کو حکم یا ہے، انہی کا عام مونین کو بھی حکم کیا ہے (بشر طیکہ کسی دلیل خاص سے ان کی خصوصیت رسولوں کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے جو کہ امر زیر بحث میں منتفی ہے)۔ نیزان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ نہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حرام مال کمائے اور اس میں برکت ہو، اور نہ یہ کہ آدمی اس میں صدقہ کرے اور اسے اس پر اجر ملے، اور جب وہ اسے اپنے پیچھے چھوڑ کر مر جاتا ہے تو وہ اسے دوزخ میں دھکیل دیتا ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بری چیز کو اچھی چیز سے مٹاتا ہے۔ آہ۔ (پس حرام کمائی سے بہبودی کی توقع رکھنا فضول ہے، ہاں حلال کماڈ اس سے تمہاری برائیاں دور ہونے کی توقع ہے۔ واللہ اعلم۔ اب تم کو چاہئے کہ اس زمانہ میں (جبکہ حرام کی کثرت ہے) اپنے کمانے کو دیکھو (اور اگر حلال نہ ملے) تو خوب بھوکے رہو، اور خبردار کسی امیر یا مباشر یا قاضی کا کھانا بھی نہ کھانا، چہ جائیکہ بلا تحقیق ظالموں اور چنگی وصول کرنے والوں کا کھانا کھایا جاوے، کیونکہ اس طریق سے تو اپنے دین کو بر باد کرے گا، اگر چہ تیرے سر پر صوف کا عمامہ ہو اور توجہ بھی پہنے ہوئے ہو اور ایک شملہ بھی تو نے چھوڑ کھا ہو، (اور یہ چیزیں تیرے کچھ کام نہ آئیں گی)۔ اس کو سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین۔

تواصی بالحق

۷۵۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیتیں کرتے ہیں اور نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، اور نصیحت کرنے والے کا احسان مانتے ہیں، اور خواہ وہ اپنے نصیحت کرنے والے کے ساتھ عمر بھر سلوک کریں مگر باوجود اس کے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے اس کی نصیحت کا حق واجب ادا نہیں ہوا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ (نصیحت کا تعلق امور اخرویہ سے ہے، اور) امور اخروی کا معاوضہ اغراض دنیویہ سے نہیں ہو سکتا۔ (اب ہم ان امور کے متعلق بزرگوں کے بعض واقعات اور ملفوظات ذکر کرتے ہیں۔ غور سے سنو) ایک شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو حق سبحانہ کے حکم کی عزت کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جہاں بھی تم ہو گے خدا تمہیں عزت دے گا۔

ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے احتراز کرو کہ تم نیکوں سے ملو، اور ان کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یا گناہ گاروں کی ملامت کرو اور خود گناہوں سے نہ بچو، یا بظاہر شیطان پر لعنت کرو اور پوشیدہ طور پر اس کی اطاعت کرو۔

ایک شخص نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرا باپ مر گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو میرے پاس سے اٹھ جاؤ، کیونکہ جو باپ کے مرنے کے بعد نصیحت کا محتاج ہوا سے نصیحت نافع نہ ہو گی (کیونکہ اول تو موت مطلقاً ہر نصیحت کرنے والے سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی ہے، پھر موت بھی باپ کی موت وہ تو اور بھی زیادہ نصیحت کرنے والی ہے، کیونکہ بہ نسبت دوسری موتوں کے اس کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس سے بے فکری بھی جاتی رہتی ہے جو باپ کی حیات میں ہوتی ہے، پس جب اس کی نصیحت تمہیں سودمند نہ ہو گی، تو اور کس کی ہو گی)۔

ایک شخص نے محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت کی بادشاہی حاصل کرو، اس نے عرض کیا حضرت یہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا سے رغبت نہ رکھو، اس نے عرض کیا حضرت یہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تم تابع بنو میتوں نہ بنو، اور لوگوں کے پاس خود بیٹھو، اور اپنے کو بڑا بنا کر یہ نہ چاہو کہ لوگ تمہارے پاس آ کر بیٹھیں۔

عمر بن عبد العزیز ایک روز ایک عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرماویں، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ سمجھتا کہ تم کو خدا کا خوف ہے، تو میں نصیحت کرتا (اب نصیحت فضول ہے)۔ یہ سن کر عمر بن عبد العزیز پر بیہوٹی طاری ہو گئی۔

عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو مدینہ شریف میں دیکھا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر اس کا بہت خیال رکھو کہ تم ظاہر میں خدا کے دوست اور پوشیدہ طور پر اس کے دشمن نہ ہو، (مطلوب یہ تھا کہ اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھو، اور جس طرح لوگوں کے سامنے اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہو اور بری باتوں سے بچتے ہو، یونہی تہائی میں بھی رہو۔

ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے روح اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ آخر یہ حالت کب تک رہے گی کہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور تم نہیں مانتے، تم لوگوں نے نصیحت کرنے والوں کو مصیبۃ اور زحمت میں ڈال دیا (کہ وہ کہتے کہتے تھک گئے مگر تم نے ایک نہ سنی)۔

کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ نہ کرو کہ اپنے آپ کو آگ میں جھوٹک دو، باوجود یہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ایک پسو کو آگ میں ڈال دے تو تم اس پر اعتراض کرو، مگر با اس ہمہ تم گناہ کر کے اپنے آپ کو ہر روز بہت سی مرتبہ آگ میں

جو نکتے ہو، اور تمہیں اپنے اوپر کچھ اعتراض نہیں ہوتا۔

ایک شخص نے عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نظر کے بے فائدہ استعمال سے احتراز کرو، تمہیں خشوع کی توفیق ہوگی، اور فضول باتوں سے احتراز کرو، تم کو حکمت کی توفیق ہوگی۔ اور فضول کھانے سے احتراز کرو، تم کو عبادت کی توفیق ہوگی اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے چھوڑ دو، تم کو اپنے عیوب پر اطلاع کی توفیق ہوگی، اور حق تعالیٰ کی ذات (وصفات) میں غور و خوض چھوڑ دو، تم شک اور نفاق سے محفوظ رکھے جاؤ گے۔

محمد بن سیرین سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کسی پر حسد نہ کرو، کیونکہ اگر وہ دوزخی ہے تو اس پر حسد کا اس لئے موقع نہیں ہے کہ دنیا اس کے پاس چند روز ہے، اس کے بعد وہ دوزخ میں چلا جاوے گا تو اس پر حسد فضول ہے، اور اگر وہ جنتی ہے تو اس کے اعمال کا اتباع اور اس کی حالت پر غبط کرنا چاہئے نہ کہ اس کی دنیا پر حسد کیا جادے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ زبان میں اچھی باتوں کی اچھائی اور بری باتوں کی برائی بیان کرتی ہیں، اور دل ان کو جانتے ہیں۔ (پس اعمال دل و زبان کے موافق بنانا چاہئے۔)

ابوالدراء رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھو، جس میں چھپی باتیں آشکارا ہو جاویں گی (اور پوشیدہ طور پر بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے ظاہر ہو جانے میں تم کو رسوانی کا اندیشہ ہو)۔ ایک شخص نے سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا خبردار تکبر نہ کرنا، اور نہ ناقع لوگوں کے مال کھانا، کیونکہ جو لوگوں پر بڑائی جاتا ہے وہ ان کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے مال لوٹتا ہے آخر کا محتاج ہو جاتا ہے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ "المرء مع من

احب، یعنی آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو فرمایا کہ بھائی تم اس قول سے دھوکہ نہ کھانا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں بغیر کچھ کئے ہی نیکیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ تم ان کے ساتھ اسی وقت شامل ہو سکتے ہو جبکہ ان جیسے اعمال کرو، دیکھو یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء سے محبت کرتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں گے، کیونکہ اعمال میں ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے مخالف بن گئے ہیں۔ (پس ثابت ہوا کہ نفس محبت بدون اتباع فی العمل کافی نہیں، اس لئے اعمال کی ضرورت ہے، اور راز اس میں یہ ہے کہ بدون اتباع کے واقعی محبت متحقق ہی نہیں ہوتی، اس لئے مدعاً محبت بغیر اتباع محبت ہی نہیں تاکہ وہ السمرء مع من احب میں داخل ہو سکے)۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت پر تعجب ہے جن کو تو شہ کی تیاری کا حکم دے دیا گیا اور کوچ کا اعلان سنادیا گیا۔ اور وہ اب بھی بیٹھے نہ رہے ہیں، دیکھو جن کی سواری رات اور دن ہیں وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ جتنے دن گذرتے جاتے ہیں، اسی قدر وہ موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، مگر انہیں اس چلنے کا احساس نہیں۔ (پس لوگوں کو چاہئے کہ وہ متنبہ ہو کر سفر آخرت کی تیاری کریں کیونکہ موت کا وقت ہر لحظہ نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور غفلت کو چھوڑیں)۔

شقيق بُنْجُي اپنے مریدوں کو موت کے لئے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بعض لوگ پچاس برس تک تیاری کرتے رہتے ہیں اور تیار نہیں ہو چکتے، بات یہ ہے کہ تیاری تو ان لوگوں کی ہے جو دنیا سے بے تعلق ہو جاویں جیسے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ ہر صبح و شام فرماتے تھے کہ اے ملک الموت (میں موت کے لئے ہر وقت تیار ہوں)، جب تمہارا جی چاہے مجھے آ کر لے جاؤ۔ آہ۔ صوفیہ کی دلیل اس خلق پر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپ سے پہلے، تندrstی کو بیماری سے پہلے، تو نگری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مشغولی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ آہ۔

بس اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے اور اپنے نفس کی خبر رکھنا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمين۔

شرط تو اصلی

۶۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ نصیحت و وصیت اسی کو کرتے ہیں جس کے متعلق ان کو قرآن سے اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ ان کی نصیحتوں و وصیتوں کو قبول کرے گا، اور جس کے متعلق ان کو یہ علم ہو کہ جب وہ ان کو نصیحت کریں گے تو اس کے نفس کو حرکت ہو گی، تو اس کے متعلق یہی بہتر ہے کہ وہ اس کو نصیحت نہ کریں اور اس کو اس وقت تک موخر کریں، جب تک کہ ان کو نصیحت کا کوئی مشروع طریق ملے، جس سے وہ اس کو نصیحت کر سکیں (مثلاً کوئی مجلس وعظ ہو اور اس میں وہ بھی موجود ہو، اور خطاب عام کے طور پر اس کو نصیحت کر سکیں وغیرہ)۔

حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اسی کو نصیحت کرو جس سے تم کو قبول کی توقع ہو، ورنہ ممکن ہے کہ اس نصیحت کا نتیجہ ایک ایسا ضرر ہو جس کے تم متحمل نہ ہو، اور خبردار اس زمانہ میں کسی پرافسری نے اختیار کرنا، کیونکہ آجکل ہر ایک اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور ماتحتی سے اس کو عار آتی ہے، اور دیکھنا ہر شخص کی پیروی بھی نہ کرنا، کیونکہ خواہشات نفسانیہ کی گرم بازاری ہے اور خلوص ولہیت بہت کم رہ گئی ہے، اس لئے ہر شخص پر اعتماد ٹھیک نہیں، اور اس کا خیال رکھنا کہ تمہارا راز کسی پر ظاہر نہ ہو، کیونکہ امانت آجکل اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور لوگوں میں رازداری کی قابلیت نہیں رہی۔ آہ۔

میں کہتا ہوں کہ حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح فرمایا ہے، کیونکہ مجھے یہ واقعہ پیش آچکا ہے کہ میں نے اس زمانہ کے مشائخ میں سے ایک شیخ کو نصیحت کی کہ وہ طالموں کے یہاں کھانا نہ کھایا کریں، اور یہ بات میرے اور انہی کے درمیان تھی، تیرے کو اس کی اطلاع نہ تھی، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سترہ برس تک مجھ سے بات نہیں کی، اور میں نے نہایت مشکل سے ان سے صلح کی۔ اب تم اندازہ کر لو کہ اگر میں ان کو

مجموع میں نصیحت کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ تعجب نہیں کہ وہ مجھے مر واذ النے کی کوشش کرتے، پس اس سے سمجھ لینا چاہئے، اور اپنے زمانہ کی حالت کو پہچان کر اپنے بھائیوں کو مدیر سے نصیحت کرنی چاہئے، والحمد لله رب العالمین ۔

تحقیر اعمال خود

۷۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی نظر میں ان کے اعمال بحیثیت ان کے مکروب ہونے کے نہایت کم ہوتے ہیں اگرچہ ان کی عبادت فی نفس جن والوں کے مجموعہ کے برابر ہو، اور یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے حق تعالیٰ کا حق ذرہ بھر بھی ادا نہیں ہوا، جناب رسول اللہ ﷺ کی یہ حالت تھی کہ آپ نماز میں اس قدر کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک درم کر گئے تھے اور ان میں سے خون ٹسکنے لگا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں (اور اگر حق سبحانہ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ میری لغزشوں سے درگذر فرمائی تو کیا مجھے زیبا ہے کہ میں اس کی عبادت چھوڑ دوں)

مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی فرماتی تھیں کہ مسروق کی یہ حالت تھی کہ وہ نماز میں قیام طویل کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی پنڈ لیاں پھول گئی تھیں۔ مجھے ان کی اس حالت پر ترس آتا تھا، اور میں اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی رویا کرتی تھی۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے آدمی دیکھے ہیں جو اپنے دین اور اپنی عمر کے متعلق اتنے بخیل تھے، جنتے لوگ درہم و دینار کے متعلق (یعنی جس طرح تم اپنا پیسہ ہاتھ سے چھوڑ ناپسند نہیں کرتے اس طرح وہ اپنادین اور اپنی عمر بر باد کرنا پسند نہیں کرتے تھے)۔

عمر بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ ہر شب کو گورستان میں جاتے اور اس کی طرف رخ کر کے عشاء سے صبح تک نماز پڑھتے رہتے، پھر صبح کے بعد گھر لوٹتے اور صبح کی نماز مسجد

میں پڑھتے، اور جب مقابر کی طرف متوجہ ہوتے تو افسوس سے فرماتے کہ اے عبادوں والو! افسوس کہ تمہارے نامہ میں اعمال لپیٹ دئے گئے (اور اب تم کچھ نہیں کر سکتے)۔ اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ وہ تمام رات ایک سجدہ میں گزار دیتے، اور سجدہ سے اس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک کہ حق سبحانہ کے سامنے روتے روتے شدت غم سے ان کو اپنی ہڈیاں گھلنے کا احساس نہ ہوتا۔

عقبۃ الغلام کی یہ حالت تھی کہ جب سے انہوں نے توبہ کی اس وقت سے نہ ان کو اچھا کھانا اچھا معلوم ہوتا تھا نہ پہننا اور نہ سونا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔

جب مسرور رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا تو زمین سے پیٹھ نہ لگاتے تھے بلکہ جب کسی وقت نیند کا بہت غلبہ ہوتا تو میٹھے میٹھے اونگھے لیتے تھے۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے عابدوں سے فرماتے کہ تم لوگ عابدوں میں ہو بلکہ تم عبادت سے لذت حاصل کرنے والے ہو (یعنی جس طرح تمہارا کھانے کو جی چاہا کھالیا، پینے کو جی چاہا پی لیا، سیر کو جی چاہا سیر کر لی، یوں ہی جب کسی وقت عبادت کو جی چاہا عبادت بھی کر لی تو یہ عبادت نہیں، بلکہ نفس پرستی ہے)۔ ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کی عمر چالیس برس کی ہو جاتی تو سونے کا بستر لپیٹ کر رکھ دیتے اور مرتبے دم تک سونے کا نام نہ لیتے۔

کہمس بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ ہر روز ہزار رکعت پڑھتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو ان میں چلنے کی قوت نہ رہتی تھی بلکہ یوں چلتے تھے جیسے تھا کہ ہوا اونٹ چلتا ہو، اور اس کے بعد بھی قناعت نہ کرتے تھے بلکہ اپنے نفس سے فرماتے کہ اے ہر برائی کے مرجع بہت آرام کر لیا، اب دوسری عبادت کے لئے اٹھ، اور جب آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تو پانچ سورکعت پڑھتے اور روتے اور فرماتے کہ دیکھئے خدا میری کیا گت بناتا ہے، میں نے اپنی آدمی عبادت کم کر دی۔

اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پر جب نیند کا غلبہ ہوتا اور ذرا آنکھ لگ جاتی تو گھبرا

کر اور خوف زدہ ہو کر جاگ جاتے اور فرماتے کہ اللہ میں آپ سے سونے والی آنکھ اور ملامت کرنے والے نفس اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔

ابن الجویر یہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بہت سے لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں جو رات کو بیداری کی مشقت بھیلئے تھے، مگر امام ابوحنیفہؓ سے بہتر مشقت بھیلنے والا میری نظر سے نہیں گزرا۔ چنانچہ میں ان کے پاس چھ مہینے رہا مگر اس عرصہ میں انہوں نے ایک رات بھی زمین سے کمر نہیں لگائی۔

ابن مقائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہؓ نے تمیں برس تک عشاء کے وضو سے صحیح کی نماز پڑھی، اور ایک روایت میں چالیس برس ہیں، اور ایک میں سینتالیس، اور ایک میں پچاس، اور یہ ممکن ہے کہ سب صحیح ہوں اور ہر راوی نے اپنے زمانہ تک کی حالت بیان کی ہو۔ واللہ اعلم۔

یوسف بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اولًا صرف آدمی رات کا احیاء فرماتے تھے، اتفاقاً کچھ لوگوں کا ان پر گذر ہوا (تو ان کو یہ کہتے سن کہ یہ شخص تمام رات کا احیاء کرتا ہے، اور امام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے متعلق وہ بات بیان کی جاتی ہے جو میں نہیں کرتا، اس کے بعد سے تمام شب قیام فرمانے لگے، اور وفات تک یہ ہی معمول رکھا۔

ابومطیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کے لئے رات میں کوئی بستر نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ صرف بیٹھے ہی بیٹھے ذرا سی دیریوں لیتے تھے۔

سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ میں نے امام ابوحنیفہؓ سے زیادہ پڑھیز گار دیکھا، اور نہ ان سے زیادہ عابد۔

ابومسہر رحمۃ اللہ علیہ نہ رات کو زمین سے کمر لگاتے اور نہ دن کو، کیونکہ ان کو ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ میں خدا کے سامنے ہوں، اور اس خیال کے سبب وہ لیٹ نہ سکتے تھے، ان کا تکمیلہ ان کا گھنٹہ ہوتا تھا، اور وہ ظہر اور عصر کے درمیان تھوڑی دیری گھنٹہ پر سر رکھ کر سو جاتے۔

مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب کبھی سوتا ہوں مجھے ضرور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ مبادا میں سوتا ہوں اور مجھ پر عذاب نازل ہو جاوے (کہ نالائق تو سونے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے)، اور اگر نہ سونا میرے امکان میں ہوتا تو میں تو کبھی نہ سوتا۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اہل بدر میں ستر (۷۰) آدمیوں سے ملا ہوں، ان کی حالت یہ تھی کہ اگر اس زمانہ کے لوگ ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ دیوانہ ہیں، اور وہ ان باتوں کو دیکھتے جو آجکل لوگ کر رہے ہیں، تو کہتے کہ یہ لوگ حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ نیز ان کی یہ حالت تھی کہ وہ مسجد میں وضو یا جماعت کے لئے جاتے (یا کسی اور ضرورت شرعی کے لئے) اس کے سوا گھر سے نہ نکلتے تھے۔

مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک رات میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کے بعد وضو کیا، اور نماز پڑھنے کے ارادہ سے کھڑے ہوئے، اور اپنی ڈاڑھی پکڑ کر روتے اور آہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی، اور نماز نہ پڑھ سکے۔

ان حضرات کی یہ حالت تھی کہ جب رات آتی تو ان کو اس کی طرف رغبت اور شوق ہوتا، بدیں خیال کے اب وہ وقت آتا ہے جس میں وہ حق تعالیٰ کے حضور میں تنہ ہوں گے، اور جب دن ہوتا تو مکدر ہوتے، بدیں اندیشہ کہ اب لوگ ان کو خدا کی عبادت سے روک دیں گے اور یہ لوگ عبادت کے انہائی رتبہ پر پہنچے ہوئے تھے، اور یہ حالت تھی کہ اگر کسی سے یہ کہا جاتا کہ قیامت کل آ جاوے گی تو جو حالت ان کی اس وقت تھی اس میں وہ کچھ اضافہ نہ کر سکتے۔

ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اکثر عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ جاتے اور صبح تک لیٹے رہتے، اور فرماتے کہ آج رات دوزخ کے خوف نے نہ مجھے سونے دیا اور نہ نماز پڑھنے دی اور نہ کلام کرنے دیا، اور صبح کی نماز عشاء ہی کے وضوء سے پڑھ لیتے۔

شداد بن اولیس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت ہوتی کہ صبح تک یوں بیتاب رہتے جیسے نحیکری میں گیہوں کا دانہ بھن رہا ہو، اور فرماتے کہ دوزخ کے خوف نے اس شب نے مجھے سونے دیا، اور نہ نماز پڑھنے دی، اور نہ کلام کرنے دیا میں کہتا ہوں کہ اکابر دوزخ سے اس لئے ڈرتے تھے کہ اس میں لوگ حق تعالیٰ سے محبوب ہوں گے اور خود دوزخ سے خوف نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، علی ہذا جوا کا برجنت کو پسند کرتے ہیں، وہ کھانے پینے وغیرہ کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، بلکہ اس لئے پسند کرتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے مشاہدہ کا مقام ہے۔ واللہ اعلم (میں کہتا ہوں کہ یہ مضمون خلاف تحقیق ہے، اور غشاء اس کا غالبہ حال ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ اصل کمال یہ ہے کہ ہر چیز کا اس طرح اور اک ہو جس طرح کہ وہ واقع میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب صحبو کہ دوزخ واقع میں خوف کے قابل، اور جنت واقع میں رغبت کے قابل ہے۔ پس دوزخ سے خوف اور جنت کی رغبت قطع نظر اس سے کہ ایک دار الحجاب ہے، اور دوسرا مقام مشاہدہ، عین کمال ہو گا نہ کہ نقصان، بلکہ اگر کسی کو دوزخ کا خوف اور جنت کی خواہش مقصود نہ ہو تو یہ خود نقصان ہے نہ کہ کمال، پس یہ کہنا صحیح نہیں کہ اکابر کو نہ دوزخ کا خوف ہوتا ہے اور نہ جنت کی رغبت، بلکہ ان کو دوزخ کا خوف دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اس لئے کہ دوزخ مولم ہے اور دوسرے اس لئے کہ وہ دار الحجاب ہے، اور جنت کی رغبت بھی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک اس لئے کہ وہ محل آرام و آسائش ہے، اور دوسرے اس لئے کہ وہ دار مشاہدہ ہے، برخلاف مغلوب الحال حضرات کے جن میں حضرت مولف رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہیں کہ ان کو صرف ایک ہی وجہ سے رغبت ہوتی ہے۔ پس ان حضرات کی حالت پہلے قسم کے لوگوں سے ادنی ہے، اور ان کی اعلیٰ ہے۔ رہا یہ کہنا کہ وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ علی الاطلاق صحیح نہیں، کیونکہ وہ سانپ بچھو وغیرہ سے ضرور ڈرتے ہیں بشرطیکہ مغلوب نہ ہوں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ جب خدا کے خوف اور کسی اور کسی کے خوف میں تراجم ہواں وقت وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، لیکن دوزخ کے خوف اور خدا کے خوف میں تراجم نہیں بلکہ اول ثانی میں

معین ہے اس لئے وہ لا یخشون احدا الا اللہ کے منافی نہیں (۱۲ مترجم)

مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد ان میں طول قیام کے سبب اتنی قوت نہ رہتی تھی کہ وہ اپنے بستر تک جاسکتے اور اس لئے وہ اپنے بستر پر یوں چل کر آتے جیسے تھا کہ ہوا اونٹ پاؤں گھیستہ ہوئے چلتا ہو۔

یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عبادت کوئی پرند ہوتی تو نماز روزہ اس کے دو بازو ہوتے (مطلوب یہ ہے کہ نماز و روزہ اس قدر ضروری ہیں کہ ان کے بغیر عبادت عبادت ہی نہیں، جیسا کہ پرند کہ وہ بازوں ہی کے ذریعہ سے پرند ہے، اور اگر اس کے بازو نہ ہوں تو وہ محض ایک جانور ہے اور پرند نہیں)۔ نیز یہ لوگ جاڑوں کے زمانہ میں کوٹھوں پر سوتے اور باریک کپڑے پہنتے تھے، تاکہ ان کو سردی لگے اور وہ غفلت کی نیند نہ سو سکیں۔

فاطمہ بن عبد الملک (عمر بن عبد العزیز کی بیوی) فرماتی تھی کہ مجھے معلوم نہیں کہ جب سے عمر بن عبد العزیز کو خلافت ملی تھی اس وقت سے انہوں نے کبھی غسل جنابت کیا ہو۔

اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سخت گرمی کے زمانہ میں روزہ رکھتے یہاں تک کہ ان کا بدن کبھی زرد ہو جاتا اور کبھی سبز، اس پر کسی نے عرض کیا کہ آپ اس جسم کو کب تک عذاب دیتے رہیں گے، بس کہجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی راحت اور چین مقصود ہے (کیونکہ جب میں دنیا میں اسے تکلیف دوں گا، تب آخرت میں اسے راحت ملے گی)۔

مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان میں قبر کھود رکھی تھی، اور ہر شب اس میں اتر کر صبح تک نماز پڑھتے رہتے تھے۔

جب خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی ہے تو ان کا دستور تھا کہ نہ رات کو سوتے نہ دن کو، اور فرماتے تھے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے کو بر باد کرتا

ہوں، اور اگر دن کو سوتا ہوں تو رعیت کو بر باد کرتا ہوں، حالانکہ ان کے متعلق مجھ سے باز پرس ہونے والی ہے (اس لئے نہ دن کو سوکتا ہوں اور نہ رات کو)۔

پس تم ان حضرات کے حالت کو دیکھ کر اپنی حالت کو دیکھو (کہ کہاں تک ان حضرات کے مطابق ہے)۔ نیز جو لوگ اس زمانہ میں ظاہر ہوئے ہیں جو کہ حرام اور مشتبہ مال کھاتے ہیں، اور خوشبودار کپڑے پہننے، اور ان کی زبان پر اکثر یہ بات آتی ہے کہ وہ میاں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی اگر ہم حرام کھائیں گے تو اس سے ہمارے مرتبہ میں کوئی کمی نہ آئے گی، ان کے اس قول میں غور کرو (اور دیکھو کہ وہ اکابر سلف کے اقوال و احوال کے کہاں تک مطابق ہے)۔ غرض ان باتوں کو خوب سمجھو اور اگر تمہارا نفس نصیحت قبول کرے (اور کرنی چاہئے) تو اس سے مناقشہ کرتے رہو، (اور اسے آزاد نہ چھوڑو) والحمد لله رب العالمين.

علم پر عمل کی ضرورت

۷۸۔ اللہ والوں کے اخلاق میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اس بات کا بہت خوف رہتا ہے کہ مبادا ان کے علم اور ان کے عمل سے ان کے مخلوق خدا کو دین و دنیا کی بہبودی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جائے، جو ان کے دین کو بر باد کرے (مثلاً حب جاہ، حب مال اور جب ان کی یہ حالت ہوتی ہے) تو ہم کو ان میں سے کسی کی نسبت یہ نہ گمان کرنا چاہئے کہ وہ دنیا کے کسی کام میں سردار بننا چاہتے ہیں بلکہ ان کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ فتویٰ کو بھی ناپسند کرتے ہیں (گو بضرورت اسے اختیار کرنا پڑتا ہے) کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مفتی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے معاملہ میں مداخلت کرتا ہے اور اس سے فتویٰ کی گونہ نہ مدت مترخ ہوتی ہے، گو بضرورت کے لئے اس کا اختیار کرنا واجب ہے)۔

عبد الرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک سو میں صحابیوں کو دیکھا ہے جن کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے جو محدث ہوتا وہ اس کا متنی ہوتا

کہ کاش حدیث بیان کرنے کا کام کوئی اور اپنے ذمہ لے اور میں سبکدوش ہو جاؤں، اور جو مفتی ہوتا وہ اس کا متنی ہوتا کہ کاش فتویٰ کو کوئی اور اپنے ذمہ لے اور میں اس بار سے بچ جاؤں۔

یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ بات عالم کے دین میں خرابی پیدا کرنے والی ہے کہ کلام اس کو سکوت اور استماع سے زیادہ پسند ہو (مطلوب یہ ہے کہ ساکت ہو کر سننا اس میں دین کا زیادہ بچاؤ ہے بہ نسبت خود کلام کرنے کے، کیونکہ کلام میں مقتدا ایت کی شان ہے، جو مفضی ہے جب جاہ کی طرف نعوذ باللہ منہ)۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت عبادت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھیک ہے مگر اتنی بات ہے کہ ایک ہفتہ میں، یا فرمایا کہ ایک دن میں مہینہ بھر کا کلام کر لیتا ہے (مقصود یہ ہے کہ امام کثرت کلام کو ناپسند فرماتے تھے)۔

شعیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ابراہیم تھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ہی کوشش کی کہ کسی طرح مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیں مگر انہوں نے نہ ہی مانا، اور جب وہ مسجد میں تشریف لاتے تو نہ (بڑے لوگوں کی طرح) ستون سے ٹکیے لگاتے اور نہ دیوار سے (بلکہ معمولی آدمیوں کی طرح بیٹھ جاتے)۔

زہری رحمۃ اللہ علیہ باوجود تحریکی کے فتویٰ نہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ (فتاویٰ کے لئے بڑے علم کی ضرورت ہے)، جو شخص بلا تحریکی کے فتویٰ دے امام کو حق نہ ہے کہ وہ اسے سزادے، کیونکہ مفتی جہنم کے کنارے پر ہوتا ہے (ذرا چوکا اور دہم سے دوزخ میں گرا۔ پس جو شخص بلا کثرت علم کے فتویٰ دے گا، وہ گویا جہنم میں خود گرنا چاہتا ہے، اور امام کو حق ہے کہ اسے روکے)۔ میں کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے بہت سے حضرات مند افتاء پر نہیں بیٹھے، کیونکہ ان کو اپنے لئے احتیاط مقصود تھی۔

فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ میرے لئے لوگوں کو درہم و دینار دینا اس سے زیادہ بسند اور آسان ہے کہ میں ان سے حدیث بیان کروں۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمیوں کے جو توں کی کھٹ پٹ کے

ساتھ ہم سے احقوں کے دل بہت کم ٹھکانے رہتے ہیں، (مطلوب یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ خادمانہ طور پر اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ایسی حالت میں عجب اور کبر سے محفوظ رہنا ہر ایک کام نہیں، بلکہ بڑے لوگوں کا کام ہے)۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک روز مژکر دیکھا کہ کچھ لوگ خادمانہ طور پر پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ صاحبو اگر تم میرے وہ افعال دیکھو جو دروازہ بند کر کے کرتا ہو، یعنی خدا سے غافل ہو جانا، اور یہوی بچوں میں لگ جانا، تو پھر تم میں سے کوئی بھی میرے پیچھے پیچھے نہ چلے۔

ایک روز عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جار ہے ہیں اور لوگ ان کے گرد ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ درہ لے کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مارنے چڑھ گئے اور فرمایا کہ اس میں متبع کے دین کی خرابی اور تابع کی ذلت ہے۔

سلمان فارسی جب لوگوں کو اپنے پیچھے چلتا دیکھتے تو فرماتے کہ صاحبو! اس میں تمہارا تو فائدہ ہے مگر میرا نقصان ہے (کہ اس سے میرے اندر کبر و عجب پیدا ہوتا ہے)۔ اب اگر تم چاہو تو لوٹ جاؤ اور میرے پیچھے نہ چلو۔ جب کوئی ربیع بن خشم کے پیچھے چلتا تو فرماتے کہ صاحبو اگر مجھے تمہاری زبانوں کا ڈرنہ ہوتا تو میں تمہیں حدیثیں نہ سناتا (مگر چونکہ مجھے ذر ہے کہ تم مجھے برا بھلا کہو گے، اس لئے میں نے اس کو گوارا کر رکھا ہے)۔ اس پر کسی نے کہا کہ (آپ حدیث بیان کرنے سے اتنے کیوں بچتے ہیں؟ اس میں سراسر نفع ہے) ممکن ہے اللہ آپ کے اور آپ کے علم کے ذریعہ سے لوگوں کو نفع بخشے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بعید ہے کیونکہ جب خود مجھے نفع نہیں ہوا تو دوسروں کو کیا نفع ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ جو شخص اس کو پسند کرے کہ تم بغرض استفادہ اس کے پاس بیٹھو تو اس کے پاس نہ بیٹھو، اور جو شخص اس کو پسند کرے کہ تم اس کے لئے کھڑے ہو تو اس کے لئے کھڑے مت ہو (کیونکہ وہ خود میں، خود پسند ہے نہ وہ تعظیم

کے لائق ہے نہ استفادہ کے)۔

یحییٰ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی کو حدیث بیان کرنے میں لطف آئے تو اسے چاہئے کہ حدیث نہ بیان کرے، (کیونکہ یہ علامت ہے جب جاہ کی)۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی یہ حالت تھی کہ اگر ان پر کوئی حکمت کی بات منکشف ہوتی تو اسے شہرت کے ڈر سے چھپاتے تھے، حالانکہ اگر وہ اس کو ظاہر کرتے تو اس سے انہیں بھی نفع ہوتا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی نفع ہوتا۔ نیز جب لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تو اس وقت وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنا کوئی معتبر ملفوظ ان کے سامنے بیان کریں (کیونکہ ان کو شہرت کا خوف ہوتا تھا)۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو صرف اس کے خوف نے خاموش کر رکھا ہے ورنہ وہ خوب بولنے والے ہیں، (مطلوب یہ ہے کہ انہوں نے جو کلام ترک کر رکھا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں بولنا نہیں آتا، بلکہ انہوں نے خدا کے خوف سے خاموشی کو تکلم پر ترجیح دی ہے، اور تکلم کے مفاسد کو دیکھ کر کلام کو ترک کیا ہے)۔

حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خانقاہ میں (دکان جما کر) وہ بیٹھے گا جس کو دنیا سمیئنا مقصود ہو۔

اسمعیل بن خلف نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جب آپ حدیث کا درس دیتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں نشاط اور آواز میں بلندی ہوتی ہے، اور جب آپ حدیث کا درس نہیں دیتے ہوتے اس وقت آپ مردہ سے ہوتے ہیں۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں کہ کلام کے لئے بھی فتنہ ہے، واللہ جب میرے پاس تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو میری حالت اور کچھ ہو جاتی ہے (مطلوب یہ تھا کہ یہ جوش اور نشاط ایک مرض قلبی کا اثر ہے جس کا نام حب جاہ ہے۔ اس

واقعہ سے ان حضرات کے خلوص کا اندازہ کرنا چاہئے کہ اپنے عیب کو کس قدر صفائی سے بیان فرمائے ہیں۔

أنس بن مالک رضي الله عنه فرماتے تھے کہ الحقوں کا مقصود تو الفاظ نصوص ہوتے ہیں (بس انہوں نے الفاظ سیکھے اور ان کو بیان کرنا شروع کر دیا تا کہ لوگ ان کو عالم سمجھیں) اور علماء کا مقصود فہم دین ہوتا ہے (اور وہ نصوص میں غور کرتے اور ان کی بدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں)۔

ابراهیم نجعی رحمۃ اللہ علیہ وعظ کو ناپسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کام علی العموم الاماشاء اللہ طالبین شہرت کا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو فہمی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک واعظ کو وعظ کہتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص طالب شہرت ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پہچانو، میں فلاں ہوں۔

ابراهیم بن ادیم رحمۃ اللہ علیہ کا گذر امام اوزاعی کے حلقة درس پر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک بڑا انبوہ جمع ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ازاد حام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ہوتا تو وہ بھی اس سے عاجز ہو جاتے (اور اس کا تحمل نہ کر سکتے یعنی ان پر بھی اس کا اثر ہوتا اور ان کے نفس میں بھی خرابی آ جاتی)۔ اس کی اطلاع امام اوزاعی کو ہوئی تو انہوں نے اسی روز سے درس کے لئے بیٹھنا چھوڑ دیا۔

جبکہ عیسیٰ بن یوسف مکہ آئے تو مسجد حرام میں لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کے گرد ہجوم کر لیا (اور درس و مدرس کا سلسلہ شروع ہو گیا)۔ اتفاق سے ایک روز فضیل بن عیاض بھی وہاں پہنچ گئے (جب ان کے حلقة کی یہ حالت دیکھی) تو ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ بھائی اپنے دل کو دیکھ لو۔ شاید کثرت ازاد حام سے اس کی پہلی سی حالت نہ رہی ہو، سو تھوڑی دیر عیسیٰ نے اپنے نفس کو دیکھا اور دیکھ کر فوراً انہوں کھڑے ہوئے اور اس روز سے بیٹھنا چھوڑ دیا۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم ایسے عالم ہو

جس کو کوئی نہ جانے، تو ضرور ایسا کرو کیونکہ اگر لوگ تمہارے کمالات پر مطلع ہو جاویں گے تو تمہاری بویاں کھا جائیں گے۔

لوگوں نے سفیان بن عینہ سے اس کی درخواست کی کہ وہ ایک خاص مقام پر بیٹھ کر ان سے احادیث بیان فرمایا کریں۔ آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا، اور فرمایا کہ نہ میں احادیث بیان کرنے کا اہل ہوں اور نہ تم ان کے سننے کے اہل ہو۔ میری تمہاری بالکل ایسی مثال ہے جیسے کسی نے کہا ہے: رسوا ہو گئے تو آپس میں اصطلاح مقرر کر لی (کہ من ترا حاجی بگو یم تو مر حاجی بگو)۔

علقہ سے کہا گیا کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کر لوگوں سے حدیثیں کیوں نہیں بیان فرماتے کہ آپ کو اس پر ثواب ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا متکلم اس پر راضی نہیں ہے کہ وہ برابر سرا برچھوٹ جاوے کے نہ اس سے موافذہ ہو اور نہ اسے اجر ملے (مطلوب یہ تھا کہ تم مجھے ثواب کی امید دلاتے ہو مگر میں اس کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ نہ عذاب ہونے ثواب ورنہ ہم لوگ مستحق تو اس کے ہیں کہ ہمیں سزا دی جاوے، کیونکہ ہم میں نہ خلوص ہے اور نہ احتیاط فی المتكلم)۔

جب بشر حافی نے درس حدیث کے لئے بیٹھنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے یہ سوال ہو گا کہ تم نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں لوگوں کو سنانی کیوں چھوڑ دی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ جواب دوں گا کہ اللہ آپ نے مجھے خلوص کا حکم دیا تھا اور میں نے اپنے اندر خلوص نہ پایا، اس لئے میں نے چھوڑ دیا۔

سفیان ثوریٰ حدیث بیان کرنے بیٹھتے توجہ ان کو اپنے حسن بیان اور اپنے حلقہ کے بڑے ہونے کے سبب سرور محسوس ہوتا تو گھبرا کر اور خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے اور حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتے اور فرماتے کہ خدا کی پناہ ہم تو بے خبری ہی میں پکڑ لئے گئے تھے (خیر خدا نے خیر کی کہ جلدی ہوش آگیا)۔

میمون بن مهران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ واعظ تین باتوں میں سے ایک

بات سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ اپنے وعظ کو ایسی باتوں سے فربہ و با وقت کرے گا جس سے اس کا دین د بلا اور کمزور ہو (مثلاً موضوعات کا استعمال، یا عوام کے مذاق کی مناسب رعایت وغیرہ)، یا اپنے وعظ پر خوش ہو گا (جو کہ عجب ہے)، یا ایسی باتیں کہے گا جو خود نہیں کرتا۔ آہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت اکثری ہے ورنہ عارف سے شریعت اس کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے کلام کو فربہ و با وقت بنادے (تاکہ ان کو مقصود نصیحت حاصل ہو) اور اس کا بھی کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کو پسند کرے مگر اس لئے کہ وہ دوسرے کی بنائے شریعت ہے، اور اس کا بھی کہ وہ اپنے نفس کو اس بارہ میں متهم سمجھے کہ وہ جو کہتا ہے وہ خود نہیں کرتا، کیونکہ کوئی شخص اگرچہ وہ عمل میں اخلاص کی کتنی ہی کوشش کرے، حد ملامت سے نہیں نکل سکتا اور اصلاً ناقابل ملامت نہیں ہو سکتا۔ پس ضرور ہے کہ میمون بن مهران کے اس ملحوظہ عوام پر محمول کیا جاوے نہ کہ اس کو مطلق رکھا جاوے۔ (میں کہتا ہوں کہ اتنا تو صحیح ہے کہ اس کلام کا تعلق عوام سے ہے نہ کہ اہل اللہ سے، مگر اس کی وجہ وہ نہیں جو شیخ نے بیان کی، کیونکہ تو تمیں^(۱) قول اہل اللہ سے مطلوب ہے مگر وہ تمیں وہ نہیں ہے جس کا میمون کے قول میں ذکر ہے کیونکہ وہاں تمیں بما یہز ل دینہ مذکور ہے اور وہ اہل اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ علی ہذا عجائب بالقول گو عرفاء میں بھی ہوتا ہے مگر وہ اعجاب نہیں جس کا ذکر میمون رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے، کیونکہ وہاں اعجائب بالقول سے وہ اعجاب مراد ہے جو ناشی ہے خود پسندی سے اور یہ بات اہل اللہ میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس ملفوظ میں قول بما لا یفعل کا ذکر ہے نہ کہ اتهام نفس کا، اور یہ بات بھی اہل اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ پس یوں کہنا چاہئے کہ واعظ سے مطلقاً واعظ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عیوب بیان کئے گئے وہ اہل اللہ میں نہیں ہوتے بلکہ اس سے مراد خاص واعظ ہے یعنی وہ واعظ جو عامی ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

ابو مسلم خولا نی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ دوسرے

لوگ ان کے علم سے زندہ ہیں اور وہ اس سے ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعہ سے وہ خود پسندی اور خود بینی میں بنتا ہیں۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو علماء کا علم سمجھتے ہیں مگر کام احمدقوں کے کرتے ہیں۔

مالك بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اور ثابت بنانی اور یزید رقاشی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حدیث سننے کے لئے حاضر ہوتے تھے تو آپ ہم سے فرماتے تھے کہ تم لوگ اصحاب رسول اللہ ﷺ کے بہت ہی مشابہ ہو۔ پھر فرماتے (تم نہیں بلکہ) تمہارے سر اور تمہاری ڈاڑھیاں، (اس سے مقصود ایک خوبصورت عنوان سے ان کو نصیحت کرنا اور یہ جتنا ہوتا تھا کہ تم نے صورت تو صحابہ کی سی بنارکھی ہے مگر اعمال ان جیسے نہیں کرتے)۔

عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ صاحب علم جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کی ایسی مثال ہے جیسے وہ اندھا جو باتھ میں چراغ لئے ہوتا کہ اس سے دوسرا لوگ روشنی حاصل کریں (اور خود اس سے کچھ نفع نہ حاصل کرے)۔

وہیب بن الودود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر علماء جبکہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے تو لوگوں سے کہہ دیتے کہ ہمارے علم کو لے لو اور اعمال صالحہ کے ترک میں ہماری اقداء نہ کروتا کہ تم نجات پا جاؤ، تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا، مگر انہوں نے لوگوں کو دھوکا دیا اور علم کے ساتھ اس پر عمل کے بھی مدعی ہوئے، اور اس ذریعہ سے انہوں لوگوں کو اپنے گندے افعال کی طرف کھینچ لیا (جس سے خود بھی غارت ہوئے اور دوسروں کو بھی غارت کیا)۔

عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر تم داشمند عالم ہو تو اپنے کانوں کو چھلنیاں نہ بناؤ، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹے کو چھوڑ دیتی ہیں اور بھوسی کو روک لیتی ہیں (یعنی تم جب اچھی اور بری ہر قسم کی باتیں سنتے ہو تو یہ نہ کرو کہ اچھی باتوں کو تو اوپر ہی اوپر اڑا دیا، اور بری باتوں کو لے کر ان پر عمل کرنے لگے کیونکہ یہ بات داشمندی کے

خلاف ہے)۔

ابو سلیمان دارِ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم کو کسی عالم سے مناظرہ کرو اور وہ غصہ ہو جاوے تو اس سے مت ڈرو کیونکہ اس کے پاس دین کا سرمایہ نہیں رہا، مگر یہ اس وقت ہے جبکہ مناظرہ کرنے والے کے اندر مناظرہ کی قابلیت بھی ہوا اور اس کے اندر انصاف اور طلب حق بھی ہو، اور کوڑ مغزا اور کج فہم بھی نہ ہو، لیکن اگر کوئی مناظرہ کا اہل نہیں یا اس کے اندر انصاف اور طلب حق نہیں یا کوڑ مغزا اور کج فہم ہے جیسا کہ آجکل کے عوام یا مدعیان علم کی حالت ہے تو ایسی حالت میں اس پر غصہ آ جانا خلاف دین نہیں بلکہ فطری و طبعی امر ہے۔ اس پر اعتراض نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس میں قصور اس مناظرہ کرنے والے کا ہے نہ کہ غصہ کرنے والے کا۔ (۱۲۔ مترجم)

عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے اہل علم (تابعین) سے فرماتے تھے کہ تم نے علم کو بنا گا دیا اور اس کی قدر کھودی (کہ ہر نا اہل عالم بن بیٹھا)۔ بخدا اگر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مجھ سے شخص کو تمہیں حدیثیں تعلیم کرتے دیکھتے تو مجھے بھی پہنچے اور تمہیں بھی۔

اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بیس سے کوئی ایسا صاحب علم نہیں دیکھا جس کا مقصود علم سے رضاۓ خدا ہو بلکہ اب تو علم محتاجوں کا پیشہ ہو گیا ہے (جسے کھانے پینے کونہ مذکور نہیں کہ سوچا کہ چلو علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے دنیا سمیئنی شروع کی)۔

شعبہ فرماتے تھے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ محض خلوص سے حدیث کا طالب ہوا ہو، بجز ہاشم استوانی کے (ان کا نام ہشام ہے نہ کہ ہاشم تہذیب التہذیب میں ہشام بن ابی عبد اللہ وستوانی کے ترجمہ میں لکھا ہے، قال امية بن خالد عن شعبة ما من الناس احد اقول انه طلب الحديث يريد به وجه الله الا هشام و كان يقول ليتنا ننجو كفافا قال شعبة و اذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن ا هيئي امية بن خالد شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے

کوئی شخص ایسا نہیں جس کی نسبت میں (وثوق کے ساتھ) یہ کہہ دوں کہ اس نے حدیث کو محض خدا کے لئے طلب کیا ہے سوائے ہشام کے، اور باوجود اس کے وہ فرماتے تھے کہ کاش ہم برابر سرا برچھوٹ جاتے کہ نہ عذاب نہ ثواب یہ بیان فرمائ کر شعبہ فرماتے تھے کہ جب ہشام ایسا کہتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہئے۔ مترجم

ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانہ کے عالم خدا کو با توں ہی سے خوش کر دیتے ہیں اور (انہیں عمل کی ضرورت نہیں اسی لئے) انہوں نے عمل چھوڑ دیا ہے، اور سلف صالحین کی یہ حالت تھی کہ وہ کام کرتے تھے، زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، اس کے بعد وہ لوگ ہوئے جو کرتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے (یہ بھی غنیمت تھے)، اور اس کے بعد وہ ہوئے جو کرتے کچھ نہ تھے اور کہتے سب کچھ تھے (یہ بھی کسی قدر غنیمت ہیں)، اور آئندہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس کے لوگ نہ کچھ کریں گے اور نہ کچھ کہیں گے (یہ تو بالکل ہی ڈوب چکے ہوں گے)۔

عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دس دس آیت کر کے قرآن پڑھتے تھے (یعنی ایک مرتبہ دس آیتیں پڑھ لیں اور ان پر عمل شروع کر دیا جب سب پر عامل ہو گئے تو دس اور پڑھ لیں اور ان پر بھی عمل شروع کر دیا)۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک دہائی سے دوسری دہائی کی طرف اس وقت تک انتقال نہ کرتے تھے جب تک کہ وہ پڑھی ہوئی دس پر عامل نہ ہو جائیں۔

شعیٰ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اے عالم ہم کو فتویٰ دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھا یے شخص کو عالم نہ کہو۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے جوڑ خدا کے خوف سے الگ الگ ہو جائیں۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک عالم اپنے علم سے دنیا نہ کھینچے اس وقت تک وہ دین کا طبیب ہے، اور جب وہ دنیا کھینچنے لگا اس وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مرض کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب وہ خود مرض کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو دوسرے کا علاج کیا خاک کرے گا۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی امت سوائے اپنے علماء سوکی وجہ کے اور کسی سبب سے ہلاک نہ ہوگی۔ یہ لوگ خدا کے رستہ پر بیٹھ کر اپنے گندہ افعال سے اللہ کے بندوں پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ آہ۔

مالک بن مغول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علماء جبکہ وہ بکثر جانیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص علم کو خدا کے لئے طلب کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ زبد و رع خوف خدا سے مخلوق ہوگا اور لوگوں کی ایذا کا تحمل کرے گا۔

محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء رخصت ہو گئے اور ان کے علم کا بچا بچایا حصہ برے برتوں میں رہ گیا ہے، (یعنی آجکل کے عالم برے برتن ہیں اور ان کا علم اگلے علماء کا بچا بچایا حصہ ہے نہ کہ ان کا پورا علم)۔

یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم جب دنیا سے بے تعلق نہ ہو تو وہ اپنے زمانہ والوں کے لئے عذاب اور ذریعہ امتحان ہے، اور فرماتے تھے کہ اے اہل علم تمہارے گھر ایوان کسری بن گنے اور تمہارے اخلاق شیطانی اخلاق بن گنے تو اب محمدیت کہاں رہی (اس کا تو خاتمه ہو گیا)۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں ذرتا ہوں کہیں مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ اے عویس بتاتو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے رائخین فی العلم کی تفسیر دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے اور اپنے سلف کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

شعیی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو عالم عراق ہو کر یہ کہتے شرم نہ آئی کہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ فرشتوں کا ادب بھی ہم سے زیادہ ہے اور علم بھی مگر باس ہمہ نہیں یہ

کہتے شرم نہ آئی لا علم لنا الا ما علمنا یعنی جس قدر علم آپ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، تو مجھے کیا شرم آئے۔

کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آخرزمانہ میں علماء تقرب امراء پر یوں رشک کریں گے، جیسے عورتیں مردوں کے متعلق رشک کیا کرتی ہیں۔ یہ لوگ بدترین خلق اللہ ہوں گے۔

معتمر ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خبردار تم یہ نہ کہنا کہ صحابہؓ شطرنج کھیلتے، یا کسم کا رنگا کپڑا پہنتے یا نبیذ مثاث پہنچتے تھے کہ تم فاسق ہو جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو ممانعت کی اطلاع سے پہلے کیا ہے، اور تم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کے طور پر کرتے ہو، پس تم کو صحابہؓ سے کیا تعلق۔

حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص صرف علم کلام پر اکتفاء کرے گا اور نہ فقه حاصل کرے گا اور نہ زہد اختیار کرے گا اس کا انجام یہ ہے کہ وہ زنداق ہو جاوے گا (کیونکہ اس کا مدار عقلی گدوں پر ہوگا، اور دین کی خبر نہ ہوگی، تو زندقا لازم ہے) اور جو شخص زہد پر اکتفاء کرے گا، نہ علم کلام حاصل کرے گا اور نہ فقه، وہ بدعتی ہو جائے گا، (کیونکہ اپنی طرف سے عبادات کے طریقے ایجاد کرے گا، اور ان کو دین سمجھے گا، اور یہی بدعت ہے) اور جو صرف فقه پر اکتفاء کرے گا نہ زہد حاصل کرے گا نہ کلام، وہ فاسق ہو جائے گا (کیونکہ دنیا کے لئے خلاف افعال کا ارتکاب کرے گا) اور جوان تینوں کو جمع کرے گا وہ (زندقا بدعت) اور فتن سے نجات پاوے گا۔

تنبیہ اس مقام پر یہ امر قابل غور ہے کہ اگر کلام و فقہ سے معنی متعارف مراد ہیں تو بدلون زہد و فقہ کے ترندق لازم نہیں آتا، کیونکہ علم کلام سے کتاب و سنت کے مطابق عقائد کی اصلاح ہو جاوے گی اور اگر کلام سے عقلی گدے مراد ہیں اور فقہ سے مطلق علم دین، تو پھر کلام کی ضرورت ثابت نہیں ہوتی، اور دور زندقا بدعت اور فتن سے نجات صرف زہد و فقہ سے ہو سکتی ہے۔ مترجم

امام اوزاعی بنا اعراب کے کلام بولتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب اعراب

کا خیال ہوتا ہے تو پھر خشوع نہیں رہتا، ہم لوگ کلام کو اعراب دے کر اس کو ٹھیک کرتے ہیں، مگر عمل میں برابر غلطی کرتے رہتے ہیں (اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی)۔

ابو حفص مداد اپنے زمانہ کے علماء سے فرماتے تھے کہ صاحبوم لوگ جز کے جز اور دفتر کے دفتر کب تک لکھتے رہو گے، علم تو ایک ہتھیار ہے، پس جب دشمن آپنچا اور تم ابھی ہتھیار ہی اکھٹے کر رہے ہو تو آخر لڑو گے کب؟

امام مالک فرماتے تھے کہ جب عالم یہ چاہے کہ لوگ اس کو عالم صحیح ہے تو وہ شیطان سے بدتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کی یہ خواہش کہ لوگ عالم صحیح ہے، بلا ضرورت شرعی ہو۔

ابن السماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے عالموں سے فرماتے کہ تم میں بہت سے لوگ ہیں کہ اور وہ کو خدا کی یاد دلاتے ہیں مگر خود اس سے بھولے ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ دوسروں کو خدا سے ڈراتے ہیں مگر خود اس کی نافرمانی میں دلیر ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ دوسروں کو خدا سے قریب کرتے ہیں مگر خود اس سے دور ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ دوسروں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں مگر خود اس سے بھاگتے ہیں۔

ایک روز ایک عورت ابراہیم بن یوسف کے پاس کھڑی ہو کر ان کو دیکھنے لگی، آپ نے فرمایا کہ کیوں نی کیا کچھ کام ہے؟ اس نے کہا کام تو کچھ نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ عالم کی صورت دیکھنا عبادت ہے، اس لئے میں تمہیں دیکھتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اتنے روئے کیچکی بندھ گئی، اور فرمایا کہ اس عورت کو میرے بارے میں غلطی ہوتی، لی جن لوگوں کی صورت دیکھنا عبادت تھا، وہ چالیس برس سے مقبروں کے اندر مٹی میں سور ہے ہیں، جیسے احمد بن خبل، غلف بن ایوب شفیق بُخْجی، اور ان جیسے دوسرے حضرات۔ پس تو ان کی قبر پر جا اور ان کو دیکھ۔

بشر بن احادیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں جس کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جسے علم دیا گیا ہے یہ ہی دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے دین کے عوض میں روٹی کھار ہا ہے، بجز چار شخصوں کے۔ ایک ابراہیم بن ادیم، دوسرے وہیب بن الودود، تیسرا سلمان

خواص، چوتھے یوسف بن اسپاٹ۔

سفیان ثوریؓ فرماتے تھے کہ جس کو اس کا علم رولا دے اصل عالم وہ ہے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿اَنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اذَا يَتَلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلَّادْقَانِ سجداً﴾۔ نیز فرماتے ہیں: ﴿اَذَا تَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُوا سجداً وَ بَكِيَاً﴾، یعنی جب ان کے رو برو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرجاتے ہیں اھ۔

بس اب تمہیں اپنی حالت میں غور کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ آیا ان حضرات کی طرح تم نے بھی اپنے علم و عمل کا حق ادا کیا ہے، یا تم کو ان سے کچھ بھی علاقہ نہیں، اور رات دن بکثرت اپنے لئے استغفار کرتے رہنا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمین.

حکام سے علیحدگی

۷۹۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ جب ان کے معتقدین امراء سے ملتے ہیں تو وہ ان کو خوب سخت و سست کہتے ہیں، اور جوان کو فیضت کرتا ہے اس کی بہت قدر کرتے ہیں، اور جس قدر ان کو علم زیادہ ہوتا ہے اسی قدر وہ اپنے بارے میں فرق کا اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آدمی کی اکثر حالت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام علوم پر عمل نہیں کر سکتا، اور جب آدمی اپنے تمام علوم پر عمل نہیں کرتا تو جن علوم پر وہ عمل نہیں کرتا ان کے سبب اس پر فرق کا لفظ ضرور عائد ہو گا، چنانچہ منجملہ عمل بالعلم کے ایک یہ ہے کہ آدمی امراء سے دور رہے اور اپنے علم کو دنیا اور مراتب دنیا کے شکار کا جال نہ بناؤے، اور اپنے حلقوہ درس کے بڑے ہونے سے خوش نہ ہو، اور لوگوں کے اس کہنے سے لذت نہ حاصل کرے کہ فلاں عالم باعمل ہے، یا فلاں اپنے شہر کا سب سے بڑا عالم ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسا علم پر عمل نہ کرنا یہ ہے کہ ان کے خلاف باتوں کو حاصل کرے (اور جب کہ یہ امر معلوم ہو گیا کہ ان باتوں کا پابند ہونا علم پر عمل کرنا ہے، اور ان کے

خلاف کرنا اس پر عمل نہ کرنا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ان باتوں سے پورے طور پر بچنا بہت مشکل ہے اس لئے ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ فاسق ہیں)۔

سیدی علی خواص فرماتے تھے کہ آدمی کے علم پر عمل نہ کرنے کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی بزرگی کی شہرت کو پسند کرے، اور لوگوں کے اس کہنے سے کہ فلاں شخص محبت دنیا ہے، یا اپنے علم و عمل میں ریا کار ہے، وغیرہ وغیرہ ناک بھون چڑھائے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص امور مذکورہ سے خوش ہو، اور ان کی ضد سے ناخوش وہ اپنے علم پر عامل نہیں، اور اس کو اپنی حالت پر رونا چاہئے۔ (جاننا چاہئے کہ تعریف سے خوشی اور مذمت سے رنج کے دودر جے ہیں۔ ایک طبعی دوسرا اختیاری، یہاں خوشی اور رنج طبعی سے بحث نہیں، جو کہ ہر صحیح الادرارِ غیر مغلوب الحال کے لئے لازم ہیں، بلکہ خوشی و رنج اختیاری سے بحث ہے یعنی جو آدمی یہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اور مذمت نہ کریں، اور مدح کی صورت میں بوجہ حصول مطلوب کے خوش ہو، اور ذم کی صورت میں بوجہ فوات مقصود کے مغموم ہو، وہ شخص اپنے علم پر عامل نہیں، اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے، تحقیق یہ ہی ہے۔ اور اگر کسی بزرگ کے کلام سے خوشی و رنج طبعی کی مذمت بھی مفہوم ہو تو وہ ان کا غلبہ حال ہے یا مزید احتیاط۔ واللہ اعلم۔ مترجم)۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اکثر منافق قراء^(۱) ہوں گے۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں بھی بدکار قراء تھے، اور اس امت میں بھی اس قسم کی قراء ہوں گے۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ خدا سے ان امور سے پناہ مانگو جو دوسری صدی کے بعد قراء میں پیدا ہوں گے، اور سمجھ لو کہ جو شخص آگ میں فتن کے سبب داخل ہوگا، وہ عذاب میں ان لوگوں سے کم ہوگا جو بدعت کے ذریعہ سے اس میں داخل ہوں گے، اور ان سے بھی کم ہوگا جو اس میں تقرب خداوندی کے ذریعہ سے داخل ہوں گے

(۱) یعنی وہ اہل علم جو علمی مشغله رکھتے ہیں، جیسے درس و مدرسی، وعظ گوئی، افتاد وغیرہ ۱۲ امنہ۔

بشرطیکہ ان کو اپنے علم و عمل سے دکھا و مقصود ہو (کیونکہ نفس تقرب الی اللہ موجب دخول نار نہیں)۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص کھلے ہوئے گناہوں کے ذریعہ دوزخ میں جائے گا (مثلاً چوری کے ذریعہ سے، شراب خواری کے ذریعہ سے وغیرہ وغیرہ) وہ اس سے کم ہو گا جو اس میں دکھاوے اور شہرت کے سبب جاوے گا۔

حصیب مجھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم یہ نہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے زمانہ تک زندہ رہیں گے جس میں شیطان قراء کے ساتھ یوں کھیلے گا جیسے لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔

عبدالعزیز بن ابی روا در حمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زمانہ جاملیت کے فاسق ہمارے زمانہ کے قراء سے زیادہ شرم رکھتے تھے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یجھی مجھے ڈر ہے کہ جب قیامت میں کہا جاوے گا کہ فاسق قراء کہاں ہیں؟ تو کہیں میری نسبت نہ کہہ دیا جاوے کہ یہ بھی ان میں ہے، اسے بھی پکڑو۔

ایک شخص نے حماد بن زید سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا خبردار قراء کی فہرست میں اپنا نام نہ لکھانا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ قاری ہونا بری چیز ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آج کل قراء کی حالت نہایت کمزور ہے، اور قاری ہو کر دین کو بچانا بہت مشکل ہے۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قراء سے ڈرتے رہو اور مجھ سے بھی ڈرتے رہو، کیونکہ (ان لوگوں کی بد دینی اور نفسانیت کی یہ حالت ہے کہ) اگر میں اپنی محبت کے سبب نہ کسی کی عداوت کی وجہ سے ایک انار کے بارہ میں ان کی مخالفت کروں اور کہوں کہ وہ کھٹا ہے اور وہ کہیں کہ نہیں بلکہ میٹھا ہے، تو ان میں سے اکثر کی یہ حالت ہے کہ محض اتنے اختلاف کی بناء پر مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں وہ ظالم بادشاہ کے یہاں شکایت کر کے میرے قتل کی کوشش نہ کریں۔ (اب تم غور کر لو جن کی بد دینی اور نفسانیت کی یہ حالت ہو، وہ ڈرنے کے قابل ہیں یا نہیں)۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر قراء سے دور ہو، بھلا مجھے ان لوگوں سے کیا واسطہ جن کی حالت یہ ہو کہ جب مجھے راحت میں دیکھیں تو دیکھ کر جلیں، اور اگر لغزش کی حالت میں دیکھیں تو مجھے بدنام کریں۔

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو آج کل کے قراء کے پاس نہ بھٹکنا، کیونکہ شاید یہ کسی وقت تم پر حسد کریں اور تمہیں بدنام کرنے کے لئے تم پر جھوٹی تہمت تک لگاویں اور لوگ ان کی بات ہی مانیں گے (تو اس سے تمہیں ضرر پہنچ گا)۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تو یہ بات نہایت بری ہے کہ عالم کے اندر احتیاط کم ہو، اور دوسرے یہ بات نہایت بری ہے کہ (کوئی عالم کسی مالدار آدمی سے تعلق رکھے یا کسی مالدار عورت سے شادی کرے اور ان کے مال سے حج وغیرہ کرے اور لوگ کہیں کہ فلاں عالم فلاں امیر یا فلاں عورت کے روپیہ سے حج کرنے آئے ہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں آدمی کا نام سننا اس سے ملنے سے بہتر ہوگا، اور اگر اس سے ملوٹو صرف ملنا اس سے بہتر ہوگا کہ اس کا امتحان کرو، کیونکہ اگر تم اس کا امتحان کرو گے تو تم اس کو اور اس کے کام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو گے۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لوگ قراء کی کس طرح تعریف کرتے ہو، حالانکہ حالت ان کی یہ ہے کہ گرد نیں ان کی موٹی ہیں، کپڑے ان کے ہمین ہیں، گھیوں کا چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں (اور یہ تمام علامتیں ہیں اس بات کی کہ نہ ان کو خدا کا خوف ہے، اور نہ خدا پر بھروسہ کیونکہ) واللہ جس کو خدا کا خوف اور اس پر اعتماد ہوا س کے لئے را کھ پھانکنا بھی بہت ہے (چہ جائیکہ ترفہ و تنعم)

یوسف بن اس باط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے قراء سے کہا کہ اے جماعت قراء اب خوب دین کے عوض میں دنیا کھاؤ، کیونکہ امام ثوری کا انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ ﷺ

تمہیں لتاڑتے رہتے تھے (اور ان کی وجہ سے تم بھی خاموش تھے) اب کوئی پوچھنے کچھنے والا نہیں (اب خوب دین فروشی کرو)۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء^(۱) اس وقت تک ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہیں گے جب تک ان کے قراءاء امرا کی محبت کے ساتھ بھکھیں گے لیکن جب وہ ان کی طرف بھک جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا، اور ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، جو ان ان کو بری طرح عذاب دیں گے، اور ان کے دل میں ان ظالموں کی ہیبت ڈال دے گا۔

فرقد سنجی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کمبل پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ لیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کمبل کے ذریعہ سے تم کو لوگوں پر تفویق حاصل ہو جائے، یاد رکھو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اکثر دوزخی کمبل پوش ہوں گے (ان کا مقصود فرقہ کو نصیحت کرنا اور حب جاہ سے روکنا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ ایسی صورت میں بناؤ جس سے تمہاری طرف لوگوں کا رجوع ہو)۔

ایک مرتبہ مالک بن دینار سے کہا گیا کہ آپ اس جوان سے جو قاری اور مجاہد ہے کیوں بے رخی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے بے رخی کرتا ہوں کہ میں نے قراءہ کو خوب بھگتا ہے (جس سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بہت نکے ہوتے ہیں۔) خذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں عالم کے لئے اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حکام کے دروازوں پر جاوے، کیونکہ دنیا میں ان کے دروازہ فتنوں کے ٹھکانے ہیں (جہاں ہر قسم کے فتنے ملتے ہیں)۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو بادشاہ کے دروازہ سے بچنے کی یوں ہی تعلیم دی جاتی تھی جس طرح ہم کو سورۃ یا آیت قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی،

(۱) علماء قراءہ میں یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ علماء عام ہے قراءہ سے اور علماء وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں خواہ وہ علمی مشغله جیسے درس تدریس وعظ گوئی افتاء وغیرہ رکھتے ہوں یا نہ اور قراءہ وہ ہیں جو علمی مشغله رکھتے ہیں، اور اس لئے لوگوں میں معروف اور ممتاز ہے۔ واللہ اعلم

(یعنی ہمارے معلمین نہایت اہتمام کے ساتھ ہم کو بادشاہ کے دروازہ پر نہ جانے کی تعلیم و تلقین کرتے تھے)۔

سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کے دروازوں پر جاتا ہے تو (سمجھ لو کہ) وہ (دین کا) چور ہے (نہ کہ محافظ و پاسبان)۔

میمون بن مهران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بادشاہ کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا (اپنے نفس یا اپنے دین کو) سخت خطرہ میں ڈالنا ہے، کیونکہ اگر تو اس کی اطاعت کرے گا تو اپنے دین کو خطرہ میں ڈالے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالے گا، بس سلامتی اسی میں ہے کہ نہ تو اسے جانے اور نہ وہ تجھے جانے، اور جبکہ زہری نے بادشاہ سے اختلاط شروع کیا تو زاہد لوگ ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور فرمایا کہ ان کی وحشت میں ان کے منس بنا گئے۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہو، اور صحبت سلطان سے محترز ہو، وہ اس سے اچھا ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام لیل کرے اور جہاد و حجج بھی کرے مگر بادشاہ کے پاس بھی آتا جاتا ہو۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بلا ضرورت قاضی کے پاس جاتا ہے تو اس کے متعلق تم بہتری کی شہادت نہ دو (اور یہ نہ کہو کہ وہ اچھا آدمی ہے)، اور نہ اسے سلام کرو، بلکہ اسے بد دین خیال کرو۔

ضحاک بن مزاہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تمام رات ایسی بات تلاش کرتا رہا جس سے بادشاہ خوش رہے اور خدا نا راض نہ ہو، مگر مجھے کوئی بات نہ ملی (مقصود یہ ہے کہ بادشاہ کو خوش رکھ کر خدا کو ناخوش نہ کرنا، نہایت دشوار ہے، اس لئے اس سے الگ ہی رہنا بہتر ہے)۔

اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدتر حکام وہ ہیں جو علماء سے دور ہیں، اور بدتر علماء وہ ہیں جو امراء کے یہاں تقرب رکھتے ہوں (لہذا امراء کا فرض ہے کہ وہ علماء سے ملتے رہیں، اور علماء کا فرض ہے کہ وہ تقرب امراء کی کوشش نہ کریں)، اور کچھ

حدیثیں جو امراء کے قرب سے احتراز کی ہدایت کرتی ہیں، ہم نے ”عہود محمدیہ“ میں بیان کی ہیں اس کو دیکھ لینا چاہئے، القصہ تم اپنے اندر غور کرو کہ آیا جس طرح تمہارے سلف اخلاق حسنے کے ساتھ مخلوق تھا اس طرح تم بھی ان سے مخلوق ہو یا نہیں (اگر نہ ہو تو اس کی کوشش کرو۔) والحمد لله رب العالمین۔

حقوق العباد کا لحاظ

٨٠-الله والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ جب ان کے پاس ذاتی

مال نہیں ہوتا، اور ان کے نان و نفقة وغیرہ کا بار دوسروں پر ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو کپڑا اور کھانا وغیرہ نہیں دیتے (کیونکہ یہ حلوانی کی دکان پر ناناجی کی فاتحہ ہے) بلکہ وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ان کے معتقدین پر ان کا بارہنہ رہے (بعض بزرگوں کی عادت ہے کہ لوگ جو کچھ ان کی خدمت کرتے ہیں، اس میں سے وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں) اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ (جہاں تک ممکن ہوتا ہے) کسی کوننگا یا بھوکا نہیں چھوڑتے اور میرا مسلک بھی یہ ہی تھا مگر (یہ غلطی ہے اور) میرے شیخ سیدی محمد بن عبد اللہ و نیز میرے شیخ سیدی نور الدین نے مجھ سے اس مسلک سے توبہ کرائی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر سائل مجھ پر خدا اور رسول کی قسم کھالے (اور کہے کہ خدا کی یار رسول کی قسم میں تم سے ضرور لوں گا) تو اس وقت میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا تب بھی نہ دو، اور صرف یہ کہہ دو جل اللہ العظیم یا صل علی رسول اللہ ﷺ، کیونکہ کسی کی قسم پورا کرنا اس وقت مستحب ہے جبکہ خود اس کے پاس مال ہو، اور جس کا خرچ دوسرے لوگ اٹھاتے ہوں اس کو قسم کے پورا کرنے کا حکم نہیں، بجز مشرع طریقہ کے مثلاً کہ اس کے دے دینے میں کوئی مانع نہ ہو جو قسم پورا کرنے سے زیادہ نقصان رسائی ہو۔ (ایسی حالت میں مضائقہ نہیں کہ دے دیا جائے اور قسم پوری کر دی جاوے)۔ اور جب میرے احباب نے دیکھا کہ میں اپنا چونہ یا پوتین یا عمامہ سائل کو دے دیتا ہوں اور اس میں کچھ بھی پس و پیش نہیں کرتا تو انہوں نے یہ کا روای کی کہ جو

کپڑے وہ مجھے دیتے تو بعض تو ان کو مجھ پر وقف کر دیتے اور بعض بطور عاریت کے دیتے، اور بعض یہ قسم کھالیتے کہ اگر تم ہماری بلا اجازت کسی کو دو تو ہماری بیوی پر طلاق، غرض جس طرح ممکن ہوتا وہ مجھے پابند کرنے کی کوشش کرتے، بس یہ وجہ ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کسی کو کچھ دینے میں (بظاہر بخل کرتا ہوں ورنہ اگر کوئی مجھ سے میرا ذاتی مال مانگے تو میں دینے میں ہرگز دریغ نہ کروں گا اگرچہ میرا نیا چونہ یا اسی دن کا بنا ہوا صوف ہو۔ پس تمہیں چاہئے کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی سائل کسی شیخ طریق سے کوئی کپڑا وغیرہ مانگتا ہے اور وہ نہیں دیتا تو اس سے فوراً بدگمان نہ ہو جاؤ، اور یہ نہ کہو یہ درویشوں کے مسلک کے خلاف بات ہے، بلکہ اس سے پہلے واقعہ کی تحقیق کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس شیخ کے لئے بھی کوئی اس قسم کا اذر ہو جس کو میں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے بخل کے سبب اس کے دینے سے دریغ نہ کیا ہو۔ والحمد لله رب العالمین۔

اخفاء کرامت

۸۱- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حضرات اپنی ان کرامات کو ظاہر نہیں کرتے جن پر ان کے ہم عصر انکار کریں، کیونکہ اس اظہار میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر اس پر کوئی مصلحت شرعی مرتب ہو تو کرامت ان سے پہلے نہ کسی نبی سے صادر ہوئی نہ غیر نبی سے، (پس اس عام کا خصوص امکان سے نکل کر وقوع میں آگیا، اب اس عام سے احتجاج صحیح نہیں)۔

میں نے سیدی علی خواص سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ^(۱) کسی شخص کی اس وقت تک ولایت محمدیہ تک رسائی نہیں ہوتی، جب تک وہ جناب رسول اللہ ﷺ و خپرو الیاس علیہما السلام کے ساتھ اجتماع کا شرف نہ حاصل کرے اور پہلے تمام چے لوگ اسی روشن پر چلے ہیں، اس لئے بعض مجوہین کا اس سے انکار کرنا اس کی واقعیت میں قادر نہیں ہو سکتا۔

(۱) احقر کو ان دعاوی میں کلام ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر حق واضح فرمادے اگر میں اپنے خیال میں غلطی پر ہوں

سیدی شیخ ابوالعباس مری رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب سے فرماتے تھے کہ کیا کوئی تم میں ایک بھی ایسا ہے کہ جب وہ جناب رسول اللہ ﷺ کو سلام کرے تو اس کا جواب اپنے کانوں سے سنے، اس کے جواب میں وہ انکار کرتے اور کہتے کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جس کو یہ واقعہ پیش آتا ہو، اس پر فرماتے کہ تم اپنے دلوں کی حالت پر روؤں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہیں، پھر فرماتے کہ بخدا اگر میں تھوڑی دیر کے لئے بھی جناب رسول اللہ ﷺ سے محبوب ہو جاتا تو اپنے کو مسلمانوں میں شمارہ کرتا، اھ، میں کہتا ہوں کہ درویش کے مقام میں اور اس شخص کے مقام میں جو جناب رسول اللہ ﷺ سے فیض حاصل کرتا اور ان کے سلام کے جواب کو سنتا ہے، ایک لاکھ سینتالیس ہزار نو سونانوے مقام کا فصل ہے۔، اب اگر کوئی اس مقام کا دعویٰ کرے تو ہم اس سے درمیانی مقامات کی شرح کا مطالبہ کریں گے، اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ان کو نہیں جانتا تو ہم اس کی تکذیب کریں گے، چنانچہ کچھ لوگوں نے شیخ علی مرصفی کی حیات میں اس مقام کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے ان کو اپنے سامنے بلوا�ا اور جب ان کو دیکھا تو کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جن مقامات کے متعلق تمہارا دعویٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مقامات عطا فرمائے ہیں، میں ان کی تفصیل سننا چاہتا ہوں، مگر اس کا کسی کو جواب نہ آیا۔، پس آپ نے ان کوڈا نشا، اور حکم دیا کہ ان کو ہمارے پاس سے نکال دیا جاوے، پس وہ نہایت بری حالت میں مرے۔ پناہ بخدا پس تم کو چاہئے کہ کبھی کسی ایسے مقام کا دعویٰ نہ کرو جس تک تم نہیں پہونچے ورنہ اس کی سزا میں تم محروم کر دے جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں لوگوں نے مقام اجتماع مع رسول اللہ ﷺ سے کنارہ کشی اختیار کر کے پاشا اور دفتردار اور قاضی وغیرہ کے ساتھ اجماع کو مقام عالی قرار دیا ہے، اور جب وہ کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو فخر کہتے ہیں کہ میں نے پاشا سے کہا، اور پاشا نے مجھ سے یہ کہا، دفتردار نے مجھ سے یہ کہا وغیرہ غیرہ، (گویہ لوگ بھی برے ہیں، مگر ان لوگوں سے کم ہیں جو غلط طور پر کہتے ہیں کہ مجھ سے جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا، اور وہ فرمایا۔ پس اس کو خوب سمجھو۔ والحمد لله رب العالمین۔

عہدہ قضا سے بچنا

۸۲- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ اپنے معتقدین میں سے کسی کو عہدہ قضا یا اور کسی امانت کے کام کو اپنے ذمہ نہیں لینے دیتے جن میں اکثر گناہوں وغیرہ سے چھکارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر بقا عده شرعی اس کام کے لئے وہ لوگ معین ہو جاویں تو مجبوری ہے، اور وجہ اس کی ممانعت کی یہ ہے کہ احادیث میں ایسے امور سے بچنے کی ترغیب وار وہوئی ہے۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں نہ تم مؤذن بنو، اور نہ امام، اور نہ چودھری، اور نہ کسی سے فقیروں پر تقسیم کرنے کے لئے روپیہ لو۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ سب سے پہلے جو حساب کے لئے بلائے جائیں گے، وہ قاضی ہوں گے، اور ان میں سے بہت کم نجات پائیں گے، اور اکثر کوہرا ہو گی، اور ان کے معاونین بھی اس سختی میں ان کے شریک ہوں گے۔

ایک مرتبہ ہرم بن حیان قاضی بنادئے گئے، تو انہوں نے اپنے چاروں طرف آگ جلا دی جس نے لوگوں کو اس روز ان تک پہنچنے سے روک دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس سے استغفار دے دیا، اور جبکہ لوگوں نے امام ابوحنیفہؓ کو قضا کے لئے مجبور کیا، اور ان کو قید کر دیا، تو ان کا قاعده تھا کہ چند روز تک ان کو جیل خانہ سے بکال کر مارتے تھے، تاکہ وہ قاضی ہونا قبول کر لیں، مگر انہوں نے کسی طرح اسے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک روز بچوں کی طرح رونے لگے، اور فرمانے لگے بہت سے حق ایسے ہوتے ہیں جن کو قاضی باطل کر دیتا ہے، اور بہت سے باطل ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ حق کر دیتا ہے (پھر میں کیسے قاضی بن سکتا ہوں) اور جس نے ان کو قید کیا وہ ابن ہبیر ہ وزیر تھا۔

سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ میں^(۱) ایک روز کسی کو جبل قیس پر یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، کہ ہر کا لے گورے کے لئے خدا کی امان ہے، بجز سفیان

(۱) اس ملفوظ کی حقیقت میں اور اس امر میں کہ مؤلف اس کو خلق میں کیوں لائے غور کر لینا چاہئے۔ ۱۲ امنہ۔

بن عیینہ اور فلاں زندیق کے۔

سردوق رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کے ارشاد و اکالوں للسخت (یعنی یہود نے حرام کھانے والے ہیں) کی تقدیر فرماتے کہ قاضی کا ہدیہ یہ بھی سخت میں داخل ہے، اور جو شخص یہ چاہے کہ ان کو حکام غلام نہ بنائیں اسے چاہئے کہ سرکار نے اور نمک پر قناعت کرے (اور مرغ عن کھانوں کی ہوس نہ کرے۔)

میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے، کہ اس زمانہ میں حکومتوں کا حاصل جور اور ظلم ہے، اور اگر کوئی انصاف کرنا چاہے، تو وہ انصاف کرنہیں سکتا، کیونکہ آدمی اپنی بد اعمالیوں کے سبب عدل کے مستحق نہیں (اسی وجہ سے حق تعالیٰ ان پر ظالم حکام مسلط فرماتے ہیں)۔

شیخ موصوف کے واقف کاروں میں سے ایک شخص قاضی ہو گئے، آپ نے اسے ملامت کی، (اور فرمایا کہ تو نے بہت برا کیا، اور تجھے ایسا نہیں چاہئے تھا، اس نے عرض کیا کہ (میری نیت اس میں نیک ہے اور) میں محض اس لئے قاضی ہوا ہوں کہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہیں عن الممنکر کروں، اس پر شیخ نے اس سے فرمایا کہ یہ شیطان نے تجھے دھوکا دیا ہے، کیونکہ تجھے سے پہلے قاضیوں سے یہ امر نہیں ہو سکا۔

حالانکہ وہ زمانہ نصیحت کے قابل تھا، رہا یہ زمانہ کہ جس کی یہ حالت ہے کہ حکام خود ولایت اور بزرگی کے مدعی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اصل ولی تو ہم ہیں، کیونکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں، اور ہم انکے محتاج نہیں (اور جب ان کی کوڑ مغزی، خود رائی جرات و بیبا کی کی حالت ہے، تو تو امر بالمعروف و نہیں عن الممنکر کیسے کر سکے گا۔

میں نے خود سنا ہے کہ بعض مشائخ کسی افر کے یہاں گئے، اور ان سے کسی کی سفارش کی، اس نے صاف انکار کر دیا، اور اس نے قبول نہیں کیا (شیخ صاحب تو واپس تشریف لے آئے) اور وہ کہنے لگا کہ یہ مدعیان صلاح ہمارے یہاں جس کی سفارش کرتے ہیں، اس کی مصلحت و محبت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصود محض اپنی شہرت ہوتی ہے، ان کا نفس ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ جب وہ کسی کی سفارش کریں گے اور

مقبول ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ فلاں بزرگ مسلمانوں کے بہت غنوار اور ان پر نہایت مہربان ہیں، اور ان کے سوا مصر میں اور کوئی ایسا نہیں، جب یہ خبر مشہور ہوگی، تو سلاطین اور زراء کے کانوں تک بھی پہنچے گی، اور وہ ان کے لئے جا گیریں، اور روزینہ مقرر کر دیں گے، یہ وجہ تھی کہ میں نے ان کی سفارش قبول نہیں کی، اور اس میں خود ان کی مصلحت تھی کیونکہ مجھے ان پر اندیشہ ہوا، کہ مبارا یہ حضرت خود پسندی میں بتلا ہو جاوے، اور ان کا رہا سہادین بھی غارت ہو جاوے۔ آہ۔

میں نے بعض قاضیوں کو دیکھا ہے کہ جس روز ان کے یہاں آمد فی کم ہوتی اس روز آبنے گھر کا سامان پیچ کر سر کاری خزانہ میں داخل کرتے، اور فرماتے کہ ایسا نہ ہو میرا افسر مجھے معزول کر دیے (کہ قاضی ناقابل ہے) نوبت باس جاری کہ اپنے گھر کا سارا سامان اسی طرح عبده قضا کی نذر کر دیا، اور خود سامان دنیا سے خالی ہاتھ رہ گئے، اور میں نے بعض قصبات کے قاضیوں سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ جب کسی روز میرے یہاں آمد فی کم ہوتی ہے، تو کسی دولتمند پر جھوٹا دعویٰ کرادیتا ہوں، تاکہ آمد فی ہو جاوے (اور سر کار میں بدنامی نہ ہو) اب تو غور کرو، کہ ایسے لوگ کیسے حق کو حق اور باطل کو باطل کر سکتے ہیں، پس خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں سلامتی کی بات یہ ہی ہے کہ آدمی حکومتوں کو اپنے ذمہ نہ لے بھراں صورت کے کہ یا تو وہ شرعاً اس کام کے لئے متعین ہو، یا اس پر اس بارہ میں جبرا کیا جاوے۔ والحمد لله رب العالمین۔

تفقد احباب

۸۳- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے احباب کے حالات پوچھتے رہتے ہیں، مگر فضول نہیں بلکہ اس غرض سے کہ کھانا، کپڑا، روپیہ پیسہ قرضہ ادا کرنا یا کسی کی فکروں کا باراپنے سر لینا وغیرہ وغیرہ امور میں سے جس کسی چیز کی انہیں ضرورت ہو اس میں ان کی اعانت و ہمدردی کریں، اس خلق کے لوگ اس زمانہ میں نادر ہو گئے ہیں، کیونکہ آج کل عام طور پر لوگوں کی حالت اس کے خلاف ہے چنانچہ اکثر

ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ میاں تمہارا کیا حال ہے، اور اس کے جواب میں وہ اپنی حالت بیان نہیں کرتا، بلکہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا ہوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا دل میری ہمدردی سے خالی ہے (اس لئے اس سے اپنی حالت بیان کرنا بے سود ہے) اور یہ حال پوچھنا محض بے فائدہ اور صرف رسمی طور پر ہوتا ہے، چنانچہ مشاہدہ اس کا گواہ ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جاتے جاتے دوسرے سے پوچھتا ہے، کہو میاں کیا حال ہے، اور نہ پوچھنے والا جواب کے لئے تھہرتا ہے (بلکہ صرف کہہ کر آگے چل دیتا ہے) اور نہ جس کی حالت دریافت کی گئی ہے وہ کچھ جواب دیتا ہے (کیونکہ سمجھتا ہے کہ اس نے محض رسم پر عمل کیا تھا)۔

اسی طرزِ عمل کو دیکھ کر سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی غمنوواری کرنے اس کی فکروں کا باراپنے سر لینے یا اس کے لئے دعا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اسے ہرگز ہرگز نہ چاہئے کہ وہ یہ کہے کہ تمہارا کیا حال ہے کیونکہ یہ نفاق ہے (اس لئے کہ سوال سے ہمدردی و غمنوواری ظاہر ہوتی ہے اور دل سے نہیں تو ایسا سوال ضرور نفاق ہوگا۔)

حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ جب تم اپنے ساتھی سے کہو کہ کہنے صبح کس حالت میں ہوئی، اور وہ جواب میں کہے کہ مجھے کچھ ضرورت ہے اور یہ سن کر اڑا جاوے اور اسے کچھ نہ دے تو اس کا یہ پوچھنا کہ صبح کس حالت میں ہوئی اس کے ساتھ مذاق ہے اور یہ ہی بات اس زمانہ کے لوگوں پر غالب ہے۔

میں نے سیدی علی خواص سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ پہلے جو لوگ ایک دوسرے کی حالت پوچھتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، کہ غافل شخص کو خدا کے شکر پر متذہب کریں، تاکہ وہ خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس پر شکر کرے اور اس سے اس کو بھی فائدہ ہو، اور ان کو بھی (اور یہ عرف کہ مسؤول سائل کے جواب میں خدا کا شکر ہے یا بحمد اللہ اچھا ہوں، وغیرہ کہتا ہے، شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید کرتا ہے، مگر جس طرح آجکل سائل کا مقصود اداۓ رسم ہوتی ہے یونہی مسٹوں کا شکر رسمی اور اتباعِ محاورہ

کے طور پر ہوتا ہے۔ مترجم)۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے کس حالت میں صبح کی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جنہوں نے نہ کسی مریض کی عیادت کی، اور نہ وہ کسی جنازہ کے ساتھ گئے (مطلوب یہ تھا کہ میں نے آج عیادت بھی کی اور جنازہ کے ساتھ بھی گیا، اور اس عنوان سے سائل کو، اور دوسروں کو ان کاموں کی ترغیب مقصود تھی۔)

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں تمام ادیان باطلہ سے پھرا ہوا تھا بندہ اور اس کے احکام کا مامور تھا۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے کس حالت میں صبح کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں تمام ادیان باطلہ سے ساتھ شریک نہ کرتا تھا۔ اور احکام خدا کو ماننے والا تھا اور کسی کو اس سے ساتھ شریک نہ کرتا تھا۔

مالک بن دینار سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس حالت میں صبح کی کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں جنت کی طرف پلٹوں گایا دوزخ کی طرف۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی، انہوں نے (افسوس کے ساتھ) فرمایا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ خدا کا رزق کھاتا ہوں اور اس کا شکرانجام نہیں دیتا۔

عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس حالت میں صبح کی کہ نہ جن چیزوں کی مجھے امید ہے ان کے نفع پر مجھے اختیار ہے، اور نہ جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے، اور اس لئے ان سے بچنا چاہتا ہوں ان کے دفع پر مجھے قدرت ہے، اور میں اپنے عمل کی عوض میں رہن ہوں، اور معاملہ دوسرے کے اختیار میں ہے اور مجھے سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔

ربيع بن خشم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں کمزور ہوں گنہگار ہوں، اور اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔

ابوداؤ درحمة اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی، انہوں نے فرمایا کہ اگر دوزخ سے بچ جاؤں تو اچھی حالت میں صبح کی ورنہ بڑی حالت میں ہے۔

مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے کہا گیا، کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسی عمر میں صبح کی کہ وہ گھٹتی جاتی ہے، اور ایسے گناہوں میں صبح کی جو بڑھتے جاتے ہیں۔

حامد نصاف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی، انہوں نے فرمایا بخیر و عافیت، اس پر حاتم نے اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے حامد بخیر و عافیت پل صراط سے گذرنے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ہوگی (آج بخیر و عافیت کہاں) حامد نے کہا کہ بجا ارشاد ہے (واقعی میری غفلت تھی) پس ان باتوں کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ والحمد لله رب العالمين۔

شیطان کا مقابلہ

۸۳- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شیطان کی جنگ اور اس کے مکروں اور جالوں کے پہچاننے کی فکر اور کھود کرید سے غافل نہیں ہوتے اور یہ وہ خلق ہے جس کو اکثر لوگوں نے آجکل بالکل بھلا رکھا ہے (مگر ایمانہ چاہئے) کیونکہ جس طرح شیطان ایک دم ہماری طرف سے غافل نہیں ہوتا، ہمیں بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہئے، وہ ہر وقت گھات میں لگا رہتا ہے اور پورے طور پر اس کا خواہاں رہتا ہے کہ آدمی خدا کی ناخوشی میں بتلا ہو جاوے۔

حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر قائم کرتا ہے، اور لوگوں کے

گمراہ کرنے کے لئے اپنے چھوٹے اور بڑے لشکر بھیجتا ہے، اور سب سے بڑا مرتبہ اس کے نزدیک اس کا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں کو فتنہ میں ڈالے۔ آہ۔

وہب بن منبه رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے، کہ ابلیس ملعون نے عرض کیا کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں کی یہ عجیب حالت نہیں دیکھتے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور باوجود محبت کے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، اور باوجود عداوت کے وہ میرا کہنا مانتے ہیں، اس پر حق تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی، کہ میں نے ان کی کثرت نافرمانی کو اپنی محبت کی وجہ سے معاف کر دیا، اور ان کی اطاعت ابلیس کو اس کی عداوت کے سبب بخش دیا۔

فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ جب شیطان آدمی کے متعلق تمین باتوں میں سے ایک بات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس میرے لئے یہ کافی ہے اور اس کے سوا میں اس سے اور کچھ نہیں چاہتا، ان تمین میں سے ایک خود پسندی ہے، اور دوسری اس کا اپنے عمل کو بہت سمجھنا، اور تیسری اس کا اپنے گناہوں کو بھول جانا، ان میں سے جو بات بھی آدمی کے اندر پیدا ہو گئی، شیطان سمجھتا ہے کہ بس میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایک روایت میں بجائے تمین میں سے ایک کے چار میں سے ایک ہے، اور چوتھی بات بہت پیٹ بھر کر کھانا، اور یہ بات (گو بادی انظر میں معمولی معلوم ہو، مگر حقیقت میں) ان تینوں سے بڑی ہے، کیونکہ وہ تینوں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔

وہب بن منبه فرماتے تھے کہ خبردار ایسا ہرگز نہ کرنا کہ ظاہر میں شیطان کے ساتھ دشمنی کرو اور پوشیدہ طور پر اس کی اطاعت کرو، کیونکہ جو شخص خدا کی نافرمانی میں رات گزارتا ہے اس کی وجہ سے شیطان ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ دولہائی دہن سے۔

محمد بن ولیع رحمۃ اللہ کا قاعده تھا کہ وہ منہ اندھیرے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے ایک شب شیطان نے بوڑھے آدمی کی صورت بنائی اور چراغ لے کر ان کے آگے آگے ہولیا، سردی کی اندھیری رات تھی اتفاق سے ایک عورت نے اپنے درپچھے

سے یہ واقعہ دیکھا اور کہا کہ یہ جوان بھی کس قدر سنگ دل ہے کہ ایسی رات میں بدھ کو چراغ لے کر چلنے کی تکلیف دیتا ہے محمد بن واسع نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اسے مرنے دے خدا اس کو اور مارے تب شیطان نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا (اور اب میرا فریب چلنا مشکل ہے) (لہذا وہ چراغ گل کر کے بھاگ گیا۔

نیز ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ شیطان ملعون آدمی کی صورت بنا کر ایک گذری پہنچنے ہوئے اور گلے میں تسبیح ڈالے ہوئے اور کمر میں خدا والے مشائخ کی طرز کا پٹکا باندھے ہوئے حضرت جنیدؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں حضور کی خدمت کرنا چاہتا ہوں شاید حضور کی برکت کا مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے (آپ نے اس کی درخواست کو منظور فرمالیا) اور وہ میں برس تک آپ کی خدمت کرتا اور وضو کرتا تارہا، مگر ان کو بھکانے کا اس کو کوئی رستہ نہ معلوم ہوا ایک روز کسی وقت رخصت ہونے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو اسی وقت پہچان لیا تھا جب تو میرے پاس آیا تھا تو ابو مرہ ابلیس ہے، اس پر ابلیس نے کہا کہ حضرت میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے قدم پر ہو، یعنی کہ حضرت جنیدؓ نے فرمایا کہ اوملعون میرے سامنے سے دور ہو تو چاہتا ہے کہ جاتے جاتے مجھے ایسی بلا میں پھنساتا جاوے جو میرا دین بر باد کرے یعنی اپنی حالت پر نازار ہونا۔

محمد بن واسع ہر روز نماز فجر کے بعد یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ آپ نے ہم پر ایک ایسا دشمن مسلط فرمایا ہے جو ہمارے عیوب سے واقف ہے ہماری شرم ناک باتوں سے آگاہ ہے اور وہ مع اپنے قبیلہ کے ہم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے پس اے اللہ اسے ہم سے نا امید کر دے جیسا کہ تو نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور ہم سے اس کی آس توڑ دے جیسے تو نے اپنی عفو سے اس کی آس توڑ دی ہے اور ہمارے اور اس کے درمیان دوری کر دے جس طرح تو نے اس کے اور اپنی مغفرت و جنت کے درمیان دوری کر دی ہے، بیشک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اس پر

شیطان آدمی کی صورت بن کر آیا اور کہا کہ اے محمد یہ دعا تو کسی کو نہ سکھانا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تم سے برائی کے ساتھ تعرض کرنے نہ آؤں گا، اس کے جواب میں محمد نے کہا کہ میں کسی شخص سے اس کو نہ روکوں گا، اور تیرا جو جی چاہے کر لے۔

ایک روز ابلیس ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا اور کہا کہ اے روح اللہ کہو لا الہ الا انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بالکل حق بات ہے اور میں اسے کہتا بھی ہوں مگر تیرے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے نہ کہوں گا (کیونکہ اس میں تیرا اتباع ہے)۔ سیدی علی خواص فرماتے تھے کہ ابلیس کا مقصود یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توحید میں اپنا شاگرد بنالے مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور عصمت ان کو ایسا کرنے سے منع ہو گئی۔

کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کا ذکر شیطان کے حق میں ایسا ہے جیسا کہ آدمی کے حق میں گوشت کھانے والا زخم (یعنی جس طرح زخم مشکور آدمی کو نقسان پہنچاتا ہے یوں ہی ذکر اللہ شیطان کو نقسان پہنچاتا ہے)۔

عبد العزیز بن ابی رواد فرماتے تھے کہ میں نے ساٹھ (۶۰) حج کئے اور بہت سے نیک کام کئے مگر جب کبھی میں نے اپنے نفس کی جانچ پڑتاں کی تو میں نے ان میں شیطان کا حصہ خدا کے حصہ سے قوی تر پایا بس کاش کہ میں دنیا سے برابر سرا بر چلا جاؤں کہ نہ مجھے ان پر اجر ملے اور نہ مجھے سزا ملے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تم خوف فقر کے پاس نہ جانا، کیونکہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار جس سے وہ آدمی سے جنگ کرے خوف فقر سے سخت نہیں ہیں کیونکہ جب آدمی فقر سے ڈرے گا تو باطل طریق سے روپیہ حاصل کرے گا اور جائز طور پر صرف کرنے سے اسے روکے گا اور خواہش نفسانی کے موافق کام کرے گا، اور خدا کے ساتھ برا گمان رکھے گا اور اس طرح اس کو ہر قسم کی برائی حاصل ہو گی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مجھے پر خدا کی نعمت ہے کہ میں کبھی فقر سے نہیں ڈرا۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ شیطان کی کمرا لی کوئی نہیں توڑتا جیسی وہ شخص توڑتا ہے، جو خوبی کے ساتھ عمل کرتا ہے (خواہ کثرت نہ ہو کیونکہ) حق تعالیٰ (کو کثرت مطلوب نہیں بلکہ خوبی مقصود ہے چنانچہ) فرماتے ہیں لیبلو کم ایکم احسن عمل، یعنی تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ اچھے اعمال کوں کرتا ہے سو یہاں اس نے حسن اعمال کا ذکر فرمایا ہے) اور (بجائے احسن عمل کے) اکثر عمل نہیں فرمایا (تو معلوم ہوا کہ اعمال میں حسن مطلوب ہے نہ کہ کثرت)۔

نیز وہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کی عمر چالیس (۴۰) برس کی ہو جائے اور تمام گناہوں سے توبہ نہ کرے تو شیطان اسکی پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس مکڑے کے قربان جو کبھی کامیاب نہ ہوگا، میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید طبرانی وغیرہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو انہوں نے مرفوع اور ایت کیا ہے کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جاوے اور اس کی بھلانی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنا نجح کا نادوزخ میں بنالے۔

مجاہدؓ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک مصیبت اور لغزش کے موقع پر ابلیس کی کمر توڑ نے والی لا الہ الا اللہ کہنے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جب تم اس پر لعنت کرو گے تو وہ اس سے متاثر نہ ہوگا اور کہے گا (میں تو پہلے ہی سے ملعون تھا) تو نے ایک مور دلعت پر لعنت کی (اس سے تجھے کیا فائدہ اور مجھے کیا نقصان ہوا، مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں عرف تھا کہ کسی تکلیف کے پہنچنے یا گرنے کے وقت شیطان پر لعنت کرتے تھے مجاہد اس کی اصلاح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجائے لعنت کے ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ کہنا چاہئے تاکہ شیطان کے چوٹ لگے لعنت بے سود ہے۔ واللہ اعلم۔

سفیان بن عیینہ فرماتی تھے کہ شیطان کے پاس تین سو سانچہ چک ہیں جن میں اس کا بنی آدم کے لئے دھوکا اور ان کے ساتھ مکر درج ہیں اور وہ ان کو ہر روز ایک ایک کر کے قلوب بنی آدم پر پیش کرتا ہے تاکہ آدمی کسی نہ کسی دھوکہ اور مکر کو قبول کرے پس ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہئے۔

محمد بن سیرین فرماتے تھے کہ شیطان کے پاس کوئی مکراس سے بڑا نہیں کہ آدمی اپنے کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھے کیونکہ اگر آمی اسی حالت میں مر جاوے، تو وہ ایسی حالت میں مرے گا کہ خدا تعالیٰ اس سے ناخوش ہو گا اور اس کا کوئی عمل اس کے لئے نافع نہ ہو گا (بایس معنی کے اس کو دوزخ میں جانا ہی نہ پڑے، ایسا نہ ہو گا بلکہ وہ دوزخ میں ضرور جاوے گا اور سزا کے بعد اس کی مغفرت ہو گی، لیکن یہ ایک ضابطہ ہے اور خدا تعالیٰ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے فضل سے اس کا یہ گناہ معاف کر دے اور دوزخ میں اسے جانا ہی نہ پڑے اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے)۔

میمون بن مهران فرماتے تھے کہ بڑا دشمن وہ ہے جس کو تو نہ دیکھ سکے تاکہ اس سے مکر کرے (یعنی شیطان سے بڑا دشمن ہے کیونکہ اور دشمن دکھلائی دیتے ہیں اس لئے ان کے مکر سے بچنا اور اپنے مکر سے ان کو نقصان پہنچانا آسان ہے برخلاف شیطان کے کہ وہ دکھلائی نہیں دیتا اس لئے اس کے مکر سے بچنا اور اس پر اپنا داؤ چلانا مشکل ہے۔

جبیب عجمی فرماتے تھے کہاً گر حق تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ فرمائیں کہ تم صرف ایک سجدہ ایسا لے آہ جس میں نہ نفس کا حصہ ہو اور نہ شیطان کا تاکہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں تو مجھے ایک سجدہ بھی نہ ملے گا۔ آہ۔

پس تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہئے اور جب تم دیکھو کہ تم پیغمبarm عبادت کر رہے ہو تو یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اب شیطان کا تعلق تم سے منقطع ہو گیا ہے بلکہ اس میں اچھی طرح غور کرنا چاہئے اور پورے طور پر تفہیم کرنی چاہئے (کہ اس میں شیطان کا تو کچھ دخل نہیں) والحمد لله رب العالمین۔

تکبر سے اجتناب

۸۵ - اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی کہ وہ اسے امور سے نہایت

بچتے ہیں جن میں لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کی بو بھی ہو مثلاً ان کے بچوں یا خادموں یا

غلاموں کے جنازوں میں نہ شریک ہونا، اور جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرنا کیونکہ دردیشوں کو دین و دنیا میں لوگوں پر سرداری محض ان کے تزلل اور فروتنی کی بدولت ملی ہے (پھر وہ اس کو چھوڑ کر تکبر کیوں اختیار کر سکتے ہیں، پھر جب وہ جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو تابیوں پر جوان سے حق سبحانہ کے باب میں واقع ہوئی ہیں مغموم اور نادم ہوتے ہیں، اور (موت سے عبرت حاصل کرتے ہیں کیونکہ) حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کے لئے موت کافی واعظ ہے (اور اس کے بعد آدمی کو کسی واعظ کی ضرورت نہیں) اور نہ کوئی ان میں سے جنازہ کے رستہ میں دنیا کی بات کرتا تھا اور نہ کوئی مباح گفتگو کرتا تھا، چہ جائیکہ بری باتیں کرے، اور یہ خلق اس زمانہ میں لوگوں میں بہت کمیاب ہو گیا ہے، کیونکہ اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ جنازہ میں شریک ہی نہیں ہوتے لیکن) اگر بالفرض کوئی شریک بھی ہوتا ہے تو وہ اس وقت قصہ گوبن جاتا ہے (اور فضول قصہ شروع کر دیتا ہے) بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ مردہ کی چار پائی کے پاس ہنسانے والے قصے بیان کرتے ہیں چنانچہ میں نے اس واقعہ کے صدور کا ایک ایسے شخص سے مشاہدہ کیا ہے جو صوف کا عمامہ باندھتے ہیں خدا ہمیں بھی معاف کرے اور انہیں بھی اور حضرات سلف جنازوں میں معمولی کپڑوں سے شریک ہوتے تھے (بنٹھن کرنے جاتے تھے) کیونکہ وہ میت کے لئے شفاعت ہے اور جو حالت تزلل سے اقرب ہوگی وہ قبول شفاعت سے بھی اقرب ہوگی جیسا کہ علماء نے استفساء یاد فع و بانے کے لئے جانے کے باب میں بیان کیا ہے پس شرکت جنازہ کے وقت عمدہ کپڑوں سے اجتناب چاہئے بالخصوص اگر ان میں خوشبوگی ہوئی ہو تب تو اور بھی اجتناب چاہئے اس سے معلوم ہوا کہ جو دردیش جنازوں میں شریک ہوا اور بلا کسی صحیح غرض کے کپڑے عمدہ پہنے ہوئے ہو وہ احوال صوفیہ سے دور اور موت کی یاد سے غافل ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص طالب آخرت ہو گا وہ دنیا کو چھوڑ دے گا (اور ان لوگوں نے دنیا نہیں چھوڑی تو معلوم ہوا کہ یہ طالب آخرت نہیں پس ضرور موت سے غافل ہیں اور یہی مطلوب تھا)۔

نیز حدیث میں ہے کہ بیماروں کی عیادت کرو اور جنازوں کے پیچھے چلو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے، مقصود یہ ہے کہ جب تم آخرت کو یاد کرو گے تو دنیا کی رغبت تمہارے دل سے نکل جاوے گی (اور ان لوگوں کے دل سے دنیا کی رغبت نہیں نکلی پس ثابت ہوا کہ یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں) اور جب سلف جنازہ میں شریک ہوتے تھے تو موت اور ان احوال کی یاد کے سبب جو آدمیوں پر قبروں میں طاری ہوتے ہیں سوچ میں ڈوب جاتے تھے حتیٰ کہ بعض حضرات تو متواتر کئی روز تک مغموم رہتے تھے اور لوگ غم کے آثار ان کے چہروں پر پاتے تھے۔

یعنی بن ابی کثیر جب کسی جنازہ کے ساتھ جاتے تو لوگ ان کو مردہ کی چار پانی پر واپس لاتے تھے کیونکہ نہ وہ پیدل چل سکتے تھے اور نہ سوار ہو سکتے تھے اور ان کے شدت خوف کے سبب لوگوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان سے بات نہ کر سکتے تھے اور پہلے زمانہ کے لوگ جنازہ کے موقع پر آواز پست رکھنے کو پسند کرتے تھے اور جو آواز بلند کرتا اسے ڈانٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ تو نہایت سرکش ہے تجھے موت کو دیکھ کر نصیحت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ علماء جنازہ میں بلند آواز سے ذکر اللہ کرتے اور درود شریف پڑھنے کی اجازت نہ دیتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بک بک کرتے ہیں اس وقت انہوں نے سمجھا کہ ذکر اللہ دنیا کی باتوں سے اولی ہے (اور ذکر اللہ درود شریف کے ساتھ آواز بلند کرنے کی اجازت دے دی، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے حکم شرعی کو بدلتا بلکہ) محض اس وجہ سے کہ بعض ظلم بعض سے کم ہوتے ہیں (اس لئے گواں موقع پر بلند آواز سے ذکر اللہ کرنا اور درود شریف پڑھنا بھی زیادتی ہے مگر فضول بکواں کی نسبت غنیمت ہے لہذا بغرض تقلیل معصیت انہوں نے اس کی اجازت دے دی)۔
واللہ عالم۔

عبداللہ بن مسعود ایک شخص کو جنازہ میں ہنتے دیکھا تو آپ نے اسے ڈانٹا اور چند روز کے لئے اس سے بولنا بات کرنا چھوڑ دیا۔

حسن بصری نے ایک شخص کو قبرستان میں کھاتے دیکھا تو آپ نے اسے ڈانٹا

اور فرمایا کہ تو منافق ہے۔

اعمش فرماتے تھے کہ ہم لوگ جنازہ میں شریک ہوتے تو لوگوں پر اس قدر غم اور گریہ کا غلبہ ہوتا تھا کہ ہم یہ نہ معلوم کر سکتے کہ (کس کے یہاں میت ہوئی ہے، اور ہم کس کی تعزیت کریں)۔

حاتم اصم فرماتے تھے کہ جنازوں میں شریک ہو کر دل کا علاج فرض ہے۔

ابراہیم زیارت فرماتے تھے کہ جنازہ میں روتے دیکھتے تو فرماتے تھے کہ بھائی اپنی حالت پر رود (مردہ پر نہ رود بلکہ) اس کے لئے دعا رحمت کرو کیونکہ یہ مردہ تین (۳) معروکوں سے نجات پاچکا ہے ایک یہ کہ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، دوسرے موت کی گرمی کا مزہ چکھ لیا، تیسرا سوء خاتمہ سے بے کھٹکے ہو گیا بخلاف تمہارے (کہ تمہارے لئے یہ تینوں مرحلے باقی ہیں) اور آئندہ اس کے متعلق مزید گفتگو آئے گی (تم کو منتظر ہنا چاہئے) والحمد لله رب العالمین۔

نفاق سے احتراز

۸۶- اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان و نفاق کے اس مرتبہ پر رکھتے ہیں جس پر کہ وہ ہیں اور اس لئے ان کے یہاں منافق کا مرتبہ اس سے کم ہوتا ہے جو نفاق سے محفوظ مسلمان کا اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ وہ منافق کو کیوں کر پہچانتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ وہ ان کو ان علامات کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے جو جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کے متعلق بیان فرمائی ہیں مثلاً آپ نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا اور جب وہ کسی معاملہ میں امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ چار علامتیں ہیں اور چوتھی یہ ہے کہ جب وہ لڑتا جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ بکتا ہے نیز آپ نے فرمایا کہ منافقین کی چند علامتیں ہیں، پس تم ان کے ذریع سے انہیں منافق کہو، اور وہ علامتیں یہ ہیں وہ مساجد میں محض اس کو چھوڑنے کے

لنے آتے ہیں یعنی وہ مساجد میں بہت کم ٹھہر تے ہیں اور نماز میں سب سے پچھے آتے ہیں اور نہ تکبر کی وجہ سے وہ خود کسی سے میل میلا پ ان سے محبت رکھتے ہیں اور نہ ان سے کوئی رکھ سکتا ہے رات کے وقت مردار ہوتے ہیں یعنی پڑے سوتے ہیں اور دن کو بد اعمال، ان کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ منافق کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بہت کچھ اور کرتا ہے بہت کم۔

فضیل بن عیاض فرماتے تھے کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی ان اوصاف سے تعریف کریں جو اس میں نہیں ہیں اور اس کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ ان اوصاف سے مذمت کریں جو اس میں ہیں اور جو اس کے عیب اسے دکھلاتا ہے اس سے عداوت کر لیتا ہے، اور جب اپنے ہم عصر وہ میں سے کسی کا کوئی عیب نہیں ہے تو خوش ہوتا ہے۔

یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جو منافق کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ منافق کیوں کر رہیں آپ نے فرمایا کہ میں بسا اوقات سو (۱۰۰) عمدہ خصلتیں منتخب کرتا ہوں تو اپنے اندر ان میں سے ایک بھی نہیں پاتا اور سو (۱۰۰) بری خصلتیں چھانٹتا ہوں تو سب کو اپنے اندر پاتا ہوں (اور بظاہر مقدس پارسا ہوں یہ نفاق نہیں تو کیا ہے) پھر افسوس فرماتے اور کہتے کہ ارے میری بد نجتی قیامت میں میری کیسی رسوائی ہوگی۔

سفیان ثوری فرماتے تھے کہ جب صلحاء کا ذکر ہو تو ہم ان سے الگ ہوتے ہیں اور ہم کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں ہوتی اور جب ست اعمال لوگوں کا ذکر ہو تو ہم ان کے اندر ہوتے ہیں (مطلوب یہ ہے کہ ہم صلحاء کے گروہ میں نہیں بلکہ ہمارا شمارست اعمال لوگوں کے زمرة میں ہے)۔

مالک بن دینار فرماتے تھے کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کل کے لئے رزق اٹھا کر رکھے گا اور لوگوں سے دنیا کے بارہ میں مزاحمت کرے گا (اور چاہے گا

کہ کسی کونہ ملے سب میں ہی لے لوں) اور یہ چاہے گا کہ صرف میرا ہی شہر ہے۔
 ایک روایت میں ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں پر حسد کرتا ہے
 اور اس کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے کینہ اور برا یاں بھری ہوتی ہیں جو اسے
 ستائیں یا جاہ میں اس سے بڑے ہوئے ہوں پس تم اپنے نفس کو دیکھو اور اسے خوب
 ٹھولو، پھر اگر اس میں نفاق پاؤ تو اس کو اس سے پاک صاف کرو۔ والحمد لله رب
 العالمین۔

قلت اکل

۸۷۔ اللہ والوں کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا
 نہیں کھاتے تاکہ نماز میں خشوع پیدا ہو، اور پیٹ بھر کر کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے
 اس لئے اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھاوے اور چاہے کہ نماز میں خشوع پیدا ہو تو اس نے
 غلط راستہ اختیار کیا ہے (کیونکہ اس طرح کبھی خشوع نہیں پیدا ہو سکتا)۔
 جناب رسول اللہ ﷺ کی یہ حالت تھی کہ آپ سنئی کئی دن اور کئی کئی رات بھوکے
 رہتے اور شدت گرنگی سے شکم مبارک پر پتھر باندھتے اور جب آپ نماز پڑھتے تو آپ
 کے شکم مبارک میں سے ایسی آواز سنائی دیتی جیسی آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہانڈی میں
 سے نکلتی ہے چنانچہ یہ مضمون حدیث میں وارد ہوا ہے۔

عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ دورِ عتیس جو سوچ بچار کے ساتھ ہوں وہ
 تمام رات اس کے قیام سے بہتر ہیں جس میں دل خدا سے غافل ہو، میں کہتا ہوں مدد بر
 سے مراد آدمی گا وہ مدد بر ہے جو آداب متعلقہ صلوٰۃ و حضرت حق سبحانہ سے تعلق رکھتا ہو،
 اور استنباط احکام میں غور و فکر مرا نہیں ہے جیسا کہ با دی النظر میں خیال ہوتا ہے، کیونکہ
 نماز اس غور و خوض کا محل نہیں اسی لئے بعض علماء نے اس کی کراہت کی تصریح کر دی ہے
 (اور صاف فرمادی ہے کہ نماز میں مسائل استنباط کرنا مکروہ ہے)۔

ابن مسعودؓ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سکون کی یہ حالت ہوتی تھی

کہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کوئی کپڑا پڑا ہو اور استغراق کی یہ حالت ہوتی کہ جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو یہ کہتے سنتے کہ بات چیت موقوف کر دو کیونکہ عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرماتے کہ جس قدر تمہارا جی چاہے با تیں کرو میں نماز پڑھنے کی حالت میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔

حکم بن عثیمین فرماتے تھے کہ جو شخص نماز میں دائیں بائیں دیکھے اس کی نماز نہیں ہوتی (بایں معنی کہ وہ نماز نماز کہلانے کی مستحق نہیں ہے اور یہ مطلب نہیں کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے)۔

جب ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو غلبہ خوف سے اس قدر دل دھڑکتا کہ وہ دو میل سے دھڑکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔

سلمان فارسی فرماتے کہ جس کی نماز میں حضور قلب نہ ہو وہ مطوفین میں داخل ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے حق میں جو کچھ فرمایا ہے تمہیں معلوم ہی ہے چنانچہ فرمایا ہے ویل للطففین ان (پس اس سے ان نمازوں کی حالت معلوم ہو گئی جو بلا حضور قلب نماز پڑھتے ہیں، اب تمہیں چاہئے کہ بے حضور قلب نماز نہ پڑھو) کیونکہ جس معیار پر آدمی نماز پڑھے گا اسی معیار پر اسے اجر دیا جاوے گا (یاد رکھو کہ مطوفین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دیتے وقت کم ناپتے یا کم تولتے ہیں، اور لیتے وقت پورا لیتے ہیں، اور چونکہ ان کی نذمت کا مدار دوسرے کی حق تلفی ہے اس لئے بلا حضور قلب نماز پڑھنے والوں کو بھی ان کے حکم میں شامل کر لیا گیا کیونکہ وہ بھی حق تعالیٰ کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ ۱۲۔ مترجم)۔

ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یعقوب قاری چادر اوڑھنے نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں کسی نے اس کے شانے پر سے چادر اتار لی لوگوں نے چور کو گرفتار کر لیا اور دہم کا چمکا کر چھوڑ دیا اور چادر یعقوب کے گلے میں ڈال دی یہ سب کچھ ہوا مگر انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔

میں کہتا ہوں کہ یہی واقعہ ہمارے زمانہ میں سیدی محمد بن عنان کو پیش آیا،

وہ جامع بھیر میں نماز پڑھ رہے تھے اور گلے میں چادر پڑی تھی، چورنے گلے میں سے چادر نکال لی، چور گرفتار ہوا اسے مار پیٹ کر نکالا گیا اور ایک شور عظیم برپا ہوا یہ سب کچھ ہوا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی یہ ان اہل خشوع میں آخری شخص تھے جن کو ہم نے پایا ہے۔
سعید تنخی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو مینہ کی طرح ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔

رابعہ عدو یہ نماز پڑھ رہی تھیں اسی حالت میں ان کی آنکھ میں لکڑی گھس گئی اور سلام پھیرنے تک ان کو اس کا احساس نہ ہوا جب سلام پھیر چکیں تو کہا دیکھنا میری آنکھ میں یہ خشونت کیسی ہے لوگوں نے جو دیکھا تو لکڑی گھسی ہوئی تھی، اور چونکہ مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے اسے بدقسم نکالا۔

مجاہد فرماتے تھے کہ ہم نے علماء کو اس حالت میں پایا ہے کہ جب ان میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو خوف خدا کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ نہ وہ کسی شے پر نظر جما سکتا اور نہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال آتا۔

ایک مرتبہ مسلم بن یسیار جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اتفاقاً مسجد کا کوئی حصہ شہید ہو گیا، اس پر جتنے لوگ مسجد میں تھے سب بازار میں بھاگ گئے اور ایک شور برپا ہو گیا مگر مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی۔

خلف بن ایوب نماز پڑھتے ہوئے اور کھیاں ان کی آنکھ میں سے کچھ وغیرہ کھاتی ہوتیں تو آپ انہیں نہ اڑاتے تھے کسی نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رند لوگوں کو جس وقت مارتے ہیں تو ان پر کوڑے پڑتے ہوتے ہیں مگر وہ اف تک نہیں کرتے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بہت صابر ہے اور اس صفت پر وہ لوگ فخر کرتے ہیں، پس جب رندوں کا حکام کے کوڑوں کے ساتھ یہ برتاو ہے تو میں حق سجانہ کے سامنے کھڑا ہو کر مکھیوں کے سبب سے کیسے حرکت کر سکتا ہوں۔

سمیط بن عجلان فرماتے تھے کہ تم لوگ نماز میں خدا کے سامنے حاضر ہونے کا کیسے دعویٰ کرتے ہو جبکہ تمہاری حانت یہ ہے کہ اگر ایک پوکاٹ لیتا ہے تو اس کے

کائنے کا تمہیں احساس ہوتا ہے حالانکہ سلف کی یہ حالت تھی، کہ ان میں سے بعض کے نیزے یا تیر کی بھال بھونک دی گئی اور ان کو خبر تک نہ ہوئی حتیٰ کہ خون کے نکل جانے سے ان کی روح اندر اتر جاتی اور وہ کمزور ہو کر زمین پر گرد پڑتے۔

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی یہ حالت تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کی حالت بدل جاتی چہرہ پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا، تمام جسم میں لرزہ پڑ جاتا کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ یہ اس کی امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا گیا مگر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں نے نادانی سے اٹھا لیا، اب مجھے معلوم نہیں کہ جس امانت کا بار میں نے اپنے اوپر لیا ہے، اس کا حق اچھی طرح ادا کر دیا یا نہیں (یہ وجہ ہے میری حالت کے تغیر وغیرہ کی)۔

حسن بصریؓ فرماتے تھے کہ دنیا سے محبت کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور سلف کی یہ حالت تھی کہ جب وہ یہ سنتے کہ کسی نے نماز میں ادھراً دھر دیکھا ہے تو اس کو اس قدر عجیب سمجھتے کہ اگر وہ اپنے گھر بھی ہوتا تب بھی اس کے پاس جاتے اور کہتے کہ ہم نے سنائے کہ تم نے نماز میں ادھراً دھر دیکھا تھا اس کا کیا سبب ہے اور وجہ اس تعجب کی یہ تھی کہ وہ حق تعالیٰ کی عظمت سے واقف تھے، (اور اس نے سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہو کر ادھراً دھر دیکھے) ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی اسے غلط پڑھتے سناؤ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر فضیلت جماعت کا خیال نہ ہوتا تو میں تیرے پیچھے نماز نہ پڑھتا تو علماء سے عربیت کیوں نہیں پڑھ لیتا تاکہ قرآن میں غلطی نہ کرے۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ مجھے ان لوگوں کی حالت پر تعجب ہوتا ہے (کہ ان کی سمجھ کیسی اونڈھی ہے اور ان کے افعال کس قدر بے قاعدہ ہیں) کیونکہ اگر میرا کوئی بچہ مرجاً تھے تو ہزار آدمی سے زیادہ اس میں میری تعزیت کرتے ہیں اور میری جماعت قضا ہو جاتی ہے تو اس بارہ میں ایک شخص بھی میری تعزیت نہیں کرتا حالانکہ

میرے نزدیک جماعت کا فوت ہو جانا (چھوٹا بچہ درکنار) میرے عاقل بالغ عالم اور صالح بیٹے کے مرجانے سے بڑھ کر ہے۔

محمد بن واسع فرماتے تھے کہ مجھے دنیا میں دو چیزوں کی خواہش ہے ایک یہ کہ مجھے ایک خدا کے لئے محبت رکھنے والا نیک آدمی مل جاوے جس کی یہ شان ہو کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے۔ دوم یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں کبھی میری جماعت قضاۓ ہو۔

شفیق بلجی فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کی دو باتوں سے بہت خفا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اس کے وسوسہ کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے یہ کہ آدمی خدا کی ذات میں خوض چھوڑ دے۔ آ۔

اب تم اپنے نفس کو دیکھو اور اپنی حالت میں غور کرو کہ جس طرح ان حضرات کو نماز میں خشوع ہوتا تھا آیا تم کو بھی کسی وقت ہوتا ہے یا تم اس معاملہ میں ان کے بالکل خلاف ہو (چونکہ ظاہر شق ثالثی ہے اس لئے تم کو چاہئے کہ حتی الامکان اس کو حاصل کرو) اور حق تعالیٰ سے رات دن بکثرت استغفار کرتے رہو۔

والحمد لله رب العالمين۔

تمت بالخیر۔

آداب بندگی

لتصوف کی نادر کتاب، اولیا اللہ کے علوم و معارف کا مجموعہ

تألیف

حضرت العلام امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تشریح

شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب و عنوان اثر

مولانا شفیع اللہ صاحب

اساز ماسعہ دار العلوم کراچی

امارہ اسلامیات

کراچی، لامور